وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

شامِ کربلا

Darul Tehqeeq wa Difa-e-Sahaba
دار التحقیق ودفاع صحابہ
www.sunnilibrary.com

تصنیف لطیف

مجدّدِ مسلکِ اہل سنّت

فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ضیاء القرآن پبلی کیشنز گنج بخش روڈ اردو بازار لاہور

سُنی
لائبریری
SUNNI 313
WWW.SUNNILIBRARY.COM
دفاع اہلسنت و رد رافضیت

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں اُنھیں مُردہ نہ کہو۔ بلکہ وُہ زندہ ہیں، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔
(القرآن الکریم)

شامِ کربلاء

تصنیف لطیف

فاضل جلیل خطیبِ پاکستان

حضرت علامہ مولینا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالےٰ علیہ

ضیاءُ القرآن پبلی کیشنز

لاہور — کراچی ○ پاکستان

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

انتساب

بحضور

پیکرِ صبر و رضا

سید اہلِ وفا، نورِ دیدہ مرتضیٰ

شاہزادۂ بتولؑ، جگر گوشۂ رسولؐ

حضرت

سیدنا امام زین العابدین

علی (اوسط، السجاد) بن حسین

رضی اللہ تعالیٰ عنہما

بتوسط

آفتابِ شریعت، ماہتابِ طریقت

صاحبِ اسرارِ حقیقت

سیّدی و مولائی

حضرت گنجِ کرم، قبلہ علامہ پیر سید

محمد اسمٰعیل شاہ صاحب

بخاری

المعروف بہ

حضرت کرمانوالے علیہ الرحمۃ

شاہاں چہ عجب گر بنوازند گدا را

بندہ:

محمد شفیع الخطیب الاوکاڑوی

غفرلہٗ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

انتساب

بحضور

پیکرِ صبر و رضا

سیدِ اہلِ وفا، نورِ دیدۂ مرتضیٰ

شاہزادۂ بتولؑ، جگر گوشۂ رسولؐ

حضرت

سیدنا امام زین العابدین

علی (اوسط، السجّاد) بن حسین

رضی اللہ تعالیٰ عنہما

بتوسط

آفتابِ شریعت ماہتابِ طریقت

صاحبِ اسرارِ حقیقت

سیّدی و مولائی

حضرت گنج کرم، قبلہ علامہ پیر سیّد

محمد اسمٰعیل شاہ صاحب

بخاری

المعروف بہ

حضرت کرمانوالے علیہ الرحمۃ

شاہاں چہ عجب گر بنوازند گدارا

بندہ:

محمد شفیع الخطیب الاوکاڑوی

غفرلہٗ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ھو المعین

شاہ است حسین بادشاہ است حسین
دین است حسین دین پناہ است حسین
سر داد نداد دست در دست یزید
حقا کہ بنائے لا الٰہ است حسین

از حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ

اے صبا اے پیکِ دُور افتادگاں
اشک ما بر خاکِ پاکِ اُو رساں

بپاسِ خاطر جناب حافظ کوکب نورانی المحترم المکرم، کراچی

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

پیش لفظ

شامِ کربلا، جور و جفا اور ظلم و استبداد کے اُن کرب ناک واقعات کی رُوداد ہے جو رسوائے زمانہ، ننگِ خلائق یزید پلید اور اس کے اعوان و انصار کے سبب سے خانوادۂ رسُولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے مقدس و مطہر افراد کو پیش آئے۔ ان واقعات کو میرے والد گرامی مجدد مسلکِ اہلِ سُنّت خطیبِ پاکستان مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں سند اور صحت کے ساتھ جمع کیا ہے۔

نبی آخر الزماں رحمت دو جہاں شفیع عاصیاں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو دارِ فنا سے دارِ بقا کی طرف رحلت فرمائے ابھی پچاس برس ہی گزرے تھے کہ ۶۱ھ ہجری میں عراق کے شہر کوفہ سے کچھ فاصلہ پر کربلا کے مقام پر لشکرِ یزید نے فرزندِ رسُول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہٗ کو مسافرت کی حالت میں ان کے اہل اور رفقاء سمیت تیغ جفا سے شہید کر دیا۔ تاریخِ اسلام میں یہ دوسری مظلومانہ شہادت تھی۔ اس سے قبل مُسلمان کہلانے والوں نے ہی شہرِ رسُول میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ذی النورین حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہٗ کو قریبًا دو ماہ سے زائد عرصہ محصوُر رکھنے کے بعد شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین امام المتقین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کرنے والا بھی مومن ہونے کا مدعی تھا۔ خلافت راشدہ کا تیس سالہ خلافت علیٰ منہاجِ النبوت کا دَور حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنھما پر ختم ہو چکا تھا۔ ملوکیت کی ابتداء حضرت امیر معاویہ سے ہُوئی۔ وہ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر گئے۔ حجاز اور عراق کے مُسلمان یزید کی امارت پر راضی نہیں تھے۔ ان کے نزدیک امامت و امارات کے منصب کے اہل فرزندِ رسُول تھے کہ وہ تقویٰ و طہارت، علم و فضل،

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اخلاق و سیرت اور اس کے علاوہ نسب مرتبت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ فاسق و فاجر یزید پلید نے جاہ و مال کے خمار میں اُصولِ دین سے انحراف کیا۔ حدودِ اللہ کو معطل کیا اور اپنے منصب کے تحفّظ کے لیے فرزندِ رسُول کے قتل سے بھی باز نہ آیا۔

امام عالی مقام سیّدنا حسین بن علی رضی اللہ عنھما نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے دین کو اس کی اصل پر باقی رکھنے کے لیے عزیمت و استقامت کا مؤقف اختیار کیا اور اپنے منصب اور مرتبہ و مقام کے لحاظ سے راست اِقدام کرتے ہُوئے اسی کردار کا مظاہرہ کیا جو اُن کے شایان تھا۔ مؤرخین نے امام پاک کی عظمتِ مرتبت اور سیرت و سیادت میں کوئی اختلاف نہیں کیا البتہ بہت بعد کے چند متعصب خارجی و ناصبی اہلِ قلم نے واقعہ کربلا کو اپنے طور پر مسخ کر کے پیش کرنے کی جسارت کی، انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ امام پاک پر خلاف واقعہ باتوں کے بہتان لگائے اور ان کے بارے میں قابلِ مذمت انداز اختیار کیا جس سے ان کا مقصد جہاں اہل بیت سے اہلِ ایمان کی محبّت کو ختم کرنا تھا وہاں یقیناً اُمت میں فتنہ و فساد برپا کرنا بھی تھا۔ ایسے لوگوں کی سرکوبی علمائے حق کا شیوہ و شعار ہی ہے۔ ابّا جان قبلہ علیہ الرحمہ نے اس موضوع پر برسوں کی تحقیق کی اور دو دقیع اور مبسوط کتابیں تصنیف کیں۔ (۱) امام پاک اور یزید پلید' (۲) شامِ کربلا۔ پہلی کتاب میں امامِ پاک کے کردار کو قرآن وحدیث اور تاریخ وسیر سے ہم آئنہ کرتے ہُوئے ان کے مؤقف کو واضح کیا اور حقائق پیش کرتے ہُوئے اعتراضات کے جواب دیئے۔ دوسری کتاب میں حقائق پر مشتمل صحیح واقعات کی تفصیل لکھی۔ بفضلہ تعالٰے یہ دونوں کتابیں ہزاروں کی تعداد میں شائع ہُوئیں اور خواص و عوام میں مقبول اور شکوک و شبہات دُور کرنے میں مفید و نافع ثابت ہوئیں۔

واقعۂ کربلا' حق و باطل کا معرکہ تھا۔ امام پاک نے دینِ اسلام کا تحفّظ کیا۔ دین اپنی اصل میں موجود ہے، یہ ان کی بے مثال قربانی کا ثمر ہے۔ کیسا ستم ہے' جب کہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

لفظ یزید داخل دشنام ہو چکا، کچھ تیرہ بخت اپنی سیاہیوں میں اضافہ کرنے میں مشغول ہیں اور یزید پلید کو (معاذاللہ) امیرالمؤمنین، امام عادل اور خلیفۂ راشد کے خطابات سے یاد کر کے خدا و رسول کو ایذا پہنچا رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا ایک نمائندہ ابا جان کی ایک مجلس میں آیا اور لاف زنی کرنے لگا۔ ابا جان نے اس کے مبلغ علم کا اندازہ اس کی گفتگو سے فوراً کر لیا۔ فرمایا دلائل و براہین اپنی جگہ، آؤ فیصلہ کریں۔ تم بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، میں بھی اٹھاتا ہوں۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالےٰ میرا حشر امام حسین رضی اللہ عنہٗ کے ساتھ بلکہ ان کے محبوب غلام افراد میں کرے۔ تم اپنے لیے کہو کہ اللہ میرا حشر یزید اور اس کے حامیوں میں کرے۔ اگر تمہیں یزید کی صداقت پر اتنا یقین و اصرار ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ ہزاروں آنکھیں اور کان یہ منظر دیکھ اور سُن رہے تھے وہ شخص ہجوم میں سے ایک طرف نکل گیا اور ہرگز اُس دعا کے لیے آمادہ نہ ہُوا۔

ابا جان کو اللہ تعالےٰ نے علوم و معارف اور فیضانِ نبوی سے بہت نوازا تھا ان کے بعد یہ فقیر تو اس سلسلے میں حامیانِ یزید کو دعوتِ مباہلہ دے چکا ہے اور بفضلہٖ تعالےٰ اپنی دعوت پر ثابت و قائم ہے مگر کوئی قابل، مقابل نہیں ہُوا۔ دریں اثناء بارگاہِ امام پاک سے اس عاجز و ناکارہ کو خواب میں اذن باریابی کی نوید ملی اور پھر کچھ ہی دنوں بعد حاضری کا شرف حاصل ہُوا! کربلا میں ضریح مقدس کو تھامے۔ عقیدت و محبّت کے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اک ہوک اُٹھی۔ عرض کی اے امام پاک کاش مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوتی کہ میں واقعۂ کربلا کے موقع پر اپنی جان آپ پر قربان کرتا۔ محویت اور رقت کے اس عالم میں کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کوئی تمنا کرو۔ بے ساختہ میرے لبوں پر جاری ہوا، میرے معبود! مجھے دنیا و آخرت میں حسینی رکھنا۔ یہ بھی کرم تھا کہ میں یہ خواہش کر سکا۔ شامِ کربلا پڑھیے، جب آپ پر بھی خانوادۂ رسول کی محبّت کے سبب رقت طاری ہو، تو اسے کوئی مہربان ساعت جانیے اور کچھ ایسی ہی دُعا کر لیجیے اور یہ بھی کہ ربِّ مصطفےٰ جلّ و عُلا میرے ابا جان کی یہ خدمت قبول فرمائے۔

کوکب نورانی را احمد شفیع ۱۹۸۷ء

میں ممبئی، اجمیر، دہلی اور بریلی شریف گئے۔

❁ مارچ ۱۹۸۴ء میں شرق پور شریف گئے اور اپنے پیر و مرشد کی درگاہ پر حاضری دی جو وہاں اُن کی آخری حاضری ثابت ہوئی۔

❁ ۲۰ اپریل ۱۹۸۴ء کو آخری خطاب جامع مسجد گلزارِ حبیبؐ میں نمازِ جمعہ کے اجتماع سے کیا۔ اسی شب تیسری بار دل کا شدید دورہ پڑا اور قومی ادارہ برائے امراضِ قلب میں داخل ہوئے۔ تین دن بعد سہ شنبہ، ۲۱ رجب المرجب ۱۴۰۴ھ بمطابق ۲۴ اپریل ۱۹۸۴ء کی صبح ۵۵ برس کی عمر میں اذانِ فجر کے بعد باآوازِ بلند درود و سلام پڑھتے ہوئے خالقِ حقیقی سے جا ملے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

❁ ۲۵ اپریل کو نشتر پارک کراچی میں علامہ سیّد احمد سعید کاظمی کی امامت میں ظہر کی نماز کے بعد لاکھوں افراد نے حضرتِ خطیبِ پاکستان کی نمازِ جنازہ ادا کی۔ اور پیارے کملی والے تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشقِ صادق کو کمالِ محبّت و احترام سے رخصت کیا۔

اسی سہ پہر مولانا مرحوم مسجد گلزارِ حبیب کے احاطے میں مدفون ہوئے۔

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دائماً ابداً

(ہجری) ۱۴۰۴

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حالات وخدمات:۔ اپنے پیر و مُرشد حضرت ثانی صاحب شرقپوری اور عُلمائے اہلِ سُنّت کے ساتھ زمانۂ طالب علمی میں تحریکِ پاکستان میں بھرپور حصّہ لیا اور تقسیمِ ہند تک سرگرمِ عمل رہے۔

❁ ۱۹۴۷ء میں ہجرت کر کے اوکاڑا آ گئے اور جامعہ حنفیہ اشرفُ المدارس قائم کیا۔ جس کے بانیان اور سرپرستوں میں سے تھے۔

❁ دارالعلوم اشرفُ المدارس، اوکاڑا کے شیخ الحدیث و التّفسیر حضرت علّامہ مولانا غلام علی صاحب اشرفی اوکاڑوی اور مدرسہ عربیّہ اسلامیہ انوارُ العلوم ملتان کے شیخ الحدیث و التفسیر غزالیِ دَوراں حضرت علّامہ مولانا سیّد احمد سعید صاحب کاظمی سے تمام متداول دینی علوم پڑھے اور درسِ نظامی کی تکمیل پر اسناد حاصل کیں۔

❁ جامع مسجد مہاجرین مَنٹگمری (ساہیوال) میں نمازِ جمُعہ کی خطابت شروع کی۔ اس دوران برلا ہائی اسکول اوکاڑا میں دینیات کے معلّم رہے۔

❁ ۵۳-۱۹۵۲ء میں تحریکِ ختمِ نبوّت میں محض سیّدِ عالَم ختمی مرتبت حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلّم کی عزّت و ناموس کے لیے بھرپور حصّہ لیا۔ ضلع مَنٹگمری (ساہیوال) اور پنجاب کی سرکردہ شخصیت تھے، حکومت نے قید کر دیا۔ دس ماہ مَنٹگمری جیل میں رہے۔ اسیری کے ان ایّام میں حضرت مولانا کے دو فرزند تنویر احمد اور مُنیر احمد جن کی عُمر بالترتیب تین سال اور ایک سال تھی، انتقال کر گئے۔ یہ دونوں مولانا کے پہلے فرزند تھے۔ ان کی وفات کے سبب گھریلو حالات پریشان کُن تھے۔ کچھ بااثر لوگوں نے ڈپٹی کمشنر ساہی وال سے مِل کر سفارش کی۔ ڈپٹی کمشنر نے جیل کا دَورہ کیا۔ گرفتار شُدگان سے ملاقات کی اور مولانا اوکاڑوی کو بالخصوص الگ بُلا کر کہا کہ "بچّوں کی وفات

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کی وجہ سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے پاس آپ کے لیے بہت سی سفارشیں ہیں۔ آپ معافی نامے پر دستخط کر دیں۔ آپ کا معافی نامہ عوام سے پوشیدہ رکھا جائے گا اور آج ہی آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔" مولانا نے جواباً کہا کہ "میں نے عزّت و ناموسِ مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کیا ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ حضور اکرمؐ آخری نبی ہیں۔ لہٰذا معافی مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بچے اللہ کو پیارے ہو گئے میری جان بھی چلی جائے تب بھی اپنے عقیدے پر قائم رہوں گا اور معافی نہیں مانگوں گا۔"

اس جواب پر حکومت برہم ہوئی اور مزید سختی کی گئی۔ دفعہ ۳ میں نظر بند کر دیا گیا۔ اور ملاقات وغیرہ پر بھی سختی سے پابندی تھی۔ مولانا نے آخر وقت تک صبر و استقلال سے تمام صعوبتیں برداشت کیں۔

❁ اوکاڑا میں قیام کے دوران دینی و مذہبی اور ملّی سماجی امور میں ہمیشہ نمایاں طور پر حصّہ لیتے رہے۔

❁ ۱۹۵۵ء میں کراچی کے مذہبی حلقوں کے شدید اصرار پر کراچی آئے۔ کراچی کی سب سے بڑی مرکزی میمن مسجد (بولٹن مارکیٹ) کے خطیب و امام مقرر ہوئے اور ہمہ جاں، تادمِ آخر شب و روز دین و مسلک کی تبلیغ میں مصروف رہے۔

❁ میمن مسجد کی امامت و خطابت کے بعد تقریباً تین برس جامع مسجد عیدگاہ میدان اور سوا دو سال جامع مسجد آرام باغ اور بارہ برس نور مسجد نزد جوبلی سینما میں بلا معاوضہ خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے اور نماز جمعہ پڑھاتے رہے۔ ہر مقام پر زبردست اجتماع ہوتا۔ ان تمام مساجد میں بالترتیب تفسیرِ قرآن کا درس دیتے رہے اور تقریباً ۲۹ برس میں نو۹ پاروں کی تفسیر بیان کی۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اس دوران ۱۹۶۴ء میں، پی ای سی ایچ سوسائٹی میں مسجد غوثیہ ٹرسٹ سے ملحق جس کے آپ چیئرمین بھی تھے۔ ایک دینی درس گاہ قائم کی جس کا نام دار العلوم حنفیہ غوثیہ ہے۔ الحمد للہ وہاں سے متعدد طلبہ علومِ دینیہ حاصل کر کے چہار سمت تبلیغِ دین و مسلک کر رہے ہیں۔

۱۹۷۲ء میں ڈولی کھاتہ، گلستانِ شفیع اوکاڑوی (سولجر بازار) کراچی میں ایک قطعہ زمین پر جو گزشتہ سو برس سے مسجد کے لیے وقف تھا، مولانا نے تعمیرِ مسجد کی بنیاد رکھی اور بلا معاوضہ خطابت شروع کی۔ ایک ٹرسٹ قائم کیا۔ جس کا نام گلزارِ حبیب صلّی اللہ علیہ وسلّم رکھا۔ مولانا اس کے بانی و سربراہ تھے۔ اس ٹرسٹ کے زیرِ اہتمام جامع مسجد گلزارِ حبیب اور جامعہ اسلامیہ گلزارِ حبیب زیرِ تعمیر ہے۔ اسی مسجد کے پہلو میں آپؒ کی آخری آرام گاہ مرجع خلائق ہے۔

مسلسل چالیس برس تک ہر شب مولانا محترم مذہبی تقاریر فرماتے رہے ہیں۔ مولانا کی علمی استعداد، حُسنِ بیان، خوش الحانی اور شانِ خطابت نہایت منفرد اور ہر دلعزیز تھی۔ ہر تقریر میں ہزاروں، لاکھوں افراد کے اجتماعات ہوتے تھے۔ ماہِ محرّم کی شب عاشورہ میں مُلک کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع، مولانا کے خطاب کی مجلس کا ہوتا تھا۔ پاکستان کا کوئی علاقہ شاید ہی ایسا ہو جہاں حضرت مولانا مرحوم نے اپنی خطابت سے قلب و جاں کو آسودہ نہ کیا ہو۔

دین و مسلک کی تبلیغ کے لیے مولانا نے شرقِ اوسط، خلیج کی ریاستوں، بھارت، فلسطین، جنوبی افریقہ، ماریشس اور دوسرے کئی غیر مُلکی دورے کیے صرف جنوبی افریقہ میں ۱۹۸۰ء تک مولانا کی تقاریر کے ساٹھ ہزار کیسٹس فروخت ہو چکے تھے۔ دوسرے ممالک میں فروخت ہونے والی کیسٹس کی تعداد بھی کم نہیں اور

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اَب مَولانا کی تقاریر کی وِڈیو کیسٹس بھی پھیل رہی ہیں۔

❁ مَولانا اُوکاڑوی کی عالمانہ تحقیق، فقہی بصیرت اور عشقِ رسول صلّی اللہ علیہ وسلّم پر مبنی متعدّد تصانیف ہیں، جو مذہبی حلقوں میں نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ ہر کتاب ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو کر نہایت مقبول ہُوئی۔ ان کے نام یہ ہیں۔ ذکرِ جمیل، ذکرِ حسین (دو حصّے)، راہِ حق، درسِ توحید، شامِ کربلا، راہِ عقیدت، اِمام پاک اور یزید پلید، برکاتِ میلاد شریف، ثوابُ العبادات، نماز مترجم، سفینۂ نوح (دو حصّے)، مسلمان خاتون، انوارِ رسالت، مسئلہ طلاق ثلاثہ، نغمۂ حبیب، مسئلہ سیاہ خِضاب، انگوٹھے چُومنے کا مسئلہ، اخلاق و اعمال (نثری تقاریر) تعارف علمائے دیوبند، میلادِ شفیع، جہاد و قتال، آئینۂ حقیقت، نجوم الہدایت، مسئلہ بیس تراویح، مقالاتِ اوکاڑوی اور متعدد فتووں وغیرہ پر مشتمل رسائل وغیرہ۔

❁ ۱۶ اکتوبر ۱۹۶۲ءمیں کراچی کے علاقہ کھڈا مارکیٹ میں ایک سازش کے تحت اختلافِ عقائد کی بِنا پر کچھ لوگوں نے محض تعصّب کا شکار ہو کر دَورانِ تقریر مَولانا اُوکاڑوی پر چھُریوں اور چاقوؤں سے شدید قاتلانہ حملہ کیا جِس سے آپ کی گردن، کندھے، سَر اور پُشت پر پانچ نہایت گہرے زخم آئے۔ کراچی کے سِول ہسپتال میں دو دن کے بعد پولیس آفیسر کو اپنا بیان دیتے ہُوئے مَولانا نے کہا "مجھے کِسی سے کوئی ذاتی عناد نہیں۔ نہ مَیں مجرم ہُوں۔ اگر میرا کوئی جُرم ہے تو صِرف یہ کہ مَیں دینِ اِسلام کی تبلیغ کرتا ہُوں اور سیّدِ عالَم محسنِ انسانیت حضُور رحمتِ دو جہاں صلّی اللہ علیہ وسلّم کی تعریف و ثنا کرتا ہُوں۔ مَیں کِسی سے بَدلہ لینا نہیں چاہتا اور نہ مَیں حملہ آوروں کے خلاف کچھ کرنا چاہتا ہُوں میرا خُون

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ناحق بہایا گیا ہے۔ اللہ تعالٰی اسے قبول فرمائے اور میری نجات کا ذریعہ بنائے میں حملہ آوروں کو معاف کرتا ہُوں۔ باقی آپ لوگ بقائے امن کے لیے جو مناسب ہو وہ کریں تاکہ ایسی کارروائیاں آئندہ نہ ہوں" مولانا نے اس مقدمے کے لیے کوئی وکیل نہیں کیا نہ کسی مقدمے کی پیروی کی۔ صرف ایک گواہ کی حیثیت سے اپنا بیان دیا۔ مولانا کا اس حملے سے جاں بر ہونا محض ایک کرشمہ تھا۔ انگریزی روزنامہ ڈیلی نیوز کا پہلا شمارہ اُن ہی دنوں جاری ہُوا جس کی بڑی سُرخی مولانا پر قاتلانہ حملے سے متعلق تھی۔ مولانا ڈھائی مہینے ہسپتال میں زیرِ علاج رہے اور ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی پھر تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ اس قاتلانہ حملے کے خلاف مُلک بھر میں شدید احتجاج ہُوا۔

❁ ۱۹۶۵ئہ میں پاک بھارت جنگ کے موقع پر آپ نے پُورے مُلک میں جوش و جذبہ جہاد کے لیے مِلّت کی رہنمائی کی۔ قومی دفاعی فنڈ میں ہزاروں رُوپے دِیے اور اپنی تقاریر کے اجتماعات میں لاکھوں رُوپے کا سامان جو لباس اور اشیائے خورد و نوش پر مشتمل تھا، جمع کیا اور ہزاروں رُوپے نقدی سمیت علمائے کرام کے ایک وفد کے ساتھ آزاد کشمیر گئے اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مہاجرین کے کیمپوں وغیرہ میں بدستِ خود سامان تقسیم کیا۔

❁ آزاد کشمیر کے بائیس مقامات اور سیالکوٹ، چھمب جوڑیاں، لاہور، واہگہ اور کھیم کرن کے متعدد محاذوں پر جا کر مجاہدین میں جہاد کی اہمیت اور مجاہد کی عظمت و شان اور فی سبیل اللہ جہاد کے موضوع پر ولولہ انگیز تقاریر کیں۔

❁ حضرت مولانا اوکاڑوی مرکزی جماعتِ اہلسنّت پاکستان کے بانی تھے۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

❁ ۱۹۷۰ء میں قومی اسمبلی کے اُمیدوار کی حیثیت سے کراچی کے سب سے بڑے حلقے سے مولانا نے انتخاب میں حِصّہ لیا اور قومی اسمبلی کے رُکن منتخب ہُوئے۔

❁ قیامِ پاکستان سے تا دمِ آخر مولانا ایک مخلص اور مُحبِّ وطن پاکستانی اور سچّے پکے مسلمان ہونے کا بھرپُور مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ ان کی شخصیّت مُلک بھر میں بالخصوص اور دُنیا بھر میں بالعموم محبوب و محترم اور مقبول و ممتاز رہی۔

❁ حضرت مولانا محترم تحریکِ نظامِ مصطفےٰ صلّی اللہ علیہ وسلّم کے قافلہ سالار تھے۔ آج اِس تحریک کو جو مَرتبہ و مقام حاصل ہے۔ اس میں ان کی خدمات اور مساعیِ جمیلہ بُنیادی اہمیت و حیثیت رکھتی ہیں۔

❁ صَدرِ مملکت جنرل مُحمّد ضیأالحق کی قائم کردہ مجلسِ شوریٰ کے معزّز رُکن نامزد ہُوئے اور قوانینِ اسلامی کے ترتیب و تشکیل اور تنفیذ کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ علاوہ ازیں وزارتِ امورِ مذہبی کی قائمہ کمیٹیوں کے رُکن رہے۔ اپنی وفات سے چند ماہ قبل مرکزی محکمہ اوقاف پاکستان کے نگرانِ اعلیٰ اور یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے رُکن مقرر ہُوئے۔

❁ حضرت مولانا قومی سیرت کمیٹی کے بُنیادی رُکن رہے۔

❁ اتحادِ بین المُسلمین کے لیے مُلک بھر میں نمایاں خدمات انجام دیں قومی دفاعی فنڈ، افغان مجاہدین، سیلاب زدگان اور ہر ناگہانی سانحے سے متاثر ہونے والے افراد کی امداد میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حِصّہ لیتے رہے۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

- سولہ مرتبہ سفرِ حج و زیارت اور عمرہ کی سعادت سے مشرف ہُوئے۔
- ۱۹۷۴ء میں پہلی مرتبہ عارضۂ قلب کی شکایت ہُوئی مگر تبلیغی اور تنظیمی سرگرمیوں میں کوئی کمی نہیں کی بلکہ کچھ زیادہ جذبہ و جوش سے شب و روز چہار سمت میں صدائے حق بلند کرتے رہے۔
- حضرت مولانا نے کراچی شہر میں اہلِ سنّت وجماعت کی طرف سے دس روزہ مجالس محرّم اور جشنِ عید میلاد النّبی صلّی اللہ علیہ وسلّم کے جلوس و جلسہ کے انعقاد کا سلسلہ شروع کیا۔
- تین ہزار سے زائد افراد مولانا مرحوم کے دستِ حق پرست پر مشرّف بہ اسلام ہُوئے۔ اور ہزاروں افراد کے عقائد و اعمال کی اصلاح ہوئی۔
- حضرت مولانا مرحوم کو طریقت کے تمام سلاسل میں متعدد مشائخ سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ آپ کے مُریدین ہزاروں کی تعداد میں دُنیا بھر میں موجود ہیں۔
- حضرت مولانا قبلہ نے جنوبی افریقہ میں انجمن اہلِ سنّت وجماعت قائم کی۔
- پاکستان میں سُنّی تبلیغی مشن، انجمن محبّانِ صحابہ و اہلِ بیت، تنظیم ائمہ و خطبا مساجدِ اہلسنّت اور متعدد ادارے قائم کیے۔
- چالیس برس میں حضرت خطیبِ پاکستان نے اٹھارہ ہزار سے زائد اجتماعات سے سیکڑوں موضوعات پر خطاب کیا جو اَب تک ایک عالمی ریکارڈ ہے۔
- ۱۹۷۵ء میں دورانِ سفر، دُوسری مرتبہ دل کا دَورہ پڑا، اسی حالت میں کراچی آئے اور تقریباً چھ ہفتے ہسپتال میں زیرِ علاج رہے۔
- ۱۹۸۳ء میں آخری بیرونِ ملک سفر بھارت کے لیے کیا۔ اپنے دَورے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

مجدّد مسلکِ اہل سُنّت خطیبِ پاکستان

نام :۔ (مولانا) حافظ محمّد شفیع اُوکاڑوی

ولدیت :۔ حاجی شیخ کرم الٰہی مرحُوم و مغفور جو پنجاب کی معزز شیخ تاجر برادری سے تعلق رکھتے تھے۔

سنِ ولادت :۔ ۱۹۲۹ء۔ کھیم کرن مشرقی پنجاب (بھارت)

تعلیم :۔ اسکول میں مڈل تک اور دینی تعلیم۔ درسِ نظامی مکمّل و دورۂ حدیث و تفسیر

بیعت وارادت :۔ شیخ المشائخ حضرت پیر میاں غلام اللہ صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ المعروف حضرت ثانی صاحب قبلہؒ برادر خورد شیرِ ربّانی اعلیٰ حضرت میاں شیر محمّد صاحب شرق پوری علیہ الرحمۃ (سلسلۂ نقش بندیہ مجدّدیہ)

حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پُوری علیہ الرّحمۃ نے حاجی میاں کرم الٰہی کو مولانا اُوکاڑوی کی ولادت اور ان کے فضل و کمال کی بشارت پہلے ہی سے دے دی تھی۔ آپ کے والدین نے بھی آپ کی ولادت سے قبل مُبارک خواب دیکھے اور بیان کیے۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

فہرست

شہادت	۲۱
شہادت کی قسمیں	۲۲
شہید کا معنی	۲۳
آپ کو زہر دیا گیا	۲۴
اسبابِ شہادت	۳۴
محمد بن حنفیہ کا مشورہ	۳۸
ایک شبہ	۳۹
مدینہ منورہ سے رحلت	۴۱
عبداللہ بن مطیع سے ملاقات	۴۲
اہلِ کوفہ کے خطوط اور وفود	۴۳
حضرت مسلم کوفہ میں	۴۸
یزید کو اطلاع	۴۹
ابن زیاد کا کوفہ میں آنا	۵۰
شریک بن اعور	۵۲
مسلم کی تلاش اور جاسوس کی جاسوسی	۵۴
ہانی کی گرفتاری	۵۵
حضرت مسلم اور ابن زیاد	۶۷
حضرت مسلم کی شہادت	۶۸
ہانی کی شہادت	۶۹
فرزندانِ مسلم	۶۹
روانگی امام عالی مقام	۷۹
حضرت قیس کی شہادت	۸۷
عبداللہ بن مطیع سے ملاقات	۸۸
زہیر بن قیس البجلی	۸۸
شہادتِ مسلم کی خبر	۸۹
آپ کی تقریر	۹۰
درسِ عبرت	۹۶
طرماح بن عدی کا مشورہ	۹۹
سرزمین کربلا	۱۰۲
عمرو بن سعد	۱۰۴
درسِ عبرت	۱۰۷
پانی بند کرنے کا حکم	۱۱۰
ایک رات کی مہلت	۱۱۵
رفقائے سے امام کا خطاب	۱۱۶
رفقاء کا جواب	۱۱۸
دس محرم ۶۱ھ اور قیامتِ صغریٰ	۱۲۴
شمر کی گستاخی	۱۲۵
اتمامِ حجت	۱۲۵

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

درسِ عبرت ۱۳۱
حُر کا آنا ۱۳۲
حُر کا خطاب ۱۳۴
آغازِ جنگ ۱۳۴
عبداللہ بن عمیر کلبی ۱۳۶
کرامت ۱۳۷
حضرت عبداللہ بن مسلم ۱۵۰
پسرانِ حضرت عقیل ۱۵۱
فرزندانِ حضرت علی مرتضیٰ ۵۲
فرزندانِ حضرت امام حسن مجتبیٰ ۵۴
سیدنا قاسم بن حسن ۱۵۵
حضرت محمد و عون ۱۵۹
حضرت عباس علم دار ۱۶۱
اتمامِ حجت ۱۶۲
حضرت سیدنا علی اکبر ۱۶۵
معصومِ کربلا حضرت علی اصغر ۱۷۴
تاج دارِ کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ۱۷۸
اتمامِ حجت ۱۸۴
شہادت کے بعد کے واقعات ۱۹۳
شامِ کربلا ۲۰۶
کوفہ روانگی ۲۱۰
شہدا کی تدفین ۲۱۰
سرِ انور پر نور اور سفید پرندے ۲۱۱
سرِ انور اور ابن زیاد ۲۱۱
ابن زیاد اور اسیرانِ کربلا ۲۱۳
مسجدِ کوفہ میں اعلان فتح اور ابن عفیف کی شہادت ۲۱۵
دربارِ یزید ۲۲۳
پہلی روایت ۲۲۳
دوسری روایت ۲۲۴
تیسری روایت ۲۲۶
چوتھی روایت ۲۲۷
پانچویں روایت ۲۲۹
نتیجہ ۲۳۰
یزید کے گھر ماتم ۲۳۵
یزید کا سلوک ۲۳۵
اہلِ بیت کی مدینہ منورہ واپسی ۲۳۶
کربلا سے گزر ۲۳۷
تعداد شہدائے اہلِ بیت اور اعوان و انصار ۲۴۳
تعداد اسیرانِ کربلا ۲۴۴
یزیدی مقتولین کی تعداد ۲۴۶
مدفن سرِ انور ۲۴۶
کرامت سرِ انور ۲۴۸
واقعۂ کربلا کے بعد یزید کا کردار ۲۴۹
مکہ مکرمہ پر حملہ ۲۵۵

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

معاویہ اصغر	۲۵۸
قارئینِ کرام	۲۵۹
قاتلین کا انجام	۲۶۲
عمرو بن سعد	۲۷۳
خولی بن یزید	۲۷۴
شمر ذی الجوشن	۲۷۵
حکیم بن طفیل الطائی	۲۷۷
زید بن رقاد	۲۷۸
عمرو بن صبیح	۲۷۹
مختار کا دعویٰ نبوت	۲۸۳
فضیلتِ عاشورا	۲۸۶
اعمالِ عاشورا	۲۸۶
ذکرِ شہادت پر آنسو بہانا	۲۹۳
صبر اور جزع و فزع	۳۰۴
شیعہ مذہب کی معتبر کتب سے	۳۰۷
ارشاداتِ ائمہ اہلِ بیت	
ذکرِ شہادت کے مختصر فوائد	۳۱۶

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ
وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شہادت

شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی
وہ خوش قسمت ہیں مِل جائے جنہیں دولت شہادت کی
شہید اس دارِ فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں
زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں
یہ شہادت اک سبق ہے حق پرستی کے لیے
اک ستون روشنی ہے بحرِ ہستی کے لیے

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا (النسآء - ٦٩)

اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ ورسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور یہ ساتھی کیا ہی اچھے ہیں۔

س آیت سے دو امور ثابت ہوئے ایک یہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرماں بردار ہیں ان کو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کی رفاقت و معیت حاصل ہوگی۔ دوسرا یہ کہ نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلّم کی ذات اقدس میں ہر وہ انعام اور ہر وہ کمال جو کسی بھی مخلوق کو عطا ہوا بدرجہ اتم موجود تھا ہے

ہر رتبہ کہ بود در امکان بروست ختم ۔۔۔ ہر نعمتے کہ داشت خدا شد برو تمام

بلکہ جس کسی کو کوئی انعام وکمال ملا وہ آپ ہی کی بدولت ملا۔ تمام انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء میں جس قدر بھی جمال و کمال ہے وہ ظل اور عکس ہے جمال وکمالِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم کا ہے

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

کیونکہ آپ اصل کائنات ہیں۔ آپ کی ذات کائنات کے ہر ہر فرد کے لیے تمام فیوض وبرکات کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ جس طرح جڑ پورے درخت کی تازگی اور پھلوں کے جمال وکمال کا باعث ہوتی ہے اسی طرح آپ کی ذات تمام عالمین کے لیے ہر قسم کے انعامات وکمالات کا باعث ہے ہے

تو اصل وجود آمدی از نخست ۔۔۔ دگر ہر چہ موجود شد فرع تست

شہادت کی قسمیں

شہادت جہری اور شہادت سری یعنی اعلانیہ اور پوشیدہ، شہادت جہری یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کی راہ میں اعلاء کلمتہ اللہ کے لیے اللہ تعالےٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑتا ہوا اور طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرتا ہوا اعلانیہ جان دے دے یا مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے اور شہادت سری یہ ہے کہ کسی کے زہر دینے سے یا طاعون کی وبا سے یا اچانک کسی حادثہ کا شکار ہو جائے مثلاً کوئی عمارت گر جائے اور یہ نیچے آکر دب جائے یا کہیں آگ لگ جائے اور یہ جل جائے۔ یا تیرتا اور نہاتا ہوا یا سیلاب کی وجہ سے ڈوب جائے یا طلبِ علمِ دین یا سفرِ حج، یا پیٹ، اور سل اور دق کے مرض میں انتقال کر جائے اور عورت حالتِ نفاس میں مر جائے۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

شہید کا معنی

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الشہید فعیل بمعنی الفاعل وھو الذی یشھد بصحۃ دین اللہ تارۃ بالحجۃ والبیان واخری بالسیف والسنان ویقال للمقتول فی سبیل اللہ شہید من حیث انہ بذل نفسہ فی نصرۃ دین اللہ وشہادتہ لہ بانہ ھو الحق (تفسیر کبیر ص۲۶۲ ج۳)

شہید بروزن فعیل بمعنی فاعل ہے اور شہید وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی صحت و صداقت کی کبھی تو دلیل و برہان اور قوت بیان سے اور کبھی شمشیر و سنان سے شہادت دے اور اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو بھی اسی مناسبت سے شہید کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان قربان کر کے اللہ کے دین کی حقانیت کی شہادت دیتا ہے۔

اس معنی کے مطابق تسلیم کرنا پڑے گا کہ شہادت کا انعام و کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں بدرجۂ اتم موجود تھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حقانیت کی جس طرح آپ نے بے شمار دلائل و براہین اور روشن بیانات و معجزات کے ساتھ شہادت دی ہے اور کسی نے نہیں دی۔ کون نہیں جانتا کہ اسی دین حق کی صداقت کی شہادت کے سلسلے میں ہی آپ نے مکہ مکرمہ میں مسلسل تیرہ سال تک ناقابل برداشت اذیتیں برداشت کیں۔ گلیوں بازاروں اور طائف کے میدان میں پتھر کھائے اور نہایت نازیبا قسم کے کلمات سے۔ چنانچہ فرمایا جس قدر میں اللہ تعالےٰ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی پیغمبر نہیں ستایا گیا۔ یہاں تک کہ وطن اور گھر بار چھوڑ دیا۔ مدینہ منورہ میں آکر بہت سی جنگوں میں بنفس نفیس شرکت فرما کر شمشیر و سنان کے ساتھ بھی گواہی دی۔ دندان مبارک شہید ہوا زخمی بھی ہوئے۔ فرق رہ گیا صرف روح اقدس کے نکلنے کا اور وہ میدان جنگ میں اس لیے نہیں نکلی کہ اللہ تعالےٰ نے آپ سے یہ وعدہ فرمایا تھا وَاللّٰہُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ آپ کی جان کو لوگوں سے بچائے گا۔ تو اگر کسی جنگ میں آپ کسی کافر کے ہاتھ سے قتل ہو جاتے اور آپ کی روح انور پرواز کر جاتی تو کافروں کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور قرآن کی تکذیب کا موقع مل جاتا کہ اس نبی کے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

خدا نے تو لوگوں سے ان کی جان بچانے کا وعدہ کیا تھا تو پھر اس نے کیوں نہیں بچائی۔ ہم نے تو فلاں جنگ میں اُن کا کام تمام کر دیا۔ ثابت ہوا کہ شہادت جہری کی حقیقت آپ کی ذات پر بدرجۂ اتم پوری ہوئی۔

آپ کو زہر دیا گیا

غزوہ خیبر میں ایک یہودیہ عورت زینب بنت الحارث نے بکری کا بھنا ہوا زہر آلود گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً بھیجا آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو اس بھنے ہوئے گوشت نے آپ کو خبر دی کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحابی حضرت بشر بن براء نے بھی کھایا تھا جو اسی وقت اس کے اثر سے شہید ہو گئے۔

آپ نے اس یہودیہ کو بلا کر پوچھا کہ تجھے اس حرکت پر کس چیز نے اکسایا؟ اس نے کہا۔

اردت ان اعلم ان کنت نبیا لم یضرك وان کنت ملکا ارحت الناس منك۔

میں نے چاہا کہ میں (بطور امتحان) معلوم کروں کہ (آپ نبی ہیں یا بادشاہ) اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ سے راحت و آرام دلا دوں گی! (طبقات ابن سعد ص ۱۷۲ ج ۱)

چناں چہ وہ حضرت بشر کی شہادت کے قصاص میں آپ کے حکم سے قتل کر دی گئی۔

علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:۔

وقد ثبت ان نبینا صلی اللہ علیہ	اور بے شک یہ بات ثابت ہو گئی ہے
وسلم مات شہیدا لاکلۃ یوم خیبر	کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت
من شاۃ مسمومۃ سما قاتلا من ساعۃ	کی وفات پائی اس لیے کہ آپ نے خیبر
حتّٰی مات منہ بشر ابن البراء بن معرور	کے دن ایسی زہر ملائی ہوئی بکری کے
صار بقاؤہ صلی اللہ علیہ وسلم	گوشت میں سے کھایا جس کا زہر ایسا قاتل
معجزۃ فکان بہ الم السم یتعاھدہ	تھا کہ اسی وقت موت واقع ہو جائے۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

احیاناً الی ان مات بہ (زرقانی علی المواہب ص۳۱۳/۸)

چناں چہ اس زہر کے اثر سے بشر بن براء بن معرور اسی وقت فوت ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی رہنا معجزہ ہو گیا وہ زہر آپ کو اکثر تکلیف دیتا رہتا تھا یہاں تک کہ اسی کے اثر سے آپ کی وفات ہوئی۔

علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :۔

واخرج البخاری والبیہقی عن عائشۃ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی مرضہ الذی توفی فیہ لم ازل اجد الم الطعام الذی اکلت بخیبر فھذا اوان انقطع ابھری من ذلك السم۔ (انباء الاذکیاء بحیاۃ الانبیاء ص۱۴۹)

امام بخاری اور امام بیہقی نے حضرت عائشہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے کہ میں نے خیبر میں جو زہر آلود گوشت کھایا تھا اس کی تکلیف ہمیشہ محسوس کرتا رہا ہوں تو اب وہ وقت آپہنچا کہ اسی زہر کے اثر سے میری رگِ جان منقطع ہو۔

معلوم ہوا کہ جس طرح شہادت جہری کی حقیقت آپ کی ذات پر پوری ہوئی تھی اسی طرح شہادت سری کی حقیقت بھی آپ کی ذات پر پوری ہوئی کہ آپ کو زہر دیا گیا مگر اس کے اثر سے فی الفور آپ کی وفات واقع نہ ہوئی اس لیے یہاں بھی وہی وعدۂ خداوندی وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اس کے لیے مانع ہوا اور زہر کا آپ پر اثر انداز نہ ہونا آپ کا معجزہ ہو گیا۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ دونوں شہادتوں کی حقیقت آپ کی ذات پر پوری ہوئی۔ تو اب یہ دیکھئے کہ ان دونوں شہادتوں کا ظہور کہاں جا کر ہوا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :۔

ان الحسن والحسین هما ریحانتای من الدنیا۔ (مشکوٰۃ)

کہ بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔

اور ظاہر ہے پھل اور پھول میں جمال و کمال حقیقت میں اصل کا ہی ہوتا ہے تو ان دونوں پھولوں کو اصل سے جمال کا فیض بھی ملا اور کمال کا فیض بھی۔ چناں چہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

فرماتے ہیں :-

الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس	کہ حسن سینے سے لے کر سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ
والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلك۔	اور حسین سینے سے لے کر نیچے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔

(ترمذی شریف)

اعلیٰحضرت امام اہل سنت مولٰنا شاہ احمد رضا خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ؎

ایک سینہ تک مشابہ اک وہاں سے پاؤں تک   حُسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا
صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں   خطِ توام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا   تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا

توجس طرح یہ دونوں شاہ زادے مظہرِ جمال مصطفیٰ تھے اسی طرح مظہر کمال مصطفیٰ بھی تھے۔ یعنی جس طرح ان دونوں میں جمال مصطفیٰ تقسیم ہوا اسی طرح کمال مصطفیٰ بھی تقسیم ہوا۔ چناں چہ بڑے شاہ زادے کو شہادت سری کا فیض ملا اور چھوٹے کو شہادت جہری کا۔ ثابت ہوا کہ حسنین کریمین کی ذاتِ مظہر جمال مصطفیٰ بھی ہے اور مظہر کمال مصطفیٰ بھی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) چوں کہ بڑے شاہ زادے کے حصہ میں شہادت سری آئی تھی اور سرخفا و پوشیدگی کو کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پوشیدہ رکھا اور کسی کو اس کی اطلاع نہ دی یہاں تک کہ خود حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے بھی زہر دینے والے کا نام نہ بتلایا اور فرمایا کہ میں اس کا بدلہ خدا تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں وہ منتقم حقیقی ہے۔

اور چھوٹے شہزادہ کے حصہ میں شہادت جہری آئی تھی اور جہر اعلان و اظہار کو کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان عام فرما دیا تھا چناں چہ :-

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اخبرنی جبریل ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض الطف وجاءنی بھٰذہ	مجھ کو جبریل امین نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف میں قتل کردیا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

لتربة فاخبرنی ان فیہا مضجعة	جائے گا اور جبریل میرے پاس (اس زمین کی) یہ مٹی لائے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ وہی ان کے لیٹنے (مدفون
(صواعق محرقہ صنہ ۱۹ سر الشہادتین ص ۲۴ خصائص کبریٰ ص ۱۲۵)	ہونے) کی جگہ ہے۔

حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حسین کو لے کر حاضر ہوئی تو میں نے حسین کو آپ کی گود میں رکھ دیا پھر جو میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔

فقال اتانی۔ ۔ فاخبرنی ان ی ستقتل بی ھٰذا واتانی بتربة من تربة حمراء۔	تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے، کہ عنقریب میری امت میرے اس بیٹے ؛ قتل کردے گی اور انہوں نے مجھے اس زمین کی تھوڑی سی دی ہے۔
(خصائص کبریٰ ص ۱۲۵ صواعق محرقہ صنہ ۱۹ سر الشہادتین ص ۲۶ ۔ المستدرک ص ۱۷۶)	

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لقد دخل علی البیت ملك لم یدخل قبلها فقال لی ان ابنك ھٰذا حسین مقتول وان شئت اریتك من تربة الارض التی یقتل بها فاخرج تربة حمراء۔	کہ میرے گھر میں ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہ آیا تھا۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا حسین قتل کیا جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی دکھاؤں جہاں یہ قتل کیا جائے گا پھر اس نے تھوڑی سی سرخ مٹی نکالی۔
(البدایہ والنہایہ ص ۱۹۹/۸ خصائص کبریٰ ص ۱۲۵ سر الشہادتین ص ۲۵ صواعق محرقہ صنہ ۱۹۰)	

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بارش پر مؤکل فرشتہ نے اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو اللہ نے اُسے اجازت دی وہ آیا تو حسین بھی کی خدمت میں آئے اور آپ کے کندھوں پر چڑھ گئے آپ نے اُن سے پیار کیا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

فقال الملك اتحبه ؟ قال نعم!
قال ان امتك تقتله وان
شئت اریتك المکان الذی
یقتل فیه فضرب بیدہ فاراہ
ترابا احمر فاخذته ام سلمة
فصرته فی طوف ثوبها قال فکنا
نسمع انہٗ یقتل بکربلاء۔

تو فرشتہ نے کہا کیا آپ اس کو محبوب
رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں! فرشتہ نے کہا!
بے شک آپ کی امت اس کو قتل کر
دے گی اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو
وہ مکان دکھا دوں جہاں یہ قتل کیے جائیں
گے پس اس نے اپنا ہاتھ مارا اور آپ کو
سُرخ مٹی دکھائی تو وہ مٹی ام سلمہ نے لے لی
اور اپنے کپڑے کے کونے میں باندھ لی۔
راوی فرماتے ہیں ہم سنا کرتے تھے۔
حسین کربلا میں شہید ہوں گے۔

(خصائص کبریٰ ص۱۲۵/۲، البدایہ والنہایہ ص۱۹۹/۸)
(سر الشہادتین ص۲۵، صواعق محرقہ ص۱۹۱)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:۔

ان رسول الله صلی الله علیه وسلم
اضطجع ذات یوم فاستیقظ وهو
خاثر و فی یدہ تربته حمراء یقلبها
قلت ما هٰذه التربة یا رسول الله
قال اخبرنی جبریل ان هٰذا یعنی
الحسین یقتل بارض العراق وهٰذہ تربتها
(خصائص کبریٰ ص۱۲۵، سر الشہادتین ص۲۷)

کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کروٹ سو رہے تھے کہ اچانک جاگ پڑے
اور آپ پریشان و ملول تھے اور آپ کے
ہاتھ میں سرخ مٹی تھی میں نے عرض کیا
یا رسول اللہ! یہ مٹی کیا ہے؟ فرمایا مجھے جبریل
نے خبر دی ہے کہ یہ حسین عراق کی زمین پر
قتل کر دیا جائے گا اور یہ وہاں کی مٹی ہے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حسن اور حسین دونوں میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبریل امین نازل ہوئے اور کہا:۔

یا محمد ان امتك تقتل ابنك هٰذا
من بعدك وا ومی بیدہ الی الحسین
واتاہ بتربة فشمها وقال ریح کرب و

اے محمد! بے شک آپ کی امت آپ
کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل
کر دے گی اور آپ کو وہاں کی تھوڑی سی

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

بلاء فبکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضمہ الی صدرہ ثم قال یا ام سلمۃ اذا تحولت ھٰذہ التربۃ دما فاعلمی ان ابنی قد قتل فجعلتھا ام سلمۃ فی قارورۃ ثم جعلت تنظر الیھا کل یوم وتقول ان یوما تحولین دما لیوم عظیم۔	مٹی دی۔ آپ نے اس مٹی کو سونگھا اور فرمایا اس میں رنج وبلا کی بُو ہے پس آپ نے حسین کو اپنے سینہ مبارک سے چمٹالیا اور روئے۔ پھر فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو جان لیجیو کہ میرا یہ بیٹا قتل ہو گیا۔ ام سلمہ نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا اور وہ ہر روز اس کو دیکھتیں اور فرماتیں جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی وہ دن عظیم دن ہو گا
(تہذیب التہذیب ص۳۴۷/۲ خصائص کبری ص۱۲۵/۲ صواعق محرقہ ص۱۹۱ سر الشہادتین ص۲۸)	

حضرت انس بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرمایا:۔

ان ابنی ھٰذا یعنی الحسین یقتل بارض یقال لھا کربلاء فمن شھد ذٰلک منکم فلینصرہ فخرج انس بن الحارث الی کربلاء فقتل بھا مع الحسین	بے شک میرا بیٹا حسین قتل کر دیا جائے گا اس زمین میں جس کا نام کربلا ہے سو جو شخص تم لوگوں میں سے وہاں موجود ہو تو اس کو چاہیے وہ اس کی مدد کرے تو انس بن حارث کربلا گئے اور (امام) حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔
خصائص کبری ص۱۲۵/۲ البدایہ والنہایہ ص۱۹۹/۸ سر الشہادتین ص۲۹ دلائل النبوت ابو نعیم ص۴۸۶	

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ:۔

ما کنا نشک واھل البیت متوافرون ان الحسین بن علی یقتل بالطف۔	ہمیں اور اکثر اہل بیت کو اس بات میں کوئی شک وشبہ نہ تھا کہ حسین زمین طف کربلا میں شہید ہوں گے۔
(المستدرک ص۱۷۹/۳ خصائص کبری ص۱۲۶/۲ سر الشہادتین ص۳۰۔	

حضرت یحییٰ حضرمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کے ساتھ تھا۔

فلما جاذی نینوی نادی صبرا یا عبد اللہ بشط الفرات قلت ماذا قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنی جبریل ان الحسین یقتل بشط الفرات واراني قبضة من تربة۔

خصائص کبریٰ ص۱۲۶ ج۲، صواعق محرقہ ص۱۹۱، البدایہ النہایہ ص۱۹۹ ج۸، سر الشہادتین ص۳۰، تہذیب التہذیب ص۳۴۷ ج۲

تو جب آپ نینوا کے برابر پہنچے تو آپ نے پکارا اے ابو عبد اللہ فرات کے کنارے صبر کرنا۔ میں نے عرض کیا یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ حسین فرات کے کنارے قتل ہوگا اور مجھے وہاں کی مٹھی بھر مٹی دکھائی۔

حضرت اصبغ بن نباتہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:۔

اتینا مع علی علی موضع قبر الحسین فقال ھٰھنا مناخ رکابھم و موضع رحالھم وھٰھنا مھراق دمائھم فتیة من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتلون بھٰذہ العرصة تبکی علیھم السماء والارض۔

(خصائص کبریٰ ص۱۲۶ ج۲، سر الشہادتین ص۳۱، دلائل النبوت ابو نعیم ص۵۰۹

ہم (حضرت) علی کے ، ساتھ قبر حسین کی جگہ پر آئے تو آپ نے فرمایا یہ ان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ ان کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے اور یہ اُن کے خون بہنے کا مقام ہے یعنے جوان آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلے میدان میں قتل کیے جائیں گے ان پر زمین و آسمان روئیں گے۔

ابو عبد اللہ الضبیبی فرماتے ہیں کہ جب علی بن ہرثم جنگ صفین سے واپس آئے تو ہم لوگ ان کو ملنے گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم امیر المومنین حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کے ساتھ صفین سے واپس آرہے تھے تو ہم نے زمین کربلاء پر حضرت علی کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔

ثم اخذ کفا من بعد الغزلان فشمہ ثم قال اوہ اوہ یقتل بھٰذا الغائط قوم یدخلون الجنة

پھر آپ نے مینگنیوں والی زمین سے ایک مٹھی خاک کی لی اور اس کو سونگھا اور فرمایا اوہ ، اوہ ۔ اس زمین پر ایک

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

بغیر حساب ۔ جماعت قتل ہوگی وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے ۔
(تہذیب التہذیب ص۳۴۸ ج۲ البدایہ ص۱۹۹ ج۸)

ان روایات سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اظہار و اعلان فرمادیا تھا اور بہت سے صحابہ و اہل بیت کو معلوم تھا کہ حسین شہید ہوں گے اور ان کی شہادت گاہ کربلا ہے ۔

اور یہ کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ کسی نے دعا کی ہو کہ الٰہی کربلا میں ہونے والا واقعہ اور آنے والے مصائب نہ آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے حضرت علی و حضرت فاطمہ و حضرت حسن اور خود حضرت حسین رضی اللہ عنہم ہی دعا فرما دیتے۔ کیونکہ کاملین کی دعا تقدیر مبرم کو بھی بدل دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اکثر من الدعاء فان الدعاء یرد القضاء المبرم (کنز العمال ص۲۹ ج۲) کہ دعا زیادہ کرو بے شک دعا قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو کسی نے دعا کیوں نہیں فرمائی اس لیے کہ راضی برضا تھے اور جانتے تھے کہ اللہ تعالےٰ کی طرف سے یہ ایک امتحان اور آزمائش ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان کیا کرتا ہے یہ اس کی سنت ہے ۔ چناں چہ فرمایا :۔

الٓمّٓ ۝ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ یُّتْرَكُوْٓا اَنْ یَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلَیَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِیْنَ ۝ (العنکبوت)

کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی ؟ اور بے شک ہم نے ان کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے (اور ان کو بھی آزمائیں گے) تاکہ دیکھ لے اللہ (اور ظاہر کردے) ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں ۔

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِیْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى یَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ ؕ (البقرۃ ۲۱۴)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کیا تم اس (گمان) میں ہو کہ یوں ہی (جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالاں کہ تم پر ان لوگوں کی مثل حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے ہوئے ہیں کہ انہیں (اس قدر) سختی اور مصیبت پہنچی اور وہ لرز اٹھے یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ (آل عمران ۱۴۲)

کیا تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالاں کہ ابھی اللہ نے امتحان نہیں کیا ان کا جو تم میں مجاہد ہیں اور نہ اُن کا جو صبر کرنے والے ہیں۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ۔ (البقرۃ ۱۵۵)

اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوش خبری دیجئے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں ان آیات سے ثابت ہوا کہ صرف زبانی کلامی دعویٔ ایمان و اسلام کافی اور ذریعہ نجات نہیں بلکہ طرح طرح کے حوادث و مصائب اور رنج و غم سے دو چار ہونا پڑتا ہے ؎

یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلماں ہونا

بلاشبہ کھرے اور کھوٹے، سچے اور جھوٹے کی پہچان ہوتی ہے تو امتحان کے میدان ہی میں ہوتی ہے اور ہر شخص کا امتحان اس کی دینی و ایمانی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ جس قدر کوئی دین و ایمان میں مضبوط اور سخت ہوتا ہے اسی قدر اس کے امتحان میں سختی کی جاتی ہے۔ چناں چہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا ہے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اُن کے بعد صالحین کا پھر درجہ بدرجہ ان لوگوں کا جو اُن کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔

اور یہ اہل اللہ اصل میں عشاق ہوتے ہیں اور عشاق کا تو کہنا ہی کیا ہے ان کی دنیا ہی نرالی ہے وہ محبوب کی راہ میں آنے والی تکلیف و مصیبت میں بھی لذت و راحت ہی پاتے ہیں اور محبوب کی راہ میں جس قدر ان کو ذلت نصیب ہوتی ہے اسی قدر محبوب کی نگاہ میں ان کو عزت حاصل ہوتی ہے چنانچہ روزہ دار کے مُنہ کی بُو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے بہتر ہے یعنی بہ ظاہر خراب بہ باطن عمدہ۔

لہٰذا جو اللہ کی راہ میں ذلت اٹھاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کمال درجہ کی عزت پاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگِ اُحد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر گزرے دیکھا کہ ان کے کان اور ناک وغیرہ سب کاٹ دیے گئے تھے۔ فقال لولا ان صفیة تجد لترکته حتی یحشره الله من بطون الطیر والسباع فکفنه فی غرة (المستدرک ص۱۹۶/۳)

تو فرمایا اگر صفیہ کے غم کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا تاکہ ان کو پرندے درندے کھا لیتے اور قیامت کے دن اللہ ان کا حشر درندوں اور پرندوں کے پیٹوں میں سے کرتا پھر ایک کمبل میں لپیٹ کر ان کو دفن کر دیا دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ ان کی لاش اسی طرح بے حرمتی کے ساتھ پڑی رہے اور جانور کھا جائیں تاکہ ذلت کمال درجہ کو پہنچ جائے اور اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمال درجہ کی عزت کے حق دار ہو جائیں لیکن حضرت صفیہ کے غم کے خیال سے آپ نے اس قصد کو ترک فرما دیا۔ مگر اس کے باوجود وہ سید الشہداء کا مقام و مرتبہ پا گئے۔

امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کرام نے راضی برضا ہو کر یہی چاہا کہ ان کا امتحان ہو اور ایسا امتحان ہو کہ تکالیف و مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں اور بے بسی اور بے کسی کی انتہا ہو جائے۔

چناں چہ زحر بن قیس جو واقعہ کربلا میں لشکر یزید میں تھا جب یزید کو فتح کی خوش خبری سنانے آیا تو من جملہ اور واقعات کے یہ بھی سنایا۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

فهايتك اجساد مجردة — کہ اُن کے اجساد برہنہ اور اُن کے
وثيابهم مرملة وخدودهم — کپڑے خون میں لت پت اور اُن کے
معفرة تصهرهم الشمس — رخسار خاک آلود ہیں اور دھوپ اُن کے
وتسفي عليهم الريح زوارهم — جسموں کو پگھلا رہی ہے اور ہوائیں اُن پر
العقبان والرخم بقاع — خاک ڈال رہی ہیں اور ان کی زیارت
سبسب — کرنے والے مُردار خور پرندے ہیں اور
(ابن اثیر ص ۳۴/۴) — وہ چٹیل میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔

گویا ظاہر بینوں کے نزدیک ذلت کی انتہا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عزت و رفعت کے اعلیٰ درجہ کو پہنچ جائیں اور سید الشہدا حضرت حمزہ کی شہادت کے وقت جو بات رہ گئی ہے اس کی بھی تکمیل ہو جائے۔

آں امامِ عاشقاں پُورِ بتول — سروِ آزادِ زبستانِ رسول
اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر — معنیِ ذبحِ عظیم آمد پسر
سرِ ابراہیم و اسمٰعیل بود — یعنی آں اجمال را تفصیل بود
خون او تفسیر ایں اسرار کرد — ملتِ خوابیدہ را بیدار کرد
تیغِ لاؔ چوں از میاں بیروں کشید — از رگِ اربابِ باطل خوں کشید
نقشِ الا اللہ بر صحرا نوشت — سطرِ عنوانِ نجاتِ ما نوشت

اے صبا اے پیکِ دور افتادگاں
اشکِ ما بر خاکِ پاکِ او رساں

(اقبالؔ)

اسباب شہادت

جب کوئی چیز یقینی ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے ہونے کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں امام عالی مقام کی شہادت کے اسباب اس طرح پیدا ہوئے کہ رجب سنہ ۶۰ھ میں حضرت

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید (جس کے لیے وہ اپنی زندگی ہی میں بیعت لے چکے تھے[1]) ان کا جانشین ہوا۔ تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی بیعت کا تھا۔ کیوں کہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ علاوہ ازیں ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور حضرت امام حسینؓ کے دعوئ خلافت کی صورت میں عراق میں بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور تحفظ کا تھا۔ اس لیے اس نے ان حضرات سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چناں چہ اُس نے ولید بن عقبہ گورنر مدینہ کو امیر معاویہؓ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔

فخذ حسینا وعبد اللہ بن عمر و	پس حسین، عبداللہ بن عمر اور ابن الزبیر کو
ابن الزبیر بالبیعۃ اخذا لیس فیہ	بیعت کے لیے اس طرح پکڑو کہ جب تک
رخصۃ حتّٰی یبایعوا (ابن اثیر ص۲ ج۴)	بیعت نہ کرلیں مطلق نہ چھوڑو۔

ابھی تک اہل مدینہ کو امیر معاویہؓ کی وفات کی خبر نہ تھی۔ ولید یزید کے اس حکم سے بہت گھبرایا کیوں کہ اس کے لیے اس کی تعمیل بہت مشکل تھی اور وہ اس کے انجام کو بھی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے نائب مروان بن حکم کو بلایا اور اس سے اس معاملے میں مشورہ طلب کیا۔ مروان سنگ دل اور سخت مزاج تھا۔ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کا حکم دیں اگر وہ بیعت کرلیں تو بہتر اور اگر وہ انکار کریں تو تینوں کا سر قلم کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو جب ان کو وفاتِ معاویہ کی خبر ملے گی یہ تینوں ایک ایک مقام پر جا کر مدعی خلافت بن کر کھڑے ہو جائیں گے پھر اُن پر قابو پانا سخت مشکل ہو جائے گا۔ البتہ ابن عمر کو میں جانتا ہوں ان سے توقع کم ہے وہ جدال و قتال کرنا نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ یہ امر خلافت خود بخود

---

[1] تفصیل کے لیے میری کتاب امام پاک اور یزید پلید ملاحظہ فرمائیں۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ان کو دے دیا جائے۔

اس مشورہ کے بعد ولید نے ان تینوں حضرات کو بلا بھیجا۔ اس وقت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر دونوں مسجد نبوی میں تھے اور وہ وقت بھی ایسا تھا کہ اس میں ولید کسی سے ملتا ملاتا نہ تھا۔ قاصد نے ان دونوں کو امیر کا پیغام دیا۔ انہوں نے قاصد سے کہا تم چلو ہم ابھی آتے ہیں ابن زبیر نے امام سے کہا آپ کا کیا خیال ہے امیر نے ایسے وقت میں جب کہ وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں ہمیں کیوں بلایا ہے؟ امام نے فرمایا میرا یہ گمان ہے کہ امیر معاویہ فوت ہو گئے ہیں اور ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ان کی وفات کی خبر عام ہونے سے پہلے وہ ہم سے یزید کی بیعت لے لیں۔ ابن زبیر نے کہا میرا گمان بھی یہی ہے۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا میں اپنے چند جوانوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں کیوں کہ انکار کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ معاملہ نازک صورت اختیار کر جائے۔ چناں چہ اپنی حفاظت کا سامان کر کے ولید کے پاس پہنچے اور مکان کے باہر اپنے جوانوں کو متعین کر دیا اور ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آجانا اور جب تک میں باہر نہ آؤں یہاں سے ہرگز نہ سرکنا۔ آپ اندر گئے۔ اور سلام کے الفاظ کہہ کر بیٹھ گئے۔ ولید نے آپ کو امیر معاویہؓ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح خفیہ بیعت کرنا مناسب ہے اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی بیعت کی دعوت دیں تو یہ ایک بات ہو گی۔ ولید امن اور صلح پسند آدمی تھا اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیں آپ اٹھ کر چلے تو مروان نے بہت برہم ہو کر ولید سے کہا اگر تم نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکو گے تاوقتیکہ بہت سے لوگ قتل نہ ہو جائیں۔ ان کو قید کر دو اگر یہ بیعت کر لیں تو خیر ورنہ ان کو قتل کر دو امام یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا او ابن الزرقاء کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے اور کمینہ ہے یہ کہہ کر آپ تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا تم نے میری بات نہ مانی۔ خدا کی قسم! اب تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے یہ بہترین موقع تھا کہ تم ان کو قتل کر دیتے۔ ولید نے کہا تم پر افسوس! تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

تباہی ہے کیا میں صرف اس وجہ سے نواسۂ رسول کو قتل کر دیتا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ اگر مجھے دنیا بھر کا مال ومتاع مل جائے تو بھی میں اُن کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہ کروں خدا کی قسم! قیامت کے دن جس سے خونِ حسین کی باز پرس ہوگی وہ ضرور اللہ کے سامنے خفیف المیزان ہوگا۔ مروان نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ اس نے صرف ظاہرداری کے لحاظ سے کہہ دیا تھا ورنہ دل میں وہ ولید کی بات کو ناپسند کرتا تھا۔ (ابن اثیر، طبری)

ولید کے پاس سے واپس آنے کے بعد امام عالی مقام سخت کشمکش میں مبتلا تھے یزید کی بیعت آپ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقۂ انتخاب کے بالکل خلاف اور غیر شرعی طور پر ہوا تھا بلکہ آپ کے نزدیک یہ قیصر و کسریٰ کے طرز کی پہلی شخصی حکومت تھی۔ اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ علی الاعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ ادھر عبداللہ بن زبیر طرح طرح کے حیلوں سے ولید کے قاصدوں کو ٹالتے رہے اور ولید کے پاس نہ آئے اور دوسرے دن مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو نکل گئے۔ ولید کا عملہ سارا دن ان کی تلاش میں سرگرداں رہا مگر وہ نہ مل سکے۔ ادھر شام کے وقت پھر ولید نے امام کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آسکتا اور صبح ہونے دو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی اور آپ نے اسی رات اپنے اہل وعیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ گھر والوں کو فرمایا کہ تم تیاری کرو اور آپ خود مسجد نبوی شریف میں روضۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے نوافل ادا کر کے جوں ہی چہرۂ رسول کے سامنے پہنچ کر دست بستہ سلام کے الفاظ ادا کیے بے ساختہ آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ جوارِ رسول سے دُوری اور شہرِ رسول سے جدائی کے غم انگیز خیال نے آپ پر رقت طاری کر دی۔ یہی وہ شہر تھا جس میں آپ نے عمر عزیز کا اب تک بیشتر حصہ گزارا تھا۔ بچپن سے اب تک اسی شہر کی پُر نور فضاؤں اور معطر ہواؤں میں روز و شب کا سلسلہ رہا تھا۔ یہ شہر آپ کے نانا جان کا شہر تھا آپ اس گلشن رسول کے مہکتے پھول تھے مگر اب اس شہر میں آپ کا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسی شہر میں آپ کی والدہ ماجدہ کا مدفن تھا آپ کے بھائی اسی شہر میں آرام فرما تھے۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اس وقت امام پاک کی کیا کیفیت ہو گی، وہ روضہ رسول پر اپنے جذبات واحساسات کا اظہار کر رہے تھے، نانا جان کے روبرو اپنا احوال بیان کر رہے تھے ؎

مزارِ مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے ... اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے
کہا رو کر سلام اے تاج دار عالم امکان ... سلام اے سید عالم سلام اے سرورِ ذی شاں
ذرا دیکھو تو حجرہ سے اٹھا کر گوشۂ داماں ... حسین ابن علی پر تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں
ذرا حجرہ سے نکلو اے مکین گنبدِ خضرا ... ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا
یزیدی دور ہے، اسلام ہے سرکار خطرے میں ... نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں
میں قرباں اے مجھے ناز و نعم سے پالنے والے ... مصائب آنے والے دم زدن میں ٹالنے والے
ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا ... ہمیں نظروں میں اپنی صاحبِ معراج رکھ لینا
بس اب اے قبلہ دیں مجھ کو جانے کی اجازت ہو ... لبِ اطہر سے فرمادو حسین اب جاؤ رخصت ہو

مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا
وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاج ور نکلا

امام پاک اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے۔[1]

محمد بن حنفیہ کا مشورہ

حضرت محمد بن حنفیہؓ نے آپ سے کہا بھائی میں تم سے زیادہ کسی کو محبوب اور عزیز نہیں رکھتا اور تمام خلقِ خدا میں کسی کو اس کا مستحق نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ آپ سے زیادہ خیر خواہی کروں لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ یزید کی بیعت اور کسی مخصوص شہر کے ارادہ سے الگ رہیں اور دیہات اور ریگستان میں قیام کریں اور لوگوں کے پاس اپنے قاصد بھیج کر ان کو اپنی بیعت کی دعوت دیں اگر وہ لوگ بیعت کر لیں تو آپ اس پر اللہ کا شکر کریں اور اگر وہ کسی اور شخص پر متفق ہو جائیں تو اس سے آپ کے اوصاف و کمالات اور فضیلت میں اللہ کچھ کمی اور کچھ فرق نہ آنے دے گا مجھے خوف ہے کہ ان حالات میں اگر آپ کسی مخصوص شہر یا کسی مخصوص جماعت کے پاس جائیں گے تو ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ایک گروہ آپ کے ساتھ ہو گا اور دوسرا

---

[1] ابن اثیر ص ۶/۴ طبری ص ۱۹۱

آپ کے خلاف۔ پھران دونوں میں جنگ وجدال کی نوبت آئے گی اور سب سے پہلے آپ اُن کے نیزوں کا نشانہ بنیں گے۔ ایسی صورت میں ایک معزز اور شریف ترین شخص جو بہ لحاظ حسب ونسب اس ساری اُمت سے بہتر ہے اس کا خون سب سے زیادہ ارزاں ہوجائے گا اور اُس کے اہل وعیال کو ذلیل کیا جائے گا۔

یہ سن کر آپ نے فرمایا بھائی پھر میں کہاں جاؤں ؟ محمد بن حنفیہ نے کہا مکہ! اگر وہاں آپ کو اطمینان حاصل ہوجائے تو کوئی نہ کوئی سبیل پیدا ہوجائے گی اور اگر اطمینان حاصل نہ ہو تو پھر ریگستانوں اور پہاڑوں کی طرف چلے جائیں اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے رہیں اور لوگوں کے بدلتے ہوئے حالات دیکھتے رہیں پھر آپ کسی نہ کسی نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کیوں کہ جب واقعات سامنے آجاتے ہیں تو رائے بہت زیادہ صحیح ہوجاتی ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی تم نے خیر خواہی اور شفقت فرمائی ہے مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ تمہاری رائے درست اور موافق ثابت ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ یزید بن مفرغ کے یہ اشعار بطور مثال پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔

لا ذعرت السوام فی فلق الصبح مغیرا ولا دعیت یزیدا

یوم اعطی من المھابۃ ضیما والمنایا یرصدننی ان احیدا

جس دن کہ ظلم وستم سے میرا گلا گھونٹ دیا جائے گا اور موت میرا انتظار کررہی ہوگی اگر میں میدان چھوڑ جاؤں تو (پھر کبھی بھی) صبح کے وقت غارت گری کے لیے اونٹوں کو نہ چونکاؤں گا اور نہ ہی اپنا نام یزید رکھوں گا۔ (ابن اثیر صفحہ ۶ ، طبری صفحہ ۱۹۰)

ایک شبہ

"خلافت معاویہؓ ویزید" کے مؤلف نے لکھا ہے کہ محمد بن حنفیہ امام حسینؓ کے خروج کو طلب حکومت وخلافت کا ایک ایسا سیاسی مسئلہ سمجھتے تھے جو مقتضیات زمانہ اور احکام شرع کے اعتبار سے جائز اور مناسب نہ تھا (صفحہ ۷۹)

اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اگر محمد بن حنفیہؒ کے نزدیک خروج امام مقتضیات زمانہ اور احکام شرع کے اعتبار سے ناجائز اور نامناسب ہوتا تو پھر وہ امام کو یہ کیوں کہتے کہ یزید کی بیعت

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

سے الگ رہو اور اپنی بیعت کی دعوت دو بلکہ وہ واضح الفاظ میں یوں کہتے کہ تمہارے لیے ازروئے شریعت کسی حالت میں بھی یہ خروج جائز نہیں اور تمہیں خلیفۂ راشدِ عادل کے ہوتے ہوئے یہ حق پہنچتا ہے کہ تم اس کے خلاف بغاوت کرو۔ ان کو خروج سے نہ روکنا اور تدبیریں بتانا کہ دیہات اور پہاڑوں میں قیام کرو اور لوگوں کے پاس وفود بھیجو اور ان کو اپنی بیعت کی دعوت دو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کے نزدیک امام کا خروج شرعی طور پر ناجائز نہ تھا بلکہ امام جو طریقہ اختیار کر رہے تھے وہ طریقہ اُن کے نزدیک مصلحت کے خلاف اور غیر مفید تھا۔ رہا خود ان کا بیعت کرنا تو وہ بعض صحابہ کی طرح فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے تھا نہ کہ خلیفہ کے کردار کی خوبی یا اس کے برحق ہونے کی بنا پر تھا۔

ثابت ہوا کہ محمد بن حنفیہؒ بھی دوسرے بعض صحابہ کی طرح فی نفسہٖ یزید کے خلاف خروج کو ناجائز یا بُرا نہیں جانتے تھے بلکہ خارجی اسباب و وجوہ کی بنا پر اُسے غیر مؤثر اور خلافِ مصلحت سمجھتے تھے۔ لہٰذا خلافت معاویہ و یزید کے مؤلف کا یہ کہنا کہ محمد بن حنفیہ امام کے خروج کو شرعی طور پر ناجائز سمجھتے تھے بالکل غلط اور تاریخ کی کھلی تکذیب ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت محمد بن حنفیہؓ کا مشورہ دور اندیشی اور مصلحت پر مبنی تھا ارباب عقل و دانش اس قسم کی مصلحت آمیزیوں اور دور اندیشیوں سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں اور بعض موقعوں پر مصلحت سے کام لینا کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ لیکن اہلِ عشق و محبت کا مزاج کچھ اس سے مختلف ہی واقع ہوا ہے۔ اقبال مرحوم فرماتے ہیں ؎

عقل در پیچاکِ اسباب و علل
عشق چوگاں بازِ میدانِ عمل
عقل اسباب و علل کے پیچ و خم میں اُلجھی رہتی ہے
عشق عمل کے میدان کے کھلاڑی کا کھیل ہے
عقل را سرمایۂ از بیم و شک
عشق را عزم و یقین لاینفک است
عقل کا سرمایہ خوف و ڈر اور شک و شبہ ہے
عشق کا سرمایہ غیر متزلزل عزم و یقین ہے
عقل محکم از اساس چوں چند
عشق عریاں از لباس چوں چند
عقل اگر مگر اور کیوں اور کیسے کی بنیاد پر قائم ہے
عشق اگر مگر کے پہناوے سے برہنہ و آزاد ہے
عشق صید از زورِ بازو افگند
عقل مکار است و دامے می زند

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

عشق اپنے زور بازو سے شکار مارتا ہے
عقل مکار ہے جال لگاتی ہے

عقل چوں باد است ارزاں دو جہاں
عشق کمیاب و بہائے او گراں

عقل ہوا کی مانند ہے اور جہاں میں سستی و عام ہے
عشق نایاب ہے اور بہت قیمتی ہے

جملہ عالم ساجد و مسجود عشق
سومنات عقل را محمود عشق

سارا جہان ساجد اور عشق مسجود ہے
عشق عقل کے سومنات کے لیے محمود (غزنوی) ہے

ترک جان و ترک مال و ترک سر
در طریق عشق اوّل منزل است

مال و جان اور سر دینا
راہِ عشق کی پہلی منزل ہے

عشق سلطان است و برہان مبین
ہر دو عالم عشق را زیر نگین

عشق بادشاہ اور روشن برہان ہے
دونوں عالم عشق کے زیر نگیں ہے

مدینہ منورہ سے رحلت

امام عالی مقام مدینہ منورہ کو چھوڑتے وقت جب اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ انور پر حاضر ہوئے ہوں گے اور صلوٰۃ و سلام عرض کر کے رخصت و اجازت طلب کی ہو گی۔ اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوئی ہو گی۔ بلاشبہ دیدۂ خون بار نے اشک غم کی بارش کی ہو گی۔ قلب حزیں صدمۂ جدائی و فراق سے گھائل ہو رہا ہو گا اور لبوں پر یہ الفاظ ہوں گے۔ کندھوں پر چڑھا کر کھلانے والے نانا، آغوش رحمت و محبت میں لے کر لوریاں سنانے والا نانا، ماتھے، رخسار اور لبوں کو چومنے والے نانا اے میرے ناز اٹھانے والے نانا آج میرا حال دیکھئے، میں غمگین و پریشان ہوں۔ اشک بار ہوں۔ اس لیے کہ آپ کا یہ مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں وہ شہر جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے لیکن میں کیا کروں میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے۔ میں جا رہا ہوں مجھے اجازت دیجئے اور ادھر روضۂ اقدس میں نازوں سے پالنے والے نانا جان حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی کیا حالت ہو گی۔ یہ تصور دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے یہ دن کیسا دن تھا۔ سخت رنج و الم کا دن تھا کہ نواسۂ نبی جگر گوشۂ علی، نور دیدۂ زہرا، سرور قلب حسن مجتبیٰ جا رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے ؎

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ہاں نگاہِ غور سے دیکھ اے گروہ مومنین
جارہا ہے کربلا خیر البشر کا جانشین
آسماں ہے لرزہ بر اندام جنبش میں زمیں
فرق پر ہے سایہ افگن شہپر روح الامیں
اے شگوفو السّلام اے خفتہ گلیو الوداع
اے مدینہ کی نظر افروز گلیو الوداع

پھر آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے شعبان ۶۰ھ میں مع اہل وعیال مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۔(القصص ۲۰)
تو وہ اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے کہا اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔

عبداللہ بن مطیع سے ملاقات

راستہ میں حضرت عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو مع اہل وعیال مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا میں آپ پر فدا ہو جاؤں آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا فی الحال تو مکہ مکرمہ جارہا ہوں۔ وہاں جاکر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں! عبداللہ نے کہا۔ اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمیں آپ پر فدا کرے۔ جب آپ مکہ پہنچ جائیں تو کوفہ کا ہرگز ارادہ نہ فرمائیں کیوں کہ وہ ایک منحوس شہر ہے وہیں آپ کے والد ماجد شہید ہوئے اور وہیں آپ کے بھائی حضرت حسنؓ کو بے یار و مدد چھوڑ دیا گیا اور ان پر برچھی کا وار کیا گیا قریب تھا کہ وہ جاں بحق تسلیم ہو جاتے، آپ مکہ ہی میں رہیں اس کو نہ چھوڑیں آپ عرب کے سردار ہیں۔ اہل حجاز آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ میرے چچا اور ماموں آپ پر نثار ہوں آپ حرم کعبہ کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑیئے گا۔ خدا کی قسم! اگر خدانخواستہ آپ قتل ہو گئے تو آپ کے بعد ہم سب غلام بنائے جائیں گے۔

جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو یہ آیت پڑھی۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ چلائے گا۔ (القصص ۲۰)

آپ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آنے لگے اور

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مکہ ہی میں تھے وہ بھی آپ کے پاس آتے جاتے۔ اہل مکہ کو آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوئی تھی وہ آپ کے دیدار پُر انوار سے اپنے دیدہ و دل کو روشن و منور کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ؎

آمدی و آمدنت بس خوشی است — دیدن روئے تو عجب دل کشی است
؎ دولتِ وصل تو دائم ز خدامی جستیم — کعبۂ کوئے تو از راہ صفامی جستیم
؎ مرحبا سرورِ عالم کے پسر آئے ہیں — سیدہ فاطمہ کے لختِ جگر آئے ہیں
نخل بستانِ نبوت کے ثمر آئے ہیں — جن سے روشن ہے جہاں وہ قمر آئے ہیں
واہ قسمت کہ چراغِ حرمین آئے ہیں — اے مسلمانو مبارک کہ حسین آئے ہیں

اہل کوفہ کے خطوط اور وفود

کوفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے شیعوں اور محبوں کا مرکز اور گڑھ تھا اس لیے کہ آپ نے اپنے عہدِ خلافت میں دار الخلافہ مدینہ طیبہ سے منتقل کرکے کوفہ میں قائم کیا تھا۔ لہٰذا آپ کے سب محب وہیں جاکر آباد ہو گئے تھے۔ یہ امیر معاویہ کے زمانہ میں بھی امام عالی مقام کی خدمت میں کوفہ تشریف آوری کی درخواستیں بھیج چکے تھے۔ اب جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہؓ کا انتقال کرنا اور امام عالی مقام اور عبداللہ بن زبیرؓ اور عبداللہ بن عمرؓ کا بیعتِ یزید سے انکار کرنا معلوم ہوا تو کوفہ کے تمام شیعہ سلیمان بن صرد الخزامی کے گھر جمع ہوئے۔ محمد بن بشر ہمدانی کا بیان ہے۔

اجمعت الشیعة فی منزل سلیمان بن صرد فذکرنا هلاك معاویة فحمدنا الله علیه فقال لنا سلیمان بن صرد ان معاویة قد هلك وان حسینا قد تقبض علی القوم ببیعته وقد خرج الی مکة وانتم شیعته وشیعة ابیه فان کنتم تعلمون انکم ناصروه ومجاهدو عدوه فاکتبوا الیه وان خفتم الوهل والفشل فلا تغروا الرجل من نفسه قالوا لابل نقاتل عدوه ونقتل انفسنا دونه قال فاکتبوا الیه فکتبوا الیه (طبری ص ۱۹۷/۶)

کہ تمام شیعہ سلیمان بن صرد کے گھر جمع ہوئے اور معاویہ کے مرنے کا ذکر کرکے سب نے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اللہ کا شکر کیا پھر سلیمان بن صرد نے سب سے کہا کہ معاویہ ہلاک ہو گیا ہے اور امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں اور تم لوگ اُن کے اور اُن کے باپ کے شیعہ ہو۔ پس تم خوب جان لو کہ اگر تم اُن کے مدد گار بن سکتے ہو اور ان کے دشمنوں سے جہاد کر سکتے ہو تو ان کو لکھو اور اگر نہیں اپنی کم زوری اور بزدلی کا اندیشہ ہو تو ان کو دھوکہ نہ دو سب نے کہا نہیں ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے بلکہ ہم اُن کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور اُن پر اپنی جانیں نثار کریں گے۔ سلیمان نے کہا پھر لکھو تو انہوں نے آپ کی طرف لکھا۔

شیعہ مذہب کی معتبر کتاب "جلاء العیون" مصنفہ مُلّا باقر مجلسی اصفہانی میں ہے۔

"جب یہ خبریں اہل کوفہ کو پہنچیں شیعان کوفہ سلیمان بن صرد خزاعی کے گھر میں جمع ہوئے حمد وثنائے الٰہی بجا لائے اور دربارۂ فوت معاویہ وبیعت یزید میں گفتگو کی۔ سلیمان نے کہا جب کہ معاویہ مر گیا اور امام حسین بیعت یزید سے انکار کر کے مکہ معظمہ چلے گئے اور تم ان کے شیعہ ہو اور ان کے پدر بزرگوار کے شیعہ ہو اگر جانتے ہو کہ ان کی نصرت کر سکو گے اور بہ جان و مال ان کی نصرت میں کوشش کر سکو گے ایک عریضہ اُن کی خدمت میں لکھ کر یہاں بلا لو اور اگر ان کی نصرت میں سستی و کاہلی کرو گے یہ جان لو کہ شرط نیک خواہی اور متابعت کی بجا آوری نہ کرو گے تو ان کو فریب نہ دو اور ہلاکت میں نہ ڈالو۔ شیعوں نے کہا جب حضرت اس شہر کو اپنے نور قدوم سے منور کریں گے ہم سب بہ قدم اخلاص ان کی خدمت میں حاضر ہو کے اُن سے بیعت کریں گے اور ان کی نصرت میں جان فشانی اور دشمنوں سے حفاظت میں کوشش کریں گے۔"

(جلاء العیون مترجم ص۱۳۸ شائع کردہ شیعہ جنرل بک ایجنسی محلہ شیعہ لاہور)

ثابت ہوا کہ امام عالی مقام کو کوفہ میں بلانے والے سب شیعہ ہی تھے۔ چناں چہ خطوط اور وفود کا تانتا لگ گیا۔ یہاں تک کہ بقول مُلّا باقر مجلسی بارہ ہزار خطوط شیعہ مومنین کے امام کے پاس پہنچے۔ مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائیں مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے مومنین شیعوں کے اموال اور ان کی گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں سب کے سب آپ کے منتظر اور مشتاق دید ہیں۔ آپ کے سوا کوئی ہمارا امام و پیشوا نہیں ہے آپ کی مدد کے لیے یہاں لشکر مہیا و حاضر ہے۔ نعمان بن بشیر حاکم کوفہ دار الامارت میں بیٹھا ہے ہم جمعہ و

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

عیدین کی نماز پڑھنے نہیں جانتے۔ جب آپ تشریف لائیں گے ہم اس کو کوفہ سے نکال دیں گے۔

(جلاء العیون ص ۱۳۹/۲)

آخری خط آنے کے بعد امام عالی مقام نے ان کو جواب لکھا۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ یہ خط حسین بن علی شیعوں مومنوں مسلمانوں اہل کوفہ کی طرف ہے امابعد! بہت سے قاصدوں اور خطوط کے آنے کے بعد جو تم نے خط ہانی وسعید کے ہاتھ مجھے بھیجا ہے وہ مجھے پہنچا سب تمہارے خطوط میرے پاس پہنچے اور سب کے مضامین سے مطلع ہوا تم نے سب خطوط میں مجھے لکھا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں بہت جلد ہمارے پاس تشریف لائیے خدا آپ کی برکت سے ہم کو حق ہدایت کرے واضح ہو کہ میں بالفعل تمہارے پاس اپنے برادر عم و محل اعتماد مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں اگر مسلم مجھے لکھیں جو کچھ تم نے مجھے خطوط میں لکھا ہے بمشورہ عقلاء و دانایان و اشراف و بزرگان قوم لکھا ہے اس وقت میں بہت جلد انشاء اللہ تمہارے پاس چلا آؤں گا میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں کہ امام وہی ہے جو درمیان مردم بہ کتاب خدا حکم اور بعدالت قیام کرے اور قدم جادۂ شریعت مقدسہ سے باہر نہ رکھے اور لوگوں کو دین حق پر مستقیم رکھے۔ والسلام۔ (جلاء العیون ص ۱۴۰/۲)

امام عالی مقام نے جب اہل کوفہ کے خطوط اور وفود سے ان سے جذبات عقیدت و محبت جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ پہلے اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو تحقیق حال کے لیے بھیجنا چاہیے۔ چناں چہ آپ نے ان کو ایک خط دیا جو آپ نے اہل کوفہ کے نام تحریر فرمایا تھا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگائیں اور اطلاع دیں اگر حالات سازگار ہوں گے تو میں بھی آجاؤں گا اور اگر حالات درست نہ ہوں تو واپس آجائیں۔

صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اگرچہ امام کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور اس وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں ان حالات میں کوفیوں کا بپاس ملّت یزید کی بیعت سے دست کشی کرنا اور حضرت امام سے بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں رجب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحبِ استحقاق اہل سے درخواستِ بیعت کرے اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنیٰ ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے امام اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الٰہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند درپے ہوئے مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ بدیں وجہ ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس و حضرت ابن عمر و حضرت جابر و حضرت ابو واقد لیثی وغیرہم حضرت امام کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و مواثیق کا اعتبار نہ تھا۔ امام کی محبت اور شہادت امام کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی، کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہو گا لیکن اندیشہ مانع تھا حضرت امام کے سامنے مسئلہ کی یہ صورت درپیش تھی کہ اس استدعا کو رد کرنے کے لیے عذر شرعی کیا ہے ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ کے شدید اصرار کا لحاظ۔ ادھر اہل کوفہ کی استدعا رد فرمانے کے لیے کوئی عذر شرعی نہ ہونا حضرت امام کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا جس کا حل بجز اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم کو بھیجا جائے اگر کوفیوں نے بدعہدی و بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی۔ (سوانح کربلا ص۵۲)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

شاہ نے اپنی نیابت کے لیے اس کو چُنا
اہلِ کوفہ کو یہ خود شاہ نے نامہ لکھا
آپ لوگوں کی طلب پر انہیں ہم نے بھیجا
اُن کی سب لوگ اعانت و حمایت کرنا
چل دیے مکّہ سے اس نامہ کو لے کر مُسلم
آخرش پہنچ گئے کوفہ کے اندر مُسلم

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اتباع اہلِ بیتِ پاک کر سکتے نہیں
عشق کا دعویٰ ہے اور تقلید کر سکتے نہیں

حضرت مسلم کوفہ میں

حضرت مسلمؓ اپنے دونوں صغیر السن صاحب زادوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ پہنچے کوفہ والے منتظر اور چشم براہ تھے۔ انہوں نے آپ کے آنے پر بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ آپ نے مختار بن ابوعبیدہ ثقفی اور بقول بعض ابن عوسجہ کے ہاں قیام فرمایا۔ محبانِ اہل بیت بڑے جوشِ عقیدت سے بیعت کرنے لگے اور بیعت کے وقت بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ جان و مال قربان کر دیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ امام مسلم نے جب اُن کے جذباتِ عقیدت و محبت کو دیکھا تو امام عالی مقام کی خدمت میں عریضہ لکھا اس میں حالات کی اطلاع دی اور یہ کہ اب تک اٹھارہ ہزار آدمی بیعت کر چکے ہیں آپ ضرور تشریف لائیں تاکہ ملتِ اسلامیہ کو یزید کے ناپاک تسلط سے نجات ملے اور لوگ امام برحق اور خلیفہ عادل و راشد کی بیعت کے شرف سے مشرف ہوں اور دین حق کی تائید ہو ؎

کیا اظہار اربابِ عقیدت نے مسرت کا ۔۔۔ ہوا سامان گھر گھر خیر سے مسلم کی دعوت کا
بہ کثرت نزدِ مسلم لوگ آئے شادماں ہو کر ۔۔۔ امام پاک کا یہ خط سناتے ترجماں ہو کر
ترقی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی ۔۔۔ ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی
موافق جب فضائے کوفہ مسلم کو نظر آئی ۔۔۔ جماعت لڑنے مرنے کے لیے بھی مستعد پائی

لکھے حالات سب مسلم نے فرزندِ پیمبر کو
بلایا جانب کوفہ حسین و آلِ حیدر کو

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

یزید کو اطلاع

حضرت مسلم کے آنے کا چرچا اور اہل کوفہ کا جوشِ عقیدت سے بیعت کرنا اور دن بہ دن اُن کے جوش میں اضافہ دیکھ کر یزید کے حامیوں عبداللہ بن مسلم اور عمارہ بن ولید نے یزید کو اطلاع کر دی کہ امام حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی طرف سے مسلم بن عقیل کوفہ میں آ گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اُن کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور نعمان بن بشیر گورنر کوفہ نے اُن کے خلاف اب تک کوئی خاص کارروائی نہیں کی اور نہ ہی وہ کوئی انسدادی تدابیر عمل میں لائے ہیں لہٰذا اگر سلطنت کی بقاء منظور ہے تو فوراً اس کا تدارک کیا جائے اور سخت قدم اٹھایا جائے ورنہ فی الحال عراق ہاتھ سے جاتا ہے۔

یہ اطلاع پاتے ہی یزید سخت غضب ناک ہوا اور اس نے اپنے خاص دوستوں سے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ فوراً کسی سخت ترین آدمی کو مقرر کیا جائے جو کسی کا لحاظ اور پرواہ نہ کرے اور وہ عبیداللہ بن زیاد ہے چناں چہ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر گورنر کوفہ کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ ابن زیاد کو جو ان دنوں بصرہ کا گورنر تھا مقرر کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ فوراً کوفہ جائے اور مسلم کو گرفتار کر لے اور ملک بدر کر دے اور اگر وہ اس میں مزاحمت کریں تو قتل کر دے اور بیعت کرنے والوں کو ڈرائے دھمکائے کہ وہ باز آ جائیں ورنہ ان کو بھی ختم کر دے اور حسین آئیں تو اُن سے بھی میری بیعت طلب کرے اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر ورنہ ان کو بھی قتل کر دے۔

ابن زیاد کو یزید کا یہ حکم نامہ بصرہ میں ملا۔ اتفاق سے اسی دن امام عالی مقام کی جانب سے ایک قاصد اہل بصرہ کے نام آپ کا ایک خط لایا تھا کیوں کہ اہل بصرہ بھی آپ کی طرف مائل تھے آپ نے اس خط میں اہل بصرہ کو لکھا تھا۔

قَدْ بَعَثْتُ رَسُوْلِیْ اِلَیْکُمْ بِھٰذَا الْکِتَابِ وَاَنَا اَدْعُوْکُمْ اِلٰی کِتَابِ اللّٰہِ وَسُنَّۃِ نَبِیِّہٖ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَاِنَّ السُّنَّۃَ قَدْ اُمِیْتَتْ وَاِنَّ الْبِدْعَۃَ قَدْ اُحْیِیَتْ وَاِنْ تَسْمَعُوْا قَوْلِیْ وَتُطِیْعُوْا اَمْرِیْ اَھْدِکُمْ سَبِیْلَ الرَّشَادِ وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَۃُ اللّٰہِ۔

میں نے اپنا قاصد تمہارے پاس یہ مکتوب دے کر بھیجا ہے اور میں تمہیں کتاب اللہ و

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتا ہوں۔ اس لیے کہ سنت مٹادی گئی ہے اور بدعت کو زندہ کیا گیا ہے اگر تم لوگ میری بات سُنو گے اور مانو گے تو میں تمہیں راہ ہدایت پر چلاؤں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔

اشراف بصرہ نے اس خط کو پڑھا اور اس کو پوشیدہ رکھا مگر منذر ابن الجارود کو یہ اندیشہ اور گمان ہوا کہ یہ قاصد کہیں ابن زیاد کا جاسوس نہ ہو اور اس نے امتحاناً اشراف بصرہ کے پاس بھیجا ہو وہ خط اور قاصد کو لے کر ابن زیاد کے پاس آیا اور اس کو خط بھی دکھایا۔ ابن زیاد نے اسی وقت امام کے قاصد کو گرفتار کر کے قتل کروا دیا اور جامع بصرہ میں لوگوں کے سامنے سخت تہدید آمیز تقریر کی امابعد:

"امیر المومنین نے مجھے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی عطا فرمائی ہے، اس لیے میں کوفہ جا رہا ہوں میری غیر موجودگی میں میرا بھائی عثمان بن زیاد میرا نائب ہوگا تم لوگ اختلاف اور بغاوت سے اجتناب کرو ورنہ خدا کی قسم! جس شخص کے متعلق بھی مجھے معلوم ہوگا کہ وہ اختلاف اور بغاوت میں حصہ لے رہا ہے اس کو اور اُس کے سب حامیوں اور دوستوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں قریب کو بعید کے عوض پکڑوں گا اور سب کو موت کے گھاٹ اتاروں گا یہاں تک کہ تم سب لوگ راہِ راست پر آجاؤ اور مخالفت کا نام و نشان نہ رہے یاد رکھو میں زیاد کا بیٹا ہوں اور ٹھیک ٹھیک اپنے باپ کے مشابہ ہوں" (ابن اثیر صہ۹ طبری صہ۲)

ابن زیاد کا کوفہ میں آنا

ابن زیاد نے اپنے گھر والوں کے علاوہ پانچ سو آدمی اپنے ساتھ لیے اور بصرہ سے چلا ان میں سے کچھ راستے ہی میں ٹھہر گئے مگر اس نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی اور برابر چلتا رہا۔ قادسیہ پہنچ کر اس نے اپنے سپاہیوں کو وہیں چھوڑا اور براہِ فریب حجازی لباس پہنا، اونٹ پر سوار ہوا۔ اور بیس آدمی اپنے ساتھ لے کر اس راستہ سے جو حجاز سے کوفہ آتا تھا، مغرب و عشاء کے درمیان رات کی تاریکی میں کوفہ آیا۔ اس مکر و فریب سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کوفیوں میں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

بہت جوش ہے، یزید کے خلاف ایک لہر دوڑی ہوئی ہے ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ لوگ نہ پہچانیں بلکہ یہ سمجھیں کہ امام حسین تشریف لے آئے اور وہ اس طرح امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے نیز لوگوں کے جذبات کا بھی پتہ چل جائے گا اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ کون لوگ پیش پیش ہیں۔

اہل کوفہ جو ہمہ تن چشم انتظار حضرت امام ابرار تھے انہوں نے شب کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتے دیکھ کر دھوکا کھایا سمجھے کہ حضرت امام تشریف لے آئے نعرہ ہائے مسرت بلند کیے، مراسم عقیدت و سلام بجالائے اور مَرحَبًا بِكَ يَا ابْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اور قَدِمْتَ خَيْرَ مَقْدَمٍ کہتے ہوئے اس کے آگے پیچھے چلے، شور سن کر اور لوگ بھی گھروں سے باہر آ گئے اور ایک اچھے خاصے جلوس کی شکل بن گئی ابن زیاد بدنہاد دل میں جلتا اور کڑھتا ہوا چپ چاپ چلتا رہا اس نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ یہ لوگ امام کے بے چینی اور شدت سے منتظر ہیں اور اُن کے دل کس قدر ان کی طرف مائل ہیں۔ جب وہ دار الامارت (گورنر ہاؤس) کے قریب پہنچا تو حضرت نعمان بن بشیر نے شور و غل سن کر اور کثرت ہجوم دیکھ کر سمجھ لیا کہ امام تشریف لے آئے انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور چھت پر چڑھ کر پکارے کہ لے ابن رسول اللہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ خدا کی قسم! میں اپنی امانت آپ کے حوالے نہیں کروں گا اور نہ میں آپ سے لڑوں گا یہ سن کر ابن زیاد قریب ہوا اور کہا ارے دروازہ کھول تیرا بھلا نہ ہو، اس کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا اس نے اس کی آواز سے اس کو پہچان لیا اور پیچھے ہٹ کر لوگوں سے کہا خدا کی قسم یہ تو ابن مرجانہ ہے۔ نعمان نے دروازہ کھول دیا۔ ابن زیاد نے قصر امارت میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا اور لوگ بڑے افسوس اور مایوسی کے ساتھ منتشر ہو گئے۔ رات گزار کر صبح ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا ور ان کے سامنے یہ تقریر کی :-

"امیر المومنین یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر مقرر کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ انصاف کروں اور مطیع و فرماں بردار کے ساتھ احسان کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں میں اس حکم کی سختی سے پابندی کروں گا۔ جو شخص مطیع و فرمانبردار ہے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں گا اور جو شخص نافرمان ہے اس کے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

یہ ہے میرا چابک اور یہ ہے میری تلوار ہے تمہیں چاہیے تم اپنی خیر مناؤ اور اپنے اوپر رحم کرو۔"

اس تقریر کے بعد اس نے مشاہیر کوفہ کو گرفتار کیا اور ان سب سے کہا کہ تحریری ضمانت دو کہ تم اور تمہارے قبیلے کے لوگ کسی مخالف کو اپنے ہاں پناہ نہیں دیں گے اور نہ کسی قسم کی مخالفانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں گے اور اگر کسی نے کسی مخالف کو پناہ دے رکھی ہے تو وہ اس کو پیش کرے گا جو لکھ کر دے گا اور اس پر پابندی کرے گا وہ بری ہو جائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کا مال و جان دونوں ہم پر حلال ہوں گے۔ ہم اس کو قتل کر کے اسی کے دروازہ پر لٹکا دیں گے اور اس کے تمام متعلقین کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ابن زیاد کے آنے اور ڈرانے دھمکانے سے اہل کوفہ گھبرا گئے اور خوفزدہ ہو گئے اور ان کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی۔ حالات کے پیش نظر حضرت مسلم نے مختار بن عبیدہ کے ہاں رہنا مناسب نہ سمجھا اور رات کے وقت وہاں سے نکل کر اکابر کوفہ میں سے ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ مذحجی کے ہاں آئے۔ ہانی کو آپ کا آنا سخت ناگوار ہوا کہنے لگا اگر آپ یہاں نہ آتے تو اچھا تھا۔ آپ نے فرمایا میں خاندان رسالت کا ایک غریب الوطن مسافر ہوں مجھے پناہ دو۔ ہانی نے کہا اگر آپ میرے مکان میں داخل نہ ہو گئے ہوتے تو میں یہی کہتا کہ آپ چلے جائیں لیکن اب یہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ آپ کو گھر سے نکال دوں۔ ہانی نے مکان کے زنانہ حصے کے ایک محفوظ کمرے میں آپ کو چھپا دیا۔

شریک بن اعور

شریک بن اعور سلمی جو محبان اہل بیت میں سے ایک بڑا محب تھا اور رؤسائے بصرہ میں سے ایک رئیس اور معزز شخص تھا اور ابن زیاد کے ساتھ بصرہ سے کوفہ آیا تھا۔ وہ بھی ہانی بن عروہ کا مہمان تھا۔ ابن زیاد اور دیگر امراء کے نزدیک وہ بڑا مکرم تھا وہ بیمار ہو گیا۔ ابن زیاد نے اس کو پیغام بھیجا کہ میں شام کو تمہاری عیادت کو آؤں گا۔ شریک نے حضرت مسلم سے کہا کہ اگر میں آپ کو ابن زیاد کے قتل کا موقعہ فراہم کر دوں تو آپ اُسے قتل کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ شریک نے کہا وہ مردود آج شام کو میری عیادت کے لیے آ رہا ہے آپ تلوار ہاتھ میں لے کر چھپ کر بیٹھ جائیں اور جب میں کہوں مجھے پانی پلا دو تو آپ ایک دم اس پر وار کر کے اس کا کام تمام کر دیں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

پھر بڑی آسانی کے ساتھ دار الامارت اور کوفہ پر قبضہ ہو جائے گا اور اگر میرا مرض اچھا ہو گیا تو بصرہ جا کر آپ کے لیے وہاں کا سب انتظام میں کر لوں گا۔

شام کو ابن زیاد خاص محافظ (باڈی گارڈ) کے ساتھ ہانی کے گھر آیا اور شریک کے بستر کے پاس بیٹھ کر مزاج پرسی کرنے لگا۔ اس کا محافظ بھی اس کے پاس کھڑا تھا۔ شریک نے بلند آواز سے کہا۔ مجھے پانی پلاؤ۔ پانی پلاؤ۔ تیسری مرتبہ کہا افسوس تم پر تم لوگ مجھے پانی سے پرہیز کراتے ہو پانی پلا دو خواہ اس میں میری جان چلی جائے۔ حضرت مسلم نہ نکلے تو شریک کو افسوس ہوا کہ کیسا زریں موقعہ کھو رہے ہیں تو وہ یہ شعر پڑھنے لگے ؎

مَا تَنْتَظِرُوْنَ بِسَلْمٰی اَنْ تُحَيُّوْهَا

اِسْقِنِيْهَا وَاِنْ كَانَتْ فِيْهَا نَفْسِيْ

سلمیٰ کو سلام کرنے میں تمہیں اب کیا انتظار ہے مجھے پلا دو خواہ اس میں میری جان بھی چلی جائے محافظ تاڑ گیا اور اس نے ابن زیاد کو آنکھ سے اشارۃً چلنے کو کہا ابن زیادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شریک نے کہا اے امیر میں تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا۔ میں پھر آؤں گا۔ محافظ اُسے دھکیلتا ہوا باہر لے گیا اور کہا خدا کی قسم تمہارے قتل کی سازش تھی۔ ابن زیاد نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تو شریک کی خاطر و عزت کرتا ہوں اور پھر یہ ہانی بن عروہ کا مکان ہے اور اس پر میرے باپ کے احسانات ہیں۔ محافظ نے کہا جو میں کہتا ہوں وہ بالکل درست ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔

ابن زیاد کے جانے کے بعد مسلم پردہ سے باہر آئے تو شریک نے کہا افسوس! آپ کو اس کے قتل سے کس چیز نے روکا؟ فرمایا دو باتوں نے ایک تو میرے میزبان ہانی کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس کے گھر میں ابن زیاد کا قتل ہو۔ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے کہ کسی کو دغا سے قتل کرنا مومن کی شان نہیں۔

اللہ اللہ ان پاک لوگوں کے عدل و انصاف اور پابندیٔ شریعت و سنت کو دیکھئے کہ ایسے بدترین دشمن کے ساتھ خلاف سنت سلوک کو مناسب نہیں سمجھتے ورنہ ایک سخت ترین دشمن کو ختم کرنے کا یہ بہترین موقع تھا اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ میں نے سُنا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کوئی کہتا ہے۔

یَا مُسْلِمُ لَا تَخْرُجْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰبُ اَجَلَہٗ۔

اے مسلم نہ نکل یہاں تک کہ کاتب تقدیر کا لکھا ہوا اپنی مدت کو پہنچ جائے۔

تین دن کے بعد شریک نے وفات پائی اور ابن زیاد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد میں جب اس کو معلوم ہوا کہ شریک نے مسلم کو اس کے قتل کے لیے کہا تھا تو اُس نے کہا خدا کی قسم میں کسی عراقی کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا اور واللہ اگر میرے باپ زیاد کی قبر وہاں نہ ہوتی تو میں ضرور شریک کی قبر کھدوا ڈالتا۔

مسلم کی تلاش اور جاسوس کی جاسوسی

حضرت مسلم ہانی کے گھر میں چھپے ہوئے تھے اور معتقدین وہاں بھی خفیہ طور پر ملاقات کے لیے آتے جاتے تھے اور بیعت کا سلسلہ برابر جاری تھا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چالیس ہزار افراد نے بیعت کر لی تھی۔

ادھر ابن زیاد برابر اس تجسس میں تھا کہ پتہ چلے کس نے ان کو پناہ دے رکھی ہے اور ہانی پر اس کو شُبہ تک بھی نہیں تھا۔ آخر اُس نے اپنے غلام معقل کو اس کام پر مامور کیا اور اس کو تین ہزار درہم دے کر سراغ لگانے کے طریقے سمجھا دیے۔ اس قسم کے راز معلوم کرنے کے لیے بہترین مقامات مسجدیں ہوتی ہیں کیوں کہ مسجدوں میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں چناں چہ وہ غلام بھی سیدھا جامع مسجد میں پہنچا اور بیٹھا رہا۔ اس نے دیکھا کہ ایک صاحب مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں یہ مسلم بن عوسجہ الاسدی تھے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ غلام آپ کے پاس گیا اور کہنے لگا میں ایک شامی غلام ہوں اور محبِ اہل بیت ہوں میرے پاس یہ تین ہزار درہم ہیں میں نے سُنا ہے کہ خاندان رسالت کے ایک صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں اور لوگوں سے فرزند رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بیعت لیتے ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ رقم بطور نذرانۂ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کو کسی کار خیر میں صرف کریں اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ حضرت کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، مسلم بن عوسجہ نے کہا مسجد میں اور لوگ بھی تھے تم نے اُن سے یہ کیوں نہیں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کہا مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا۔ آپ کے چہرے پر خیر و برکت کے آثار بتا رہے ہیں کہ آپ یقیناً ان کے دوستوں میں سے ہیں اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے، خدارا آپ مجھے اس سعادت سے محروم نہ کریں اور ان کا پتہ ضرور بتا دیں۔

غرض مسلم بن عوسجہ پر اس کی پُرفریب گفتگو اثر کر گئی اور انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ واقعی اہل بیت کا محب و معتقد ہے۔ دوسرے دن وہ اس کو حضرت مسلم کے پاس لے گئے اور اُس کی عقیدت مندی کی خود توثیق بھی کر دی۔ اُس نے تین ہزار درہم نذر پیش کر کے بیعت کی بیعت کے بعد وہ بڑی عقیدت سے روزانہ آپ کی خدمت میں صبح سب سے پہلے آتا اور رات کو سب سے بعد جاتا اور جو کچھ دیکھتا سنتا اس کی پوری رپورٹ ابن زیاد تک پہنچا دیتا۔ آپ نے وہ تین ہزار درہم ابوثمامہ صائدی کو دیے کہ ان سے ہتھیار خرید و۔

ہانی کی گرفتاری

ہانی بن عروہ کوفہ میں ایک مقتدر شخصیت تھے اور ابن زیاد کے ساتھ اُن کے پہلے کچھ تعلقات بھی تھے۔ حضرت مسلم کے آنے سے پہلے وہ ابن زیاد کے پاس جاتے ورملتے رہے۔ جب سے حضرت مسلم اُن کے ہاں آئے اس دن سے انہوں نے بیماری کا بہانہ کر کے آنا جانا اور ملنا چھوڑ دیا تھا۔ اُدھر ابن زیاد کو سب حالات معلوم ہو چکے تھے ایک دن اس کے پاس محمد بن اشعث (جعدہ کا بھائی جس نے امام حسن کو زہر دیا تھا) اور اسماء بن خارجہ آئے۔ ابن زیاد نے ان سے پوچھا ہانی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بیمار ہیں؟ ابن زیاد نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اچھا بھلا ہے اور سارا دن اپنے دروازہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ تم جاؤ اور اس سے کہو کہ اطاعت اور ملاقات دونوں ضروری ہیں انہیں ترک نہ کرے، وہ گئے اور جا کر کہا کہ ابن زیاد کو اطلاع ملی ہے کہ آپ اچھے بھلے ہیں اور سارا دن اپنے دروازہ پر بیٹھے رہتے ہیں اور ملاقات کو نہیں آتے ان کو کچھ بدگمانی سی ہو گئی ہے تو آپ ابھی ہمارے ساتھ چلیں تاکہ صفائی ہو جائے اور بدگمانی دور ہو جائے۔ ہانی اندر گئے اور حضرت مسلم سے یہ بات کی اور تیار ہو کر آ گئے اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ دارالامارت کے اندر پہنچ کر ابن زیاد کو سلام کیا مگر اس نے جواب نہ دیا۔ ہانی اس خلاف

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

معمول سلوک پر متعجب ہوئے اور دل میں کھٹکا اور خوف محسوس کیا کچھ دیر تک اسی طرح کھڑے رہے۔ ابن زیاد نے کہا ہانی یہ کیسی بات ہے کہ تم نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے اور روزانہ تمہارے گھر میں امیر المومنین یزید کی حکومت کے خلاف منصوبے بنتے رہتے ہیں اور ہتھیار خریدے جاتے ہیں اور لوگوں سے جنگ کرنے پر بیعت لی جاتی ہے؟ ہانی نے کہا یہ بالکل غلط ہے۔ ابن زیاد نے اسی وقت اس جاسوس معقل کو طلب کیا وہ آگیا تو کہا اس کو پہچانتے ہو؟ معقل کو دیکھ کر ہانی کے ہوش اڑ گئے۔ اب وہ سمجھے کہ یہ ظالم عقیدت و محبت کے پس پردہ دشمنی اور جاسوسی کر رہا تھا۔ اس عینی شاہد کے ہوتے ہوئے انکار کی گنجائش نہ تھی اس لیے انہوں نے اقرار کر کے صاف صاف بیان کر دیا کہ خدا کی قسم میں نے مسلم کو بلایا نہیں اور نہ انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میں تمہارے گھر آرہا ہوں۔ اچانک جب وہ میرے دروازہ پر آگئے اور مجھ سے پناہ طلب کی تو مجھے شرم آئی کہ خاندانِ رسالت کے ایک فرد کو گھر سے نکال دوں۔ اب میں تم سے پکا وعدہ کرتا ہوں اور جیسی ضمانت تم چاہو پیش کر دیتا ہوں، میں ابھی جا کر ان کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں تاکہ جہاں ان کی مرضی ہو وہ چلے جائیں اور پھر تمہارے پاس واپس آجاتا ہوں مجھے اتنی دیر کے لیے مہلت دے دو۔ ابن زیاد نے کہا خدا کی قسم تم اس جگہ سے اس وقت تک حرکت نہیں کر سکتے جب تک یہ عہد نہ کرو کہ تم مسلم کو ہمارے حوالے کرو گے۔ ہانی نے کہا خدا کی قسم میں اپنے اس مہمان کو جس کو میں پناہ دے چکا ہوں قتل کے لیے کبھی تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ ابن زیاد نے کہا تمہیں حوالے کرنا ہوگا ہانی نے کہا خدا کی قسم میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا تکرار سے جب بات بڑھنے لگی تو مسلم ابن عمرو الباہلی اٹھا اور کہا خدا امیر کا بھلا کرے ذرا مجھے ہانی سے گفتگو کا موقعہ دیا جائے؟ ابن زیاد نے اجازت دی تو باہلی، ہانی کو لے کر ایک طرف کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا کہ ابن زیاد دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ باہلی نے ہانی کو بہت سمجھایا کہ تم مسلم کو امیر کے حوالے کر دو اور انکار کر کے اپنی جان اور اپنی قوم کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ امیر نہ ان کو قتل کریں گے اور نہ اُن کو ضرر پہنچائیں گے۔ ہانی نے کہا اس میں میری سخت ذلت اور رسوائی ہے، باہلی نے کہا کوئی ذلت نہیں ہے۔ ہانی نے کہا اب تو میں خود بھی باہمت و طاقت ہوں اور میرے اعوان و انصار بھی بہت موجود ہیں، خدا کی قسم اگر میں تنہا ہوتا اور میرا کوئی یار و مددگار نہ ہوتا تو بھی میں پناہ دیے ہوئے مہمان کو دشمن کے حوالے نہ کرتا۔ باہلی ان

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کو مجبور کر رہا اور قسمیں دے رہا تھا مگر ہانی برابر انکار کر رہے تھے۔ ابن زیاد یہ دیکھ کر بے تاب ہو گیا اور باہلی سے کہنے لگا اسے میرے پاس لاؤ۔ چناں چہ ہانی کو اس کے پاس لے گئے اس نے غضب ناک ہو کر ہانی سے کہا مسلم کو میرے حوالے کرو ورنہ میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ ہانی نے کہا پھر تو تمہارے ارد گرد بھی چمکتی ہوئی تلواریں ہوں گی۔[1] یہ سن کر ابن زیاد نے ہانی کے منہ پر پے در پے ڈنڈے مارے کہ ہانی کی ناک پھٹ گئی اور ابرو کی ہڈی ٹوٹ گئی اور کپڑے خون میں لت پت ہو گئے۔ ہانی نے ایک سپاہی کی تلوار کے قبضہ پر ہاتھ ڈالا مگر اس نے زور سے چھڑا لیا۔ ابن زیاد نے کہا اب تو تو نے اپنا خون بھی ہمارے لیے مباح کر دیا۔ پھر حکم دیا کہ ان کو ایک کمرے میں بند کر دو اور پہرا بٹھا دو۔ اسماء بن خارجہ اُٹھے اور ابن زیاد سے کہا او دغا باز ان کو چھوڑ دے تو نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم انہیں تیرے پاس لائیں۔ جب ہم لے آئے تو تو نے ان کا منہ توڑ دیا اور ان کا خون بہایا اور اُن کے قتل کرنے کو بھی کہہ رہا ہے۔ ابن زیاد نے کہا اس کو بھی پکڑو اور مارو چناں چہ سپاہیوں نے ان کو بھی بہت مارا پیٹا اور پھر ان کو بھی قید کر دیا۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ امیر جو کچھ بھی کرے ہم تو اس پر راضی ہیں۔

شہر میں یہ افواہ اڑ گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے اس افواہ کو سن کر ہانی کے قبیلہ والے ہزاروں کی تعداد میں انتقام انتقام کا نعرہ لگاتے ہوئے آئے اور انہوں نے قصر امارات کا محاصرہ کر لیا اس قبیلہ کے سردار عمر بن الحجاج نے پکار کر کہا میں عمر ابن الحجاج ہوں اور میرے ساتھ قبیلہ مذحج کے شہ سوار ہیں ہم نے کبھی اطاعت سے انحراف نہیں کیا اور نہ جماعت سے علیحدگی اختیار کی ہے پھر ہمارے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہم انتقام لیں گے۔ سب نے پھر انتقام انتقام کے نعرے بلند کیے۔ ابن زیاد اس نازک صورت کو دیکھ کر بہت گھبرایا۔ اس نے قاضی شریح سے کہا آپ ہانی کو اپنی آنکھوں سے پہلے دیکھ لیں اور پھر ہانی کے قبیلہ والوں سے کہہ دیں کہ وہ زندہ ہے اور قتل کی افواہ غلط ہے۔

قاضی صاحب ہانی کو دیکھنے گئے۔ ہانی اپنے قبیلہ کے لوگوں کا شور و ہنگامہ سن رہے تھے انہوں نے قاضی صاحب کو دیکھ کر کہا یہ آوازیں میرے قبیلہ کے لوگوں کی ہیں۔ آپ اُن سے میرا

---

[1] ہانی کو یقین تھا کہ اس کا قبیلہ ضرور اس کی مدد کو نکلے گا۔ ۱۲

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حال بتا کر صرف اتنا کہہ دیں کہ اگر دس آدمی بھی اس وقت اندر آجائیں تو میں چھوٹ سکتا ہوں۔ اس وقت بھی ان کا خون بہہ رہا تھا۔ قاضی صاحب باہر آئے تو ابن زیاد نے اپنا ایک خاص جاسوس حمید بن بکر احمری اُن کے ساتھ کر دیا اور کہا آپ لوگوں سے صرف اتنا کہیں کہ ہانی زندہ ہے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں خدا کی قسم! اگر وہ جاسوس میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں ہانی کا پیغام ضرور اُن کے قبیلہ تک پہنچا دیتا۔ غرض قاضی صاحب نے لوگوں کے سامنے آکر کہا کہ ہانی زندہ ہے۔ اُس کے قتل کی خبر جو تم تک پہنچی ہے وہ غلط ہے۔ قاضی صاحب کی شہادت سن کر ان لوگوں نے کہا اگر وہ قتل نہیں کیے گئے تو خدا کا شکر ہے اور سب منتشر ہو گئے۔

ادھر حضرت مسلم نے عبداللہ بن حازم کو قصر امارت کی طرف بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ ہانی پر کیا گزری انہوں نے جا کر حالات معلوم کیے اور حضرت مسلم کو آکر بتایا کہ ابن زیاد نے ہانی کو مار مار کے زخمی کر دیا ہے اور اب وہ قید میں ہیں۔ ہانی کے قبیلہ کی عورتیں اس وقت فریاد و واویلا کر رہی تھیں۔ حضرت مسلم نے عبداللہ بن حازم سے کہا یا منصور امت پکار کر اپنے مددگاروں کو جمع کرو۔ جوں ہی انہوں نے پکارا تو وہ چار ہزار افراد جو خاص محبان اہل بیت تھے اور ارد گرد کے مکانوں میں چھپے ہوئے اسی وقت کے انتظار میں تھے فوراً نکل آئے۔ آن کی آن میں یہ نعرہ پورے کوفہ میں گونج گیا اور وہ سب لوگ جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جمع ہو گئے۔

اٹھارہ ہزار آدمیوں کے ساتھ حضرت مسلم آگے بڑھے اور قصر امارت کو گھیر لیا اور لوگ بھی آکر محاصرین کے ساتھ شریک ہوتے گئے یہاں تک کہ چالیس ہزار ہو گئے اور یہ سب ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔

ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف پچاس آدمی تھے۔ تیس پولیس کے افراد اور بیس رؤسائے کوفہ۔ ان کے علاوہ اور کوئی طاقت مدافعت کے لیے نہ تھی۔ وہ سخت گھبرایا اور اس نے قصر امارت کا دروازہ بند کرا دیا۔

وہ وقت ایسا تھا کہ اگر حضرت مسلم حملہ کرنے کا حکم دے دیتے تو اسی وقت قصر امارت پر قبضہ ہو جاتا اور ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی اور یہی لشکر سیلاب کی طرح آگے بڑھتا اور یزید کے اقتدار کو تنکے کی طرح بہا کر لے جاتا مگر آپ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

نے حملے کا حکم نہ دیا۔

اگرچہ یزید و ابن زیاد کی عداوت اظہر من الشمس تھی مگر پھر بھی آپ نے احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اس انتظار میں رہے کہ پہلے گفت گو سے حجت کرلی جائے۔ شاید کوئی صلح کی صورت پیدا ہو جائے اور مسلمانوں میں کشت وخون نہ ہو۔ لیکن یہ انتظار دشمن کے لیے بڑا مفید ثابت ہوا۔ اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ان اشراف کوفہ سے کہا جو اس کے پاس تھے کہ تم لوگ قصر امارت کی چھت پر چڑھ کر اپنے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو میری اور یزید کی حمایت میں انعام واکرام کا طمع و لالچ دلاؤ اور نافرمانی کرنے پر انعام واحسان سے محروم رہنے اور سخت سزا پانے کا خوف دلاؤ اور ان کو یہ بتاؤ کہ یزید کی فوجیں شام سے روانہ ہو چکی ہیں جو پہنچنے ہی والی ہیں پھر تم سمجھ لو کہ تمہارا کیا حال ہوگا۔ غرض جس طرح بھی ہو سکے ان کو مسلم سے الگ کردو۔ چناں چہ کثیر بن شہاب الحارثی۔ محمد بن اشعث۔ قعقاع بن شور الذہلی۔ شبث بن ربعی تمیمی۔ حجار بن الجبر العجلی شمر بن ذی الجوشن ضبابی وغیرہ نے قصر امارت کی چھت پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہنا شروع کیا

"لوگو! اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ شر اور فساد نہ پھیلاؤ۔ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ امیر المومنین یزید کی فوجیں شام سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکی ہیں تم کس طرح ان کا مقابلہ سکو گے۔ امیر ابن زیاد نے خدا سے عہد کر لیا ہے کہ اگر تم اسی وقت واپس نہ ہوئے اور جنگ پر آمادہ رہے تو وہ تم سے بہت برا سلوک کرے گا اور سخت ترین سزائیں دے گا تمہارے بچوں کو قتل کرے گا تمہارا مال لوٹ لے گا۔ تمہاری جائدادیں ضبط کرے گا۔ تم لوگ اپنے انجام پر نظر ڈالو اور اگر تم اطاعت کروگے تو وہ تمہیں اعزازات اور انعامات دے گا۔ تم اپنے اور ہمارے حال پر رحم کرو اور اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔"

اشراف کوفہ کی خوف زدہ کر دینے والی تقریروں سے متاثر ہو کر لوگ متفرق اور منتشر ہونے لگے عورتوں اور مردوں نے اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو بلا بلا کر سمجھانا اور ساتھ چھوڑنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ لوگ جانے لگے۔ دس ادھر سے بیس ادھر سے۔ اس طرح لوگ ساتھ چھوڑتے گئے یہاں تک کہ مغرب کی نماز کے وقت تک صرف تیس آدمی حضرت مسلم کے ساتھ رہ گئے۔ جب آپ نے اپنے حامیوں کی یہ غداری اور بدعہدی دیکھی تو بہت مایوس ہوئے۔ نماز کے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

بعد ان تیس آدمیوں کے ساتھ آپ کندہ کے محلہ کی طرف چلے۔ اس محلہ تک پہنچتے پہنچتے یہ تیس آدمی بھی ایک ایک کرکے ساتھ چھوڑ گئے اور حضرت مسلم تنہا رہ گئے۔ کس مپرسی کا عالم ہے۔ جس محب کے دروازے پر جاتے ہیں دروازہ بند پاتے ہیں۔ بھرے شہر میں کوئی محفوظ جگہ نظر نہیں آتی جہاں رات گزار سکیں۔

نہ مونسے نہ شفیقے نہ ہمدمے دارم — حدیث دل بکہ گویم عجب غمے دارم

اللہ اللہ یہ مسلم تھے وہ پیارے مہمان — کس قدر جن کو تمناؤں سے بلوایا یہاں

جن سے کیں بیعتیں کتنے کیے عہد و پیماں — آج وہ تنہا ہیں رخصت ہوئے ہمدرد کہاں

ہائے جاتی ہی رہی شرم و حیا کوفہ کی
ہائے رخصت ہوئی بالکل ہی وفا کوفہ کی

آج کوفہ کے مقفل ہوئے سب دروازے — آج کوفہ کے مکانات بھی سب بند ہوئے

آج روپوش ہیں مسلم کو بلانے والے — آج سب چھپ گئے کوفہ کے گھر لانے والے

ایک ہی شب میں ہوئی ساری محبت کافور
آزمائش جو ہوئی ہوگئی الفت سب دور

آہ! یہ اہل کوفہ وہی محبانِ اہل بیت اور شیعانِ علی تھے جنہوں نے سیکڑوں خطوط اور وفود بھیج کر اور بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار کرکے بلایا تھا۔ یہ وہی تھے جنہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کے بیعت کی تھی کہ جان و مال قربان کردیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور آج یہ حالت ہے کہ معمولی دھمکیوں سے مرعوب ہوکر اور دنیا کے مال و زر کے لالچ میں آکر ساتھ چھوڑ گئے۔ اندر گھس کر دروازے بند کرلیے اور خاندانِ رسالت کے چشم و چراغ حضرت امام عالی مقام کے نائب اور بھائی عالمِ غربت و مسافرت میں سخت پریشان ہیں کدھر جائیں۔ اس پریشانی کے ساتھ ایک اور تصور جو دل کو تڑپا رہا تھا وہ یہ کہ میں نے تو حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا ہے اور تشریف آوری کی پرزور التجا کی ہے یقیناً امام میری التجا رد نہیں فرمائیں گے اور ضرور مع اہل و عیال تشریف لے آئیں گے تو ان کوفیوں کی بے وفائی کی وجہ سے ان پر کیا کیا مصائب آئیں گے۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ے نہ قاصدے کہ سلامی بہ نزدِ یار برد — نہ محرمے کہ پیامے بآن دیار برد
فتادہ ایم بہ شہرِ غریب دیارے نیست — کہ قصۂ زغریبی بہ شہرِ یار برد
ے غم یہی حضرت مسلم کو بہت کافی تھا — اتنے میں آ گئے یاد ان کو امام الشہدا
درد سینہ میں اٹھا دل نے بہ صد رنج کہا — تو نے افسوس کہ حضرت کو ہے نامہ لکھا
اہل کوفہ کی عقیدت کا ہے نقشہ اس میں — حال سب ان کی محبت کا ہے لکھا اس میں
مل گیا ہوگا انہیں میرا یہ خط اور سلام — مطمئن ہو گئے ہوں گے مری باتوں سے امام
رد نہ فرمائیں گے حضرت کبھی میرا پیغام — چل پڑے ہوں گے مع اہل کے وہ شاہ امام
آ پہنچیں گے یہاں ان کو مصائب و بلا
کتنا ہوگا نہ خبر ان پہ یہاں جور و جفا

حضرت مسلم ان تصورات میں کھوئے ہوئے انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے کہ ایک عورت طوعہ نامی اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھی نظر آئی وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی، آپ نے اس سے پانی مانگا۔ اس نے پانی لا کر دیا آپ نے پیا وہ برتن اندر رکھ کر پھر باہر آئی تو آپ کو وہیں بیٹھے پاکر کہا اے اللہ کے بندے کیا تو نے پانی نہیں پی لیا؟ آپ نے فرمایا ہاں پی لیا ہے! کہنے لگی تو اب اپنے گھر جاؤ؟ آپ خاموش رہے اس نے تین بار یہی کہا۔ پھر آپ خاموش رہے تو اس نے کہا آپ کا رات کے وقت میرے دروازے پر بیٹھنا مناسب نہیں میں کہتی ہوں اپنے گھر جاؤ۔ آپ نے فرمایا اس شہر میں میرا کوئی گھر اور ٹھکانا نہیں میں ایک مسافر ہوں اور اس وقت سخت مصیبت میں مبتلا ہوں۔ ایسے میں کیا تم میرے ساتھ کوئی نیکی کر سکتی ہو؟ شاید میں کسی وقت اس کا بدلہ دے سکوں ورنہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس کا اجر دیں گے۔ اس نے کہا کس قسم کی نیکی؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے مجھے دھوکا دیا اور سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور اب میں جس حال میں ہوں تم دیکھ رہی ہو۔ کوئی جگہ میرے لیے ایسی نہیں جہاں میں رات گزار سکوں؟ اس نے کہا آپ مسلم بن عقیل ہیں؟ فرمایا ہاں! اس خدا ترس نیک عورت نے آپ کو اندر بلا لیا اور اپنے مکان کے ایک کمرے میں فرش بچھا دیا۔ آپ اس پر بیٹھ گئے۔ اس نے کھانا پیش کیا آپ نے کھایا نہیں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اور اس کو دعائیں دیں۔

اُدھر جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ تمام اہل کوفہ مسلم کا ساتھ چھوڑ گئے اور اب کوئی اُن کے ساتھ نہیں رہا تو اس نے اعلان کیا کہ جس نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی اس کے لیے امان نہیں اور جو ان کو گرفتار کر کے لائے یا گرفتار کرائے اسے انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد اس نے رئیس الشرط (آئی جی پولیس) حصین بن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کی ناکہ بندی کر کے گلی کوچوں میں آدمی مقرر کر دو اور گھر گھر کی تلاشی لو اور خبردار یہ شخص (مسلم) کسی راستے اور کسی طریقے سے بھی جانے نہ پائے۔ اگر یہ شخص کسی طرح نکل گیا اور تم اس کو گرفتار کر کے میرے پاس نہ لائے تو تمہاری بھی خیر نہیں۔

ادھر کچھ دیر کے بعد اس عورت کا وہ لڑکا جس کی وہ منتظر تھی آ گیا۔ جب اس نے اپنی ماں کو بار بار اس کمرے میں آتے جاتے دیکھا تو سبب پوچھا۔ بڑھیا نے پہلے تو چھپایا لیکن جب بیٹے نے بہت زیادہ اصرار کیا تو راز داری کا عہد و پیمان لے کر بتا دیا۔ یہ لڑکا شرابی اور آوارہ قسم کا تھا۔

ابن زیاد کے اس اعلان پر وہ ظالم لڑکا دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اور حصول انعام کا لالچ اس کے دل میں ایسا پیدا ہوا کہ رات کاٹنی مشکل ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ گھر سے نکلا اور جا کر عبد الرحمٰن بن محمد بن اشعث کے پاس گیا۔ ابن اشعث ابن زیاد کے پاس قصر امارت میں تھا عبد الرحمٰن نے اپنے باپ ابن اشعث کو ایک طرف بلا کر سب بات بتا دی اور ابن اشعث نے ابن زیاد کو بتا دیا۔ اس طرح ابن زیاد کو حضرت مسلم کا پتہ چل گیا۔

ابن زیاد نے اسی وقت ابن اشعث سے کہا کہ ابھی جاؤ اور مسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ اور عمرو بن عبید اللہ بن عباس السلمی کو بنو قیس کے ستر۷۰ یا اسی۸۰ آدمی دے کر اس کے ہمراہ کر دیا انہوں نے اس بڑھیا کے مکان پر پہنچ کر احاطہ کر لیا اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے چند آدمی تلواریں لے کر اندر داخل ہوئے۔ آپ نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو باہر نکال دیا۔ انہوں نے پھر اندر گھس کر سخت حملہ کیا۔ آپ نے نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ ان سب کا مقابلہ کیا اور ان کو پھر نکال باہر کیا اسی طرح آپ ان سب کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے یہاں تک کہ ان کے بہت سے آدمی زخمی ہو گئے۔ اتنے میں بکیر بن حمران احمری نے آپ کے چہرے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

پر ایسا وار کیا کہ اوپر اور نیچے کا ہونٹ کٹ گیا اور سامنے کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت مسلم نے اس کے سر پر تلوار ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا دوسرا وار اس کے کندھے پر ایسا کیا کہ آپ کی تلوار اس کے سینہ تک اتر گئی۔

جب ان لوگوں نے آپ کی شجاعت و بہادری کا عالم دیکھا تو آپ کی تلوار خون خوار اور ضرب حیدری سے بچنے کے لیے کچھ تو باہر بھاگ گئے اور کچھ مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور اُوپر سے آپ پر سنگ باری کرنے اور لکڑیاں جلا جلا کر پھینکنے لگے۔ جب آپ نے ان کی یہ بزدلانہ طرز لڑائی دیکھی تو تلوار لیے ہوئے مکان سے باہر گلی میں آگئے اور اُن لوگوں سے لڑنے لگے جو باہر تھے ؎

سرِ میداں عجب جوشِ جہادِ مردِ میداں تھا
جلالِ ہاشمی زورِ یدِ اللّٰہی نمایاں تھا
بڑھا خنجر بکف جب یہ برادر زادۂ حیدر
مقابل چند ساعت بھی نہ ٹھہری فوجِ غارت گر
دکھائی بزدلوں نے پیٹھ ہوئے مفرور آگے سے
لپک کر بکر بن حمران نے یک بار پیچھے سے
کیا تلوار کا اک وار اس شدت سے چہرہ پر
کٹا جبڑا گرے دو دانت فوراً ٹوٹ کر باہر
سنان و تیغ سے ٹکڑے اڑائے نامرادوں کے
دکھایا جوشِ حق چھکے چھڑائے بدنہادوں کے

محمد بن اشعث نے جب آپ کی شجاعت اور اپنے ساتھیوں کی بزدلی و کمزوری دیکھی تو پُر فریب چال چلی اور آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ اکیلے کب تک مقابلہ کرو گے خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سنو آپ کے لیے امان ہے۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں تلوار چلے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ابن زیاد کے پاس تشریف لے چلیں تاکہ گفتگو کے ذریعے معاملہ طے ہو جائے مگر آپ یہ اشعار پڑھتے ہوئے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

برابر آگے بڑھتے جا رہے تھے ؎

اَقْسَمْتُ لَا اُقْتَلُ اِلَّا حُرًّا ۔۔۔ وَاِنْ رَاَیْتُ الْمَوْتَ شَیْئًا نُکْرًا

کُلُّ امْرِئٍ یَوْمًا مُلَاقٍ شَرًّا ۔۔۔ وَیُخْلَطُ الْبَارِدُ سُخْنًا مُرًّا

رُدَّ شُعَاعُ الشَّمْسِ فَاسْتَقَرَّا ۔۔۔ اَخَافُ اَنْ اُکْذَبَ اَوْ اُغَرَّا

میں نے قسم کھائی ہے کہ سوائے شریف اور آزاد کے کسی کو قتل نہ کروں گا۔ اگرچہ میں دیکھتا ہوں موت کو ایک سخت نامرغوب چیز، ہر شخص کو ایک نہ ایک دن ضرور سختی ومصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ٹھنڈا میٹھا، گرم وتلخ سے ضرور مخلوط ہوتا ہے۔ جب آفتاب کی چمکتی ہوئی شعاع (جیسی حقیقت) کو رد کیا گیا ہے پھر ثابت رہنا دیکھیے ہو سکتا ہے) مجھے اندیشہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ کہا جائے گا یا مجھے دھوکا دیا جائے گا۔

ابن اشعث نے یقین دلایا کہ آپ کے ساتھ نہ کوئی جھوٹ بولے گا نہ دھوکا وفریب کرے گا۔ نہ کوئی آپ کو مارے گا اور نہ قتل کرے گا۔ یہ سب آپ کی برادری کے لوگ ہیں۔ حضرت مسلم لڑتے لڑتے زخموں سے چور چور ہو چکے تھے اور مزید مقابلہ کی طاقت باقی نہ رہی تھی اس لیے اسی مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا میرا ارادہ بھی جنگ نہیں جب میرے ساتھ چالیس ہزار تھے اور ہم نے دارالامارت کا محاصرہ کیا ہوا تھا اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی اور اسی انتظار میں رہا کہ گفت گو کے ذریعے مصالحت کی کوئی شکل پیدا ہو جائے خون ریزی نہ ہو۔

ابن اشعث نے قریب آکر کہا۔ آپ کے لیے امان ہے۔ فرمایا میرے لیے امان ہے؟ ابن اشعث اور سب نے کہا آپ کے لیے امان ہے، لیکن عمرو بن عبید اللہ السلمی نے اس سے اتفاق نہ کیا۔

غرض اسی حالت میں آپ کو ایک خچر پر سوار کیا گیا اور تلوار آپ سے چھین لی گئی۔ تلوار چھن جانے سے آپ کو اپنی زندگی سے مایوسی ہو گئی، آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمایا یہ پہلا دھوکا ہے۔ ابن اشعث نے پھر اطمینان ویقین دلایا کہ آپ کے لیے امان ہے۔ آپ کو کوئی خطرہ پیش نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا اب امان کہاں اب تو صرف اُمید ہی اُمید ہے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

تم نے میری تلوار چھین لی اب میں بے دست و پا ہوں یہ کہہ کر آپ رونے لگے اور انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔

عمرو بن عبید اللہ نے رونے پر طعنہ کرتے ہوئے کہا روتے کیوں ہو؟ جو شخص مدعی حکومت و خلافت ہو کر مخالفین سے ٹکرے اس کو مصائب سے گھبرا کر رونا نہیں چاہیے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے لیے نہیں روتا بلکہ اپنے اہل وعیال اور حسینؓ اور آل حسینؓ کے لیے روتا ہوں، جو تمہارے بلانے پر یہاں آرہے ہیں۔ یہ خیال مجھے رُلا رہا ہے کہ اُن پر کیا کیا مصیبتیں آئیں گی؟

کہا مسلم نے میں روتا نہیں رونا تو اس کا ہے — حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے
چلا دنیا سے میں کعبہ سے وہ اب چلنے والے ہیں — یہ رونا ہے کہ احکام قضا کب ٹلنے والے ہیں
مجھے آتا ہے رونا اس قیامت خیز منظر پر — مصیبت آئے گی میری بدولت آل اطہر پر

آپ نے محمد بن اشعث سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد تم اپنی دی ہوئی امان کو پورا کرنے میں عاجز ہو جاؤ گے۔ بہرحال ہمارے ساتھ اتنا سلوک تو کر دو کہ کسی طرح حضرت امام عالی مقام حسینؓ کے پاس میرے یہ حالات اور پیغام بھیج دو کہ محبّان اہل کوفہ نے میرے ساتھ غداری و دھوکا کیا ہے یہ وہی اہل کوفہ ہیں، جن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ کے والد ماجد موت یا قتل کی آرزو کرتے تھے یہ جھوٹے ہیں ان کے پاس ہرگز نہ آئیں بلکہ اپنے اہل بیت کے ساتھ واپس چلے جائیں، ابن اشعث نے کہا خدا کی قسم میں ضرور ایسا کروں گا چناں چہ اس نے یہ وعدہ پورا کیا کما سیاتی۔

ابن اشعث حضرت مسلم کو لیے ہوئے قصر امارت کے پاس پہنچا آپ کو دروازے کے پاس چھوڑ کر خود اندر گیا اور ابن زیاد سے سارا حال بیان کیا اور کہا کہ میں نے ان کو امان دی ہے ابن زیاد نے کہا تم امان دینے والے کون ہو؟ میں نے تمہیں صرف گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا امان دینے کے لیے نہیں؟ ابن اشعث دم بخود ہو گیا۔

حضرت مسلم بہت پیاسے تھے آپ نے قصر امارت کے دروازہ پر ٹھنڈے پانی کا ایک گھڑا دیکھ کر فرمایا مجھے اس میں سے پانی پلا دو؟ مسلم ابن عمرو الباہلی نے کہا دیکھتے ہو کیسا ٹھنڈا پانی ہے مگر خدا کی قسم تمہیں اس میں سے ایک بوند بھی نہ دیں گے اب تو تمہاری قسمت میں جہنم کا کھولتا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ہوا پانی ہی ہے آپ نے فرمایا تو کون ہے ؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جس نے حق کو پہچانا جب کہ تم نے اسے ترک کر دیا۔ میں وہ ہوں جس نے اُمت مسلمہ اور امام کی خیر خواہی کی جب کہ تم نے نافرمانی اور سرکشی کی (معاذ اللہ) میں مسلم بن عمرو الباہلی ہوں، آپ نے فرمایا خدا کرے تیری ماں تجھے روئے تو کیسا ظالم اور سنگ دل ہے۔ اے باہلہ کے بچے تو مجھ سے زیادہ نارِ جحیم اور ماءِ حمیم کا مستحق ہے۔

عمارہ بن عقبہ کو آپ کی حالت پر ترس آیا اُس نے اپنے غلام کو بھیجا وہ ٹھنڈے پانی کی ایک مٹکی اور کٹورا لایا۔ کٹورا بھر کر آپ کو دیا جوں ہی آپ نے اس کو منہ لگایا اس میں آپ کے مُنہ سے خون گرا اور وہ سارا پانی خون ہو گیا۔ غلام نے دوسری مرتبہ کٹورا بھر کر دیا وہ بھی خون سے بھر گیا تیسری مرتبہ پھر دیا جب پینے لگے تو سامنے کے دو دانت مبارک جو منہ میں اٹکے ہوئے تھے وہ کٹورے میں آرہے۔ آپ نے فرمایا الحمد للہ میرے مقدر میں اب دنیا کا پانی نہیں ہے اس کے بعد آپ کو اسی تشنہ لبی کی حالت میں جب کہ آپ کا منہ اور کپڑے خون میں لت پت تھے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ آپ نے قاعدہ کے مطابق اس کو سلام نہ کیا ایک سپاہی بولا کیا تم امیر کو سلام نہیں کرتے ؟ فرمایا اگر امیر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس پر میرا سلام نہیں اور اگر قتل کا ارادہ نہیں تو پھر اس پر بہت سے سلام ہوں گے۔ ابن زیاد نے کہا بلا شبہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ فرمایا واقعی ؟ ابن زیاد نے کہا ہاں ! فرمایا اچھا پھر مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنی قوم کے کسی شخص کو کچھ وصیت کر لوں ؟ کہا ہاں کر لو ؟ آپ نے عمرو بن سعد سے فرمایا میرے تمہارے درمیان قرابت ہے اس لیے میں تم سے تخلیہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ابن سعد نے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے ابن سعد سے کہا تمہیں اپنے ابن عم کی بات سننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ابن سعد اٹھ کر آپ کے ساتھ ایک طرف چلا گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے کوفے میں فلاں شخص سے سات سو درہم قرض لے کر اپنی ضرورتوں میں صرف کیے ہیں وہ قرض ادا کر دینا اور میرے قتل ہونے کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا اور حضرت حسین کے پاس کسی شخص کو بھیج دینا جو ان کو راستے سے واپس کر دے۔

ابن سعد نے ابن زیاد سے ان وصیتوں کے بارے میں پوچھا۔ ابن زیاد نے کہا جو وصیت

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

قرض سے متعلق ہے اس میں تمہیں اختیار ہے جیسا چاہو کرو۔ حسین کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ یہاں نہیں آئیں گے تو ہم بھی ان کا پیچھا نہیں کریں گے اور اگر وہ یہاں آئے تو پھر ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔

حضرت مسلم اور ابن زیاد

اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم سے کہا لوگ آپس میں متحد اور متفق تھے تم نے آکر ان میں تفرقہ اور اختلاف پیدا کر دیا اور ان کو ہماری مخالفت پر برانگیختہ کیا آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے میں اس لیے نہیں آیا بلکہ یہاں کے باشندے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ نے ان کے بزرگوں اور صالحین لوگوں کو قتل کیا اور خون ریزی کی اور ان پر قیصر و کسریٰ کی طرح حکومت کی، اس لیے ان لوگوں نے ہمیں بلایا اور ہم یہاں آئے کہ لوگوں سے عدل و انصاف کریں اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی دعوت دیں۔ ابن زیاد یہ سن کر غضب ناک ہو گیا اس نے کہا او فاسق (معاذ اللہ) تو اور یہ دعویٰ ؟ جس زمانہ میں تو مدینہ میں شراب پیا کرتا تھا۔ اس وقت تو تجھے خیال نہ آیا تھا کہ لوگوں میں عدل و انصاف کرنے آئے ؟ آپ نے فرمایا کیا میں شراب پیتا تھا ؟ خدا کی قسم ! خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے اور خود تجھے بھی یقین ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور ناپاک اتہام لگا رہا ہے میں ہرگز ایسا نہیں ہوں۔ شراب نوشی کرنے والا اور شرابی کہلانے والا وہ شخص ہے جس نے بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ محض ذاتی عداوت اور غیظ و غصہ سے ان کو قتل کرتا ہے جن کا قتل اللہ نے حرام فرمایا ہے اور اس ظلم و ستم کو اس نے لہو و لعب سمجھ رکھا ہے۔

ابن زیاد نے کہا خدا مجھ کو مارے اگر میں تجھے اس طرح قتل نہ کروں کہ آج تک اسلام میں س طرح کوئی قتل نہ ہوا ہو۔ فرمایا بے شک اسلام میں ایسی برائیوں اور بدعتوں کے جاری کرنے میں تجھ سے زیادہ کوئی مستحق نہیں۔ ہاں تم مجھے بہت بری طرح قتل کرنا۔ برے طریقہ سے مثلہ کرنا اور کوئی برائی نہ چھوڑنا کیوں کہ یہ تمہیں زیادہ سزاوار ہے۔ ان تلخ حقائق سے ابن زیاد جھلا اٹھا اور بالکل بے قابو ہو گیا۔ ظالم نے آپ کو اور آپ کے والد ماجد حضرت عقیل کو اور حضرت علی اور

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ آپ خاموش رہے اور پھر اُس سے کوئی کلام نہ کیا۔

حضرت مسلم کی شہادت

اس کے بعد ابن زیاد نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو اس محل کی چھت پر لے جا کر قتل کر دو اور سر اور دھڑ اس طرح نیچے پھینکو کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ آپ نے ابن اشعث سے کہا اگر تو نے امان نہ دی ہوتی تو میں اس طرح اس کے قبضے میں نہ آتا۔ اب تو میرے واسطے اپنی تلوار اٹھا او بری الذمہ ہو مگر وہ خاموش رہا۔

جلّاد آپ کو بالائے قصر لے گئے، آپ اس وقت تسبیح و تکبیر اور درود و سلام پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے۔

اے اللہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان تو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا اور ہمیں دھوکا دیا اور ہمارا ساتھ چھوڑ کر ذلیل کیا اور پھر ہمیں قتل کیا۔ آپ نے اپنا رُخ انور مکہ مکرمہ کی طرف کیا اور فرمایا ؎

اے بادِ صبا برائے خدا تعالےٰ — بسوئے کعبہ ذرا گزر کر
فرزندِ نبیؐ حسینؓ ہیں واں — تو ان کو تلاش در بدر کر
ان کو میرا سلام پہنچا کر — پھر بیاں حال سربسر کر
جفائیں اہل کوفہ کی بتانا — اور مرے قتل کی خبر کر
ظالم و بے وفا ہیں یہ کوفی — اُن کی باتیں نہ سن حذر کر
اور کہہ دے کہ اے جفا رسیدہ — از بہر خدا نہ رُخ ادھر کر

مسلم نے تو تجھ پہ جاں فدا کی
تو کعبے میں بہ عافیت بسر کر

جلّاد نے پے در پے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا (انا للہ و انا الیہ راجعون) اور آپ کا سر اور دھڑ مبارک نیچے پھینک دیا۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ہانی کی شہادت

حضرت مسلم کی شہادت کے بعد ابن اشعث نے حضرت ہانی کے بارے میں ابن زیاد سے کہا آپ جانتے ہیں کہ ہانی کا مرتبہ اس شہر میں اور اس کی قوم میں کیا ہے اور اس کی قوم جانتی ہے کہ میں اور میرے دو ساتھی اس کو تمہارے پاس لائے تھے میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری خاطر اس کو بخش دو ورنہ اس کی قوم کی عداوت و انتقام کا مجھے خوف ہے۔ ابن زیاد نے پہلے تو معاف کر دینے کا وعدہ کیا لیکن مسلم کا خیال کرتے ہی اس کا ارادہ بدل گیا اور اس نے ہانی کی گردن مارنے کا بھی حکم دے دیا۔ چناں چہ اس کے ترکی غلام نے حضرت ہانی کو بھی شہید کر دیا۔

ابن زیاد نے حضرت مسلم اور حضرت ہانی کے سروں کو یزید کے پاس بھیج دیا اور سب حالات سے مطلع کر دیا۔ حضرت مسلم کی شہادت ذی الحجہ ۶۰ھ کو ہوئی۔

چلنے لگی کچھ ایسی ہوا انقلاب کی　　　کانٹوں میں گھر گئے چمن مصطفٰیؐ کے پھول
معصوم مٹنے والوں کو دی ہے خدا نے داد　　　باغ جناں میں بھیج دیا ان کو بنا کے پھول

فرزندانِ مسلم

حضرت مسلم نے دار الامارت کے محاصرہ کے وقت اور بقول بعض طوعہ کے گھر میں قیام کے وقت اپنے دونوں فرزندوں کو قاضی شریح کے یہاں بھیج دیا تھا اور ان کو کہلوا دیا تھا کہ ان کو کسی طرح بحفاظت مدینۃ النبیؐ پہنچا دینا۔ جب حضرت مسلم شہید ہو گئے۔ قاضی صاحب نے آپ کے دونوں صاحبزادوں کو بلا کر پیار کیا اور با دیدۂ پُرنم ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا یہ دیکھ کر انہوں نے کہا چچا جان! آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ یوں ہمارے سروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ قاضی صاحب کی ہچکیاں بندھ گئیں فرمایا ہاں! پیارے بچو تمہارے ابا جان کو شہید کر دیا گیا ہے! یہ سنتے ہی دونوں شہزادوں پر کوہِ اَلم ٹوٹ پڑا۔ وا ابتاہ! واغربتاہ کہہ کر دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے اور تڑپنے لگے۔ قاضی شریح نے بچوں سے کہا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

مجھے ابن زیاد بدنہاد سے تمہارے بارے میں کوئی اچھی امید نہیں اور تمہارا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح تمہاری جان بچ جائے اور تم بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ جاؤ۔

عالم غربت میں یتیم ہو جانے والے نونہالوں پر بے کسی کی انتہا ہو گئی۔ ایک طرف باپ کی جدائی کا غم اور دوسری طرف اپنی جانوں کا خوف۔ چمن رسالت کے یہ پھول کملا گئے ؎

بدرد دل زلب شرح نالہ می شنویم　　　زسوز جاں جگرویں کباب می بینیم

اب قاضی صاحب کے پیش نظر ان دونوں بچوں کی جانوں کا مسئلہ تھا چنانچہ انھوں نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا "میں نے سنا ہے کہ آج باب العراقین سے ایک کارواں مدینہ منورہ جانے والا ہے، ان دونوں بچوں کو وہاں لے جاؤ اور کسی ہم درد اور محب اہل بیت کے سپرد کر کے اس کو حالات سے آگاہ کر دینا اور تاکید کر دینا کہ ان کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے۔ اسد دونوں صاحب زادوں کو ساتھ لے کر باب العراقین آیا اور معلوم کیا تو پتہ چلا کہ کارواں کچھ دیر پہلے جا چکا ہے۔ وہ دونوں بچوں کے ساتھ اسی راہ پر چلا کچھ دور گئے تو گرد کارواں نظر آئی وہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ گرد کارواں ہے اور زیادہ دور نہیں اب تم جلدی سے جا کر اس کارواں میں مل جاؤ اور دیکھو اپنے بارے میں کسی کو بتانا نہیں اور قافلے سے جدا نہ ہونا۔ میں اب واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسد واپس آ گیا اور بچے تیزی سے چلنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ گرد بھی غائب ہو گئی اور کارواں بھی نہ ملا۔

یہ پھول سے یتیم بچے عالم تنہائی میں انتہائی پریشانی کا شکار ہو کر پھر ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے اور نازوں سے پلنے والے ماں باپ کا نام لے کر جان کھونے لگے۔

پارہ پارہ نہ ہوں کیوں دیکھ کے دونوں کے جگر
عمر میں دیکھا تھا کب آنکھ سے ایسا منظر
ایسا صدمہ نہیں گزرا کبھی ننھے دل پر
خاک و خوں میں تڑپتا ہے پدر پیش نظر

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

... موں سے تھے خون کے آنسو جاری
کیا بیاں ہو سکے ان بچوں کی آہ و زاری

ادھر ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کے ساتھ ان کے دو فرزند محمد و ابراہیم بھی آئے تھے اور وہ بھی کوفے میں کسی گھر میں ہیں چناں چہ اس بدنہاد نے اعلان کرایا کہ جو مسلم کے دونوں بچوں کو ہمارے پاس لائے گا وہ انعام پائے گا اور جو انہیں چھپائے گا یا ان کو یہاں سے نکالنے میں ان کی مدد کرے گا وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ اس اعلان سے مال و زر کی ہوس رکھنے والے چند سپاہی قسمت آزمائی کے لیے نکلے اور انہوں نے تھوڑی سی محنت کے بعد سراغ لگا کر بچوں کو پا لیا اور پکڑ لائے اور کوتوال (افسر پولیس) کے حوالے کر دیا۔ کوتوال ان بچوں کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک ان کے متعلق میں یزید سے نہ پوچھ لوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔

داروغۂ حوالات (سپرنٹنڈنٹ) مشکور نامی ایک پرہیزگار شخص اور محب اہل بیت تھا۔ اس نے جب ان یتیموں کی مظلومی اور بے کسی کا حال دیکھا تو اس کو بہت ترس آیا اور اس کے جذبۂ ایمانی میں ایک تلاطم پیدا ہوا۔ اس نے عزم صمیم کر لیا کہ ان بچوں کی جان بچانی ہے خواہ اپنی جان چلی جائے۔ چناں چہ اس نے رات کے اندھیرے میں گلشن عقیل کے ان پھولوں کو جیل سے نکالا اور اپنے گھر میں لا کے کھانا کھلایا اور پھر شہر کے باہر قادسیہ کی راہ پر لا کر اپنی انگوٹھی بہ طور نشانی دی اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ قادسیہ کو جاتا ہے اس راہ پر چلے جاؤ۔ وہاں پہنچ کر کوتوال کا پتہ پوچھنا وہ میرا بھائی ہے اس کو مل کر میری یہ انگوٹھی دکھانا اور اپنا حال سنانا اور کہنا کہ ہمیں مدینہ طیبہ پہنچا دے وہ تمہیں بحفاظت تمام مدینہ پہنچا دے گا۔

مصیبت کے مارے دونوں بھائی چل پڑے لیکن قضا و قدر کے احکام جو نافذ ہو چکے ہوتے ہیں ان کو بندوں کی تدابیر نہیں بدل سکتی لَا رَادَّ لِقَضَائِہٖ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُکْمِہٖ رات بھر چلتے رہے مگر قادسیہ نہ آیا۔ جب صبح کی روشنی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اسی قادسیہ کی راہ پر تھے۔ قریب ہی ایک کھوکھلا سا درخت نظر آیا اس کے پاس ایک کنواں بھی تھا وہ اِس

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

درخت کی آڑ میں آکر بیٹھ گئے، سخت خوف لاحق تھا کہ کہیں پھر نہ کوئی پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے جائے۔ اتنے میں ایک کنیز پانی بھرنے آئی۔ جب اس نے ان کو اس طرح چھپے بیٹھے دیکھا تو قریب آئی اور ان کا حسن و جمال اور شانِ شہزادگی دیکھ کر کہا اے شہزادو تم کون ہو اور یہاں کیوں چھپے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تجھے کیا بتائیں کہ ہم کون ہیں ہم یتیم و بے کس اور ستم رسیدہ گم کردہ راہ مسافر ہیں۔ کنیز نے کہا تم کس کے بچے ہو تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا لفظ سنتے ہی ان کی آنکھیں پُرنم ہو گئیں۔ کنیز نے کہا میں گمان کرتی ہوں کہ تم مسلم بن عقیل کے فرزند ہو، باپ کا نام سنتے ہی دونوں بچے ہچکیاں بھرنے لگے۔ کنیز نے کہا صاحبزادو غم نہ کرو میں اس خاتون کی کنیز ہوں جو اہل بیت نبوت کے ساتھ سچی عقیدت و محبت رکھتی ہے بالکل فکر نہ کرو آؤ اور میرے ساتھ چلو میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں۔ دونوں شہزادے اس کے ساتھ ہو گئے کنیز نے ان کو اس خاتون کے سامنے پیش کیا اور سارا واقعہ سنایا۔ اس خاتون کو بڑی خوشی ہوئی اس نے اس خوشی کے صلہ میں اپنی اس کنیز کو آزاد کر دیا اور شہزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی ان کے قدم چومے یتیموں کی داستانِ غم سن کر آنسو بہلائے اور ہر طرح تسلی و تشفی دی کہ فکر نہ کرو اور کنیز سے کہا کہ یہ راز میرے شوہر حارث کو نہ بتایا ؎

گھر میں حارث کے جو وہ یوسف زنداں آئے ۔۔۔ موت بولی کہ سفر سے مرے مہماں آئے
زنِ حارث نے یتیموں کے قدم چوم لیے ۔۔۔ کپڑے دیکھے جو پھٹے سوزنِ مژگاں سے سیئے
پانی بھی گرم کیا پاؤں دھلانے کے لیے ۔۔۔ اور بچھا دیا فرش بھی ان کو سلانے کے لیے
نہر پر صبح بڑی دھوم سے مہمانی ہے ۔۔۔ حلق ہے تیغ ہے جلاد ہے قربانی ہے

ادھر ابن زیاد کو اطلاع ہو گئی کہ مشکور نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے مشکور کو بلایا اور پوچھا کہ تو نے پسران مسلم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مشکور نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کو آزاد کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا تو مجھ سے نہ ڈرا؟ مشکور نے کہا جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا تجھے ان کے رہا کرنے میں کیا ملا؟ مشکور نے کہا او ستمگار ان بچوں کے پدر بزرگوار کو شہید کرنے میں تجھے تو کچھ نہ ملا، مگر مجھے ان بے گناہ بچوں کو جو اپنے جگر پر یتیمی کا داغ لیے ہوئے قید و بند کی مصیبت میں مبتلا تھے رہا کرنے میں ان کے جدِ اعلیٰ سے امید شفاعت ہے کہ حضور صدرِ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کونین و سید ثقلین جناب محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس خدمت کو قبول فرمائیں گے اور میری شفاعت فرمائیں گے جب کہ تو اس دولت سے محروم رہے گا۔ اس پر ابن زیاد غضب ناک ہوا اور کہنے لگا میں ابھی تجھے اس کی سزا دوں گا۔ مشکور نے کہا میری ہزار جانیں بھی ہوں تو آل نبی پر فدا ہیں ؎

من در رہِ او کجا بہ جان دا مانم — جان چیست کہ بہر او فدا نہ توانم
یک جاں چہ بود ہزار جان بایستے — تا جملہ بیک بار برو افشانم

ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو اتنے کوڑے مارو کہ یہ مر جائے اور پھر سر تن سے جُدا کر دو۔ جلاد نے کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ پہلے کوڑے پر مشکور نے کہا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم دوسرے پر کہا الٰہی مجھے صبر دے۔ تیسرے پر کہا الٰہی مجھے بخش دے۔ چوتھے پر کہا الٰہی مجھے فرزندانِ رسول کی محبت میں یہ سزا مل رہی ہے۔ پانچویں پر کہا الٰہی مجھے رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کے پاس پہنچا دے پھر مشکور خاموش ہو گیا اور جلاد نے اپنا کام پورا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ؎

جانش مقیم روضۂ دارالسرور باد — گلشن سرائے مرقد او پر ز نور باد

ادھر وہ نیک خاتون دن بھر بہ دل و جان بچوں کی خدمت اور دل جوئی میں مشغول رہی رات کے وقت ان کو ایک علیحدہ کمرے میں سلا کر آئی تھی کہ اس کا شوہر (حارث) آگیا۔ نہایت تھکا ماندہ تھا۔ خاتون نے پُوچھا۔ آج سارا دن تم کہاں رہے کہ اتنی دیر سے آئے؟ کہنے لگا صبح میں امیر کوفہ ابن زیاد کے پاس گیا تھا۔ وہاں مجھے معلوم ہوا کہ داروغۂ جیل مشکور نے پسرانِ مسلم بن عقیل کو قید سے رہا کر دیا ہے اور امیر نے اعلان کیا ہے کہ جو ان کو پکڑ کر لائے یا ان کی خبر دے اس کو گھوڑا و جوڑا اور بہت سا مال دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ ان کی تلاش میں نکلے ہیں۔ میں بھی انہی کی تلاش میں اِدھر اُدھر سرگرداں رہا اور اس قدر بھاگ دوڑ کی کہ میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا اور مجھے پیدل ان کی جستجو میں پھرنا پڑا۔ اس لیے تھکاوٹ سے چور چور ہو گیا ہوں۔ عورت نے کہا۔ اے بندۂ خدا اللہ سے ڈر تجھے فرزندانِ رسول اللہ سے کیا کام ہے؟ کہنے لگا تُو خاموش رہ تجھے نہیں معلوم ابن زیاد نے اس شخص کو گھوڑا و جوڑا اور بہت سا مال دینے کا وعدہ کیا ہے جو ان بچوں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کو اس کے پاس پہنچائے یا اُن کی خبر دے۔ عورت نے کہا کس قدر بدبخت ہیں وہ لوگ جو مالِ دنیا کی خاطر ان یتیموں کو دشمن کے حوالے کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں اور دین کو دُنیا کے عوض میں دے رہے ہیں۔ حارث نے کہا تجھے ان باتوں سے کیا تعلق تو کھانا لا۔ عورت نے کھانا لاکر دیا وہ کھا کر سو گیا۔

جب آدھی رات ہوئی تو بڑے بھائی (محمد بن مسلم) نے خواب دیکھا اور بیدار ہو کر اپنے چھوٹے بھائی (ابراہیم) کو جگاتے ہوئے کہا بھائی اب سونے کا وقت نہیں رہا اٹھو اور تیار ہو جاؤ اب ہمارا وقت بھی قریب آگیا ہے۔ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی و حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بہشتِ بریں میں ٹہل رہے ہیں کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر ہمارے ابا جان سے فرمایا مسلم تم چلے آئے ان دونوں بچوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے۔ ابا جان نے ہماری طرف دیکھ کر کہا یا رسول اللہ! میرے یہ بچے بھی آنے ہی والے ہیں۔ یہ سُن کر چھوٹے نے بڑے بھائی کے منہ پر اپنا منہ رکھ کے کہا وَا وَیلَاہُ وَا مُسلِمَاہُ! اور رونا شروع کر دیا۔ بڑے کے صبر کا پیمانہ بھی چھلک اٹھا تو دونوں نہایت درد کے ساتھ روئے اور چلائے ان بچوں کے رونے چلانے کی آواز سے اس کم بخت حارث کی آنکھ کھل گئی عورت سے کہنے لگا یہ کن کے رونے کی آواز ہے میرے گھر میں یہ کون ہیں جو اس طرح رو رہے ہیں عورت بے چاری سہم گئی اور کچھ جواب نہ دیا۔ اس ظالم نے خود اٹھ کر چراغ جلایا اور اس کمرے کی طرف چلا جس سے رونے کی آواز آرہی تھی اندر داخل ہو کر دیکھا کہ دونوں بچے گلے مِل کر ابا ابا کہہ کر تڑپ رہے ہیں۔ کہنے لگا تم کون ہو؟ چوں کہ ان بچوں نے یہی سمجھا تھا کہ یہ محبوں کا گھر اور جائے پناہ ہے اور اہل خانہ ہمارے خیر خواہ ہیں اس لیے صاف کہہ دیا کہ ہم فرزندانِ مسلم بن عقیل ہیں۔ حارث نے کہا عجیب! میں تو سارا دن تمہاری تلاش میں سرگرداں رہا یہاں تک کہ میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا اور تم میرے ہی گھر میں موجود ہو۔ یہ سُن کر اور اس ظالم کے تیور دیکھ کر بچے سہم گئے اور تصویر حیرت بن گئے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی جب یہ سنگ دلی اور بے رحمی دیکھی تو اس کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر عاجزی و زاری کرتے ہوئے کہنے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

لگی ان غریب الوطن یتیموں بے کسوں پر ترس کھا ؎

بے داد مسکن بریں یتیماں لطفے بہ نمائے چوں کریماں
ایں ہا بہ فراق مبتلا اند در شہر غریب و بے نوا اند
بہ گزر زسر جفائے ایشاں پرہیز کن از دعائے ایشاں

کہنے لگا خبردار! اپنی جان کی خیر چاہتی ہے تو خاموش رہ۔ عورت بے چاری سہم گئی اور خاموش ہو گئی۔ حارث نے کمرے کا دروازہ مقفل کر دیا تاکہ اس کی بیوی ان بچوں کو کہیں اور منتقل نہ کر سکے۔

جب صبح ہوئی تو اس سنگ دل نے تلوار ہاتھ میں لی اور ان دونوں بچوں کو ساتھ لے کر چلا۔ عورت نے جب دیکھا تو اس سے نہ رہا گیا، ننگے پیر پیچھے دوڑی اور منت و سماجت کرتی ہوئی کہہ رہی تھی اللہ سے ڈر اور ان یتیموں پر رحم کر ؎

جس وقت نمودار ہوئے صبح کے آثار پھر لے کے چلا ہائے یتیموں کو جفا کار
چلاتی چلی پیچھے ضعیفہ جگر افگار بن باپ کے بچے ہیں یہ ظالم نہ انہیں مار
کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں
دو پھول تو رہنے دے محمدؐ کے چمن میں

ظالم پر بیوی کی زاری کا کچھ اثر نہ ہوا بلکہ الٹا اس کو مارنے کو دوڑا۔ بے چاری رک گئی اس ظالم کا ایک خانہ زاد غلام جو اس کے بیٹے کا رضائی بھائی بھی تھا اس کو معلوم ہوا تو وہ پیچھے دوڑا جب حارث کے پاس پہنچا۔ حارث نے اس کو کہا ممکن ہے کہ کوئی ان بچوں کو ہم سے چھین لے اور ہم اس انعام سے محروم رہ جائیں لہٰذا یہ تلوار لو اور ان کو قتل کر دو؟ غلام نے کہا میں ان بے گناہ بچوں کو کس طرح قتل کر دوں۔ حارث نے اس کو سختی سے کہا کہ میرے حکم کی تعمیل کر۔ اس نے انکار کیا ؎

بندہ را باین و باآں کار نیست پیش خواجہ قوت گفتار نیست

اور کہا مجھ میں اُن کے قتل کی ہمت نہیں مجھے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس سے شرم آتی ہے ان کے خاندان کے بے گناہ بچوں کو قتل کر کے کل قیامت کے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

دن کس منہ سے ان کے سامنے جاؤں گا۔ حارث نے کہا اگر تو ان کو قتل نہیں کرے گا تو میں تجھے قتل کردوں گا۔ غلام نے کہا قبل اس کے کہ تو مجھے قتل کرے میں تجھے قتل کردوں گا۔ حارث فنِ حرب میں بہت ماہر تھا اس نے اچانک آگے بڑھ کر غلام کے سر کے بال پکڑ لیے غلام نے اس کی داڑھی پکڑلی اور دونوں گتھم گتھا ہو کر بُری طرح لڑنے لگے۔ آخر ظالم نے اپنے غلام کو شدید زخمی کر دیا۔ اتنے میں اس کی بیوی اور لڑکا بھی پہنچ گئے لڑکے نے کہا اے باپ یہ غلام میرا رضائی بھائی ہے اس کو مارتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی ظالم نے بیٹے کو تو کوئی جواب نہ دیا اور غلام پر ایک ایسا وار کیا کہ وہ جامِ شہادت نوش کر کے جنت الفردوس پہنچ گیا۔ بیٹے نے کہا اے باپ میں نے تجھ سے زیادہ سنگ دل اور جفا کار کوئی نہیں دیکھا۔ حارث نے کہا او بیٹے اپنی زبان روک اور یہ تلوار لے اور ان دونوں بچوں کے سر قلم کر۔ بیٹے نے کہا خدا کی قسم! میں یہ کام ہرگز نہ کروں گا اور نہ تجھے یہ کام کرنے دوں گا۔ حارث کی بیوی نے پھر منت وزاری کرتے ہوئے کہا کہ ان بے گناہ بچوں کے خون کا وبال اپنے سر نہ لے اگر تو ان کو نہیں چھوڑتا تو اتنی بات مان لے کہ ان کو قتل نہ کر اور ان کو زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا اس سے بھی تیرا مقصود حاصل ہو جائے گا کہنے لگا مجھے اندیشہ ہے کہ جب اہلِ کوفہ ان کو دیکھیں گے تو شور و غوغا کر کے ان کو مجھ سے چھڑا لیں گے اور میری محنت ضائع ہو جائے گی۔

آخر وہ ظالم تلوار اٹھائے چمنستانِ رسالت کے ان پھولوں کو کاٹنے کے لیے ان کی طرف بڑھا ؎

جب سامنے بچوں کے آیا وہ ستم گار   اور دیکھی یتیموں نے چمکتی ہوئی تلوار
دل ہل گئے ہٹ ہٹ کے یہ کی دونوں نے گفتار   کر رحم کہ معصوم ہیں ہم بے کس و لاچار
مظلوم ہیں حامی کوئی مشکل میں نہیں ہے
ظالم نے کہا رحم میرے دل میں نہیں ہے

بیوی دوڑ کر حائل ہو گئی اور کہنے لگی ظالم خدا کا خوف کر اور عذاب آخرت سے ڈر۔ ظالم نے بیوی پر وار کر دیا وہ زخمی ہو کر گر گئی اور تڑپنے لگی۔ بیٹے نے ماں کو خاک و خون

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

میں تڑپتے دیکھا آگے بڑھ کر باپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا او باپ ہوش میں آ تجھے کیا ہو گیا۔ ظالم نے بیٹے پر بھی وار کر کے موت کی نیند سلا دیا۔ ماں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جب اپنے لختِ جگر کو اس طرح کشتۂ شمشیرِ جفا ہوتے دیکھا اس کا کلیجا بھی پھٹ گیا اور وہ بھی راہیِٔ جنت ہوئی۔

اب وہ ظالم پھر دونوں بچوں کی طرف آیا۔ دونوں نے سراپا التجا بن کر کہا اگر تجھے یہ اندیشہ ہے کہ ہمیں زندہ لے جانے کی صورت میں لوگ شور و غوغا کر کے چھڑا لیں گے اور تو مال سے محروم رہ جائے گا تو ایسا کر کہ ہمارے گیسو کاٹ کر غلام بنا کر فروخت کر دے۔ ظالم نے کہا اب تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ جب اس نے تلوار اٹھائی تو چھوٹے نے آگے بڑھ کر کہا پہلے مجھے مار سے

کی بڑے بھائی نے قاتل کی یہ منت اس آن
تجھ سے اک عرض میں کرتا ہوں اگر تو لے مان

سر مرا پہلے اگر کاٹے تو بڑا ہو احسان
چھوٹے بھائی پہ میں قربان میرا سر قربان

شوق سے اور سر اک صدمہ و ایذا دکھلا
پر نہ بھائی کا مجھے ننھا سا لاشا دکھلا

ناگاہ چلی ظلم کی تلوار بڑے پر
بالائے زمیں کٹ کے ستارا سا گرا سر

دریا میں ستم گار نے پھینکا تن اطہر
چلا کے یہ چھوٹے نے کہا ہائے برادر

دیکھا جو بڑے بھائی کا سر دستِ عدو میں
وہ گر کے تڑپنے لگا بھائی کے لہو میں

آیا جو شقی تیغ علم کر کے دوبارا
چلانے لگا بھائی کو وہ بھائی کا پیارا

مادر کو پکارا کبھی بابا کو پکارا
جلاد نے سر تن پر سے اس کا بھی اتارا

دھبا بھی نہ خوں کا لگا شمشیرِ عدو میں
بھائی کا لہو مل گیا بھائی کے لہو میں

دونوں لاشوں سے جدا کر دیے سر ہائے ستم
پھینک دیے نہر میں ظالم نے وہ لاشے اس دم

مل کے بہنے لگے وہ پیکرِ نوری باہم
لہریں پانی کی لگیں چومنے بڑھ بڑھ کے قدم

ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے
آئی مسلم کی صدا پیارے ہمارے پہنچے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

الغرض! جب اس ظالم نے ان معصوموں کو شہید کر دیا اور سروں کو جسموں سے جدا کر کے لاشے نہر میں پھینک دیے تو سروں کو توبرے میں ڈال کر ابن زیاد کی طرف چلا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ قصرِ امارت میں داخل ہو کر رسائی حاصل کی اور توبرا ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا۔ ابن زیاد نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا بہ امید انعام و اکرام تیرے دشمنوں کے سر کاٹ کر لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا یہ دشمن کون ہیں؟ کہا فرزندانِ مسلم بن عقیلؓ! ابن زیاد نے غضب ناک ہو کر کہا! تو نے کس کے حکم سے ان کو قتل کیا ہے؟ بدبخت میں نے یزید کو لکھا ہے کہ اگر حکم ہو تو زندہ بھیج دوں۔ اگر اس نے زندہ بھیجنے کا حکم دے دیا تو میں کیا کروں گا؟ تو ان کو میرے پاس زندہ کیوں نہیں لایا؟ کہنے لگا مجھے اندیشہ تھا کہ اہل شہر غوغا کر کے مجھ سے چھین لیں گے! ابن زیاد نے کہا اگر یہ اندیشہ تھا تو انہیں کسی محفوظ مقام پر ٹھہرا کر مجھے اطلاع کر دیتا میں خود منگوا لیتا تو نے بغیر میرے حکم کے ان کو کیوں قتل کیا؟ ابن زیاد نے اہل دربار کی طرف دیکھا اور مقاتل نامی ایک شخص سے کہا کہ اس کی گردن مار دے۔ چناں چہ اس کی گردن مار دی گئی اور وہ خسر الدنیا والآخرۃ کا مصداق ہوا ؎

نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم
نہ اِدھر کے رہے نہ اُدھر کے رہے

(روضۃ الشہداء ص ۱۵۰)

دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے سبطِ رسول نے
دامن میں اپنے بھر لیے صبر و رضا کے پھول

تمہارے عزم و ارادہ کی استقامت کو
قدم قدم پہ شجاعت سلام کہتی ہے

روانگئ امام عالی مقام

گزشتہ صفحات میں ذکر ہو چکا ہے کہ اہل کوفہ کے خطوط اور وفود آنے کے بعد امام عالی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کی تحقیق کے لیے کوفہ بھیجا تھا۔ انہوں نے اہل کوفہ کی بے پناہ عقیدت و محبت کو دیکھ کر امام عالی مقام کی خدمت میں لکھ بھیجا تھا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب باشندے آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں آپ فوراً تشریف لے آئیں۔

امام عالی مقام نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا اور ادھر کوفہ میں جو انقلاب برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو کوئی اطلاع نہ ہوئی تھی۔ جب اہل مکہ کو آپ کی تیاری کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کا کوفہ جانا پسند نہ کیا کیوں کہ وہ اہل کوفہ کی بے وفائی و غداری کو خوب جانتے تھے ان کو علم تھا کہ ان کوفیوں نے حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ چناں چہ انہوں نے آپ کو سختی سے روکا۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عمر بن عبد الرحمٰن مخزومی حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں محض خیر خواہی کے لیے حاضر ہوا ہوا ہوں اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ فرمایا ہاں کہو۔ تم سچے ہمدرد اور مخلص ہو۔ انہوں نے کہا آپ ایسے شہر میں جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں جہاں اس حکومت کے امراء و عمال موجود ہیں۔ جس کے قبضے میں بیت المال کا خزانہ ہے اور آپ جانتے ہیں عوام تو درہم و دینار کے بندے ہوتے ہیں اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو بلایا اور آپ کی

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

نصرت کا وعدہ کیا ہے وہی مال و دولت کے طمع و لالچ میں آکر آپ سے لڑیں گے اس لیے آپ کوفہ نہ جائیں۔

امام عالی مقام نے ان کے ہمدردانہ مشورہ کا شکریہ ادا کیا اور ان کو دعا دی۔

(ابن اثیر ص۱۵ ج۴، طبری ص۲۱۵ ج۶)

ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آئے اور فرمایا بھائی! لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں کیا یہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں انشاء اللہ میں ایک دو روز میں جانے والا ہوں! ابن عباس نے کہا آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کیجئے البتہ اہل کوفہ نے موجودہ حکومت کے حاکم کو قتل اور اپنے دشمنوں کو وہاں سے نکال دیا ہوتا اور حالات پر ان کا پورا پورا قابو ہوتا تو آپ کا جانا درست تھا لیکن اگر انہوں نے آپ کو ایسی حالت میں بلایا ہے کہ ان کا امیر اُن میں موجود ہے اور اس کی حکومت قائم ہے اور اس کے عمال خراج وصول کرتے ہیں تو آپ جان لیجئے کہ انہوں نے آپ کو صرف جنگ وجدال کے لیے بلایا ہے مجھے خوف ہے کہ یہ بلانے والے آپ کو دھوکا دیں گے جھٹلائیں گے، بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے بلکہ حکومتِ وقت سے مل کر آپ سے لڑیں گے اور سب سے بڑے دشمن ثابت ہوں گے۔ فَقَالَ الْحُسَيْنُ فَإِنِّي أَسْتَخِيرُ اللهَ وَأَنْظُرُ مَا يَكُونُ

امامِ پاک نے فرمایا میں خدا تعالیٰ سے خیر کا طالب ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ (ابن اثیر ص۱۵ ج۴، طبری ص۲۱۶ ج۶)

ان کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما آئے اور کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا میں کوفہ جانے کے لیے سوچ رہا ہوں کیوں کہ وہاں کے اشراف اور میرے شیعوں نے مجھے بلایا ہے اور میں خدا سے خیر چاہتا ہوں۔ ابن زبیر نے کہا اگر آپ کے شیعوں کی طرح میری وہاں کوئی جماعت ہوتی تو میں ضرور جاتا۔ پھر ابن زبیر کو خیال ہوا کہ میری اس بات سے امام کو میرے متعلق کوئی شبہ یا کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو جائے تو کہا کہ اگر آپ حجاز ہی میں رہ کر حصولِ خلافت کی کوشش فرمائیں تو ہم سب آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کا پورا پورا ساتھ دیں گے اور ہر طرح کی خیر خواہی کریں گے۔ امام نے فرمایا میں نے اپنے والد ماجد سے سُنا ہے کہ مکہ مکرمہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

میں ایک مینڈھا ہوگا جو مکّہ کی حرمت کو حلال کر دے گا میں نہیں چاہتا کہ وہ مینڈھا میں بنوں۔ غرض ابن زبیر نے بہت اصرار کیا کہ آپ حرمِ مکّہ ہی میں بیٹھے رہیں اور آپ کا سارا کام میں کروں گا۔ امام نے فرمایا مجھے حرم کے باہر قتل ہونا حرم کے اندر قتل ہونے سے زیادہ پسند ہے اور کسی طرح حرم میں رہنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ابن زبیر کے جانے کے بعد آپ نے فرمایا ابن زبیر کو دنیا کی کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں کہ میں حجاز سے چلا جاؤں اور اس کے لیے میدان خالی ہو جائے۔ (ابنِ اثیر صفحہ ۱۵، طبری صفحہ ۲۱۶)

اسی دن شام کو یا دوسرے دن صبح کو حضرت ابن عباس آئے اور کہا بھائی! میں چاہتا ہوں کہ صبر کروں مگر مجھے صبر نہیں آتا اس لیے کہ مجھے اس سفر میں تمہاری ہلاکت کا خوف ہے اہل عراق ایک غدار قوم ہیں۔ آپ ہرگز ان کے قریب نہ جائیں بلکہ اسی شہر میں مقیم رہیں۔ آپ اہل حجاز کے سردار ہیں۔ اگر اہل عراق اپنے دعویٔ محبت میں سچے ہیں اور واقعی آپ کو چاہتے ہیں تو آپ ان کو لکھیں کہ پہلے اپنے عامل (گورنر) اور دشمنوں کو شہر سے نکال دیں پھر آپ جائیں لیکن اگر آپ نہیں رُکتے اور یہاں سے ضرور ہی جانا چاہتے ہیں تو یمن چلے جائیں وہ ایک طویل و عریض ملک ہے وہاں قلعے اور پہاڑ ہیں اور وہاں آپ کے باپ کے شیعہ بھی موجود ہیں وہاں الگ تھلگ رہ کر لوگوں کے پاس اپنا پیغام بھیجیں مجھے اُمید ہے کہ اس طرح امن و عافیت کے ساتھ آپ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔

امام عالی مقام نے فرمایا بخدا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے مشفق اور خیرخواہ ہیں لیکن اب تو میں جانے کا مصمم ارادہ کر چکا ہوں۔ ابن عباس نے کہا اچھا ضرور ہی جانا ہے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح اپنی عورتوں اور بچوں کی آنکھوں کے سامنے قتل نہ کر دیے جائیں۔ پھر کہا آپ نے ابن زبیر کے لیے میدان خالی کر کے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اس کی طرف التفات نہیں کر سکتا تھا۔ خدائے وحدہٗ لاشریک کی قسم! اگر میں یہ سمجھتا کہ میں آپ سے دست و گریبان ہو جاؤں یہاں تک کہ میرا اور آپ کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جائیں۔ اور آپ میرا کہنا مان لیں گے تو میں ایسا بھی کر گزرتا۔ چوں کہ قضا و قدر کے احکام نافذ ہو چکے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

تھے، ہونا وہی تھا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ اس لیے حضرت ابن عباس کی کوشش بھی ناکام ثابت ہوئی اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر حضرت ابوبکر بن حارث حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کے والد ماجد مسند خلافت پر متمکن تھے۔ اور مسلمانوں کا ان کی طرف عام رجحان بھی تھا اور ان کے احکام پر سر بھی جھکاتے تھے۔ شام کے علاوہ تمام ممالک اسلامیہ اُن کے ساتھ تھے باوجود اس اثر و اقتدار کے جب وہ معاویہ کے مقابلے میں نکلے تو دنیا کی طمع میں لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور صرف ساتھ ہی چھوڑنے پر اکتفا نہ کیا بلکہ ان کے سخت مخالف ہو گئے اور خدا کی مرضی پوری ہو کر رہی۔ ان کے بعد آپ کے بھائی کے ساتھ عراقیوں نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کو معلوم ہے ان تجربات کے بعد بھی آپ اپنے والد ماجد اور اپنے بھائی کے دشمنوں کے پاس اس امید پر جا رہے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے یقین جانیے کہ عراقی دنیا کی طمع اور مال کی حرص میں آکر آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ سگانِ دنیا فوراً آپ کے دشمنوں سے مل جائیں گے یہ آپ کی محبت اور مدد کا دعویٰ کرنے والے ہی آپ کے دشمن ثابت ہوں گے

(مروج الذہب للمسعودی ص ۱۳۴/۵)

ابوبکر بن حارث کی پُر زور تقریر بھی آپ کے عزم و استقلال میں کوئی تزلزل پیدا نہ کر سکی اور آپ نے فرمایا ہاں خدا کی مرضی پوری ہو کر رہے گی غرض کہ اور بھی آپ کے چند احباب نے روکا مگر وہ بھی ناکام ہوئے اور آپ کے عزم راسخ میں کوئی تبدیلی نہ آئی چناں چہ ذی الحجہ ۶۰ھ کو اہل بیت نبوت کا قافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا۔

وَلَمَّا بَلَغَ مُحَمَّدًا مَسِيرُ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِلَى الطَّفِّ وَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَسْتٌ يَتَوَضَّأُ فِيهِ بَكَى حَتّٰى مَلَأَهُ مِنْ دُمُوعِهِ۔ (نور الابصار ص ۱۱۵)	اور جب محمد (ابن حنفیہ) کو اپنے بھائی حسین کے کربلا کی طرف روانہ ہونے کی خبر پہنچی تو اتنا روئے کہ ان کے آگے طشت رکھا تھا جس میں وہ وضو کرنے تھے وہ آنسوؤں سے بھر گیا۔

عمرو بن سعید بن العاص نے جو یزید کی طرف سے حاکم مکہ تھے اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کے ساتھ چند سواروں کو اس غرض سے بھیجا کہ قافلۂ امام کو روکیں چنانچہ انہوں نے سخت مزاحمت

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کی یہاں تک کہ ان میں اور امام کے ہم راہیوں میں مار پیٹ تک ہوئی۔ انہوں نے کہا۔ اے حسین! کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ جماعت سے نکلے جاتے ہو اور اُمت میں تفرقہ ڈالتے ہو؟ آپ نے فرمایا:۔ لِيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِيْئُوْنَ مِمَّا اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْئٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ۔

یعنی میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے تم میرے عمل سے بری اور میں تمہارے عمل سے بری۔

مقام صفاح پر عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اِس سے عراق کے حالات پوچھے اس نے کہا آپ نے ایک باخبر شخص سے حال پوچھا ہے حضرت ان لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی اُمیہ کے ساتھ ہیں تاہم قضاءِ الٰہی آسمان سے نازل ہوتی ہے خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا۔

لِلّٰهِ الْاَمْرُ وَيَفْعَلُ مَا يَشَآءُ وَكُلَّ يَوْمٍ رَبُّنَا فِيْ شَاْنٍ اِنْ نَزَلَ الْقَضَآءُ بِمَا نُحِبُّ فَنَحْمَدُ اللّٰهَ عَلٰى نَعْمَآئِهٖ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى اَدَآءِ الشُّكْرِ وَاِنْ حَالَ الْقَضَآءُ دُوْنَ الرَّجَآءِ فَلَمْ يَعْتَدِ مَنْ كَانَ الْحَقُّ نِيَّتَهٗ وَالتَّقْوٰى سَرِيْرَتَهٗ

امر اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور ہمارے رب کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے۔ اگر آسمانی فیصلہ ہماری پسند کے موافق ہوا تو ہم اس کی نعمتوں پر اس کے شکر گزار ہوں گے اور اس ادائے شکر میں بھی وہی معین و مددگار ہے اور اگر فیصلہ امید کے خلاف ہوا تو جس شخص کا مقصود حق ہو اور تقویٰ اس کا بھید اور راز ہو وہ (یہ) نہیں دیکھتا کہ فیصلہ موافق ہوا یا مخالف (ابن اثیر ص۱۶/۴ طبری ص۲۱۸/۶ البدایہ ص۱۶۶/۸)

فرزدق سے گفتگو کرنے کے بعد کاروانِ امام آگے بڑھا تو آپ کے بھانجے حضرت عون و محمد رضی اللہ عنہما اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا خط لے کر آئے اور آپ کو راستے میں مل کر خط پیش کیا اس میں لکھا تھا۔

میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ میرا یہ خط دیکھتے ہی فوراً واپس آجائیں کیوں کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت اور

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

آپ کے اہل بیت کی بربادی کا اندیشہ ہے اگر خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا اور دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا آپ اہل ہدایت کے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہیں آپ روانگی میں جلدی نہ کریں۔ اس خط کے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ والسلام۔ (طبری ص ۲۱۹/۶)

فرزندوں کے ہاتھ خط روانہ کر کے حضرت عبداللہ خود عمرو بن سعد حاکم مکہ کے پاس گئے اور اس سے گفت گو کر کے کہا کہ تم اپنی جانب سے ایک خط حضرت حسینؓ کے نام جس میں انہیں امان دینے اور ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ ہو لکھ کر انہیں واپس آنے کے لیے کہو۔ عمرو بن سعید نے کہا مضمون تم خود لکھ لو میں اس پر مہر کر دوں گا۔ چناں چہ حضرت عبداللہ نے عمرو کی طرف سے یہ خط لکھا۔

عمرو بن سعید (گورنر مکہ) کی طرف سے حسین بن علی کے نام۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اس ارادہ سے باز رکھے جس میں آپ کے لیے تباہی کا سامان ہو آپ کو وہ راہ دکھائے جس میں آپ کے لیے بہتری ہو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں۔ میں خدا سے امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اختلاف و انشقاق سے بچائے اس لیے کہ اس میں آپ کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ میں آپ کے پاس عبداللہ بن جعفر اور اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھیج رہا ہوں آپ ان کے ساتھ واپس آ جائیں میں آپ کو امان دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آؤں گا اس پر خدا گواہ اور وکیل ہے۔

عمرو نے اس تحریر پر مہر کر دی اور حضرت عبداللہ اور یحییٰ اس خط کو لے کر امام کے پاس پہنچے۔ آپ نے اس خط کو پڑھا اور واپس ہونے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا آخر کیا بات ہے آپ جانے پر اس قدر بہ ضد کیوں ہیں؟ فرمایا۔ اِنِّیْ رَاَیْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی الْمَنَامِ وَقَدْ اَمَرَنِیْ فِیْهَا بِاَمْرٍ وَاَنَا مَاضٍ لَهٗ عَلَیَّ کَانَ اَوْلِیْ فَقَالَا وَمَا تِلْكَ الرُّؤْیَا؟ قَالَ مَا حَدَّثْتُ بِهَا اَحَدًا وَّمَا اَنَا مُحَدِّثٌ بِهَا حَتّٰی اَلْقٰی رَبِّیْ۔ (طبری ص ۲۱۹/۶ ابن اثیر ص ۱۷/۴ البدایہ ص ۱۶۷/۸)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے آپ نے اس خواب میں مجھے ایک حکم دیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا خواہ وہ میرے خلاف پڑے یا موافق۔ انہوں نے کہا وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا میں نے اب تک نہ کسی سے بیان کیا ہے اور نہ کروں گا۔ یہاں تک کہ میں اپنے رب تعالیٰ سے جا ملوں۔

چھوٹ جائے اگر دولتِ کونین تو کیا غم
چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامانِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

پھر آپ نے عمرو بن سعید کے نام اس خط کا جواب لکھا۔ اما بعد!

فَإِنَّهُ لَمْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ مَنْ دَعَا إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَمِلَ صَالِحًا إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ دَعَوْتَ إِلَى الْأَمَانِ وَالْبِرِّ وَالصِّلَةِ فَخَيْرُ الْأَمَانِ أَمَانُ اللهِ وَلَنْ يُؤْمِنَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ لَمْ يَخَفْهُ فِي الدُّنْيَا فَنَسْأَلُ اللهَ مَخَافَةً فِي الدُّنْيَا تُوجِبُ لَنَا أَمَانَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنْ كُنْتَ نَوَيْتَ بِالْكِتَابِ صِلَتِي وَبِرِّي فَجُزِيتَ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالسَّلَامُ

(طبرانی ص۲۱۹) جو شخص اللہ عزوجل کی طرف دعوت دے اور نیک اعمال بھی کرے وہ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت کرنے والا کیوں کر ہو سکتا ہے بے شک میں ایک مسلمان ہوں۔ تم نے مجھے امان، نیکی اور صلہ کی دعوت دی ہے تو سنو بہترین امان اللہ کی امان ہے جو شخص دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ قیامت کے دن اس کو ہرگز امان نہ دے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دُنیا میں اپنا خوف عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن ہم اس کی امان کے مستحق ہو جائیں۔ اگر اس خط سے واقعی تم نے میرے ساتھ نیکی اور صلہ کی نیت کی ہے تو اللہ تمہیں دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام۔

اے مسلمان! اے عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غور کر اور خوب کر کہ امام عالی مقام کے دوستوں اور عزیزوں نے ازراہِ عقیدت و محبت کتنا سمجھایا اور زور لگایا کہ آپ کوفہ نہ جائیں وہ لوگ بے وفا ہیں اُن کی محبت کے دعوے صرف زبانوں تک محدود ہیں قلبی اور عملی طور پر وہ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ بلاشبہ دوستوں کے مشورے نہایت مخلصانہ تھے ان کو امام کے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

پاکیزہ مقصد سے ہرگز اختلاف نہ تھا بلکہ اہل کوفہ کی بے وفائی کے پیش نظر یہ خدشہ تھا کہ امام تکالیف و مصائب کا شکار ہو جائیں گے اور اگر خدانخواستہ آپ شہید ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا دنیا تاریک ہو جائے گی اور ہم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رہنما اور آقا سے محروم ہو جائیں گے مگر بہ صد جان قربان جائیں؛ امام کے پیش نظر تو نانا جان سید الانس والجان حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا وہ حکم مبارک تھا جس کو انہوں نے بہر صورت پورا کرنا تھا خواہ کچھ بھی ہوتا چناں چہ انہوں نے کر دکھایا۔

آج کل کے خائن، بد دیانت اور جاہل لوگ جو ان پاک لوگوں کی محبت سے محروم اور اسرارِ محبت و رموزِ معرفت سے بالکل بے خبر ہیں وہ اپنی شقاوت و بدنصیبی کی بنا پر امام عالی مقام پر طرح طرح کے ناپاک الزام اور بہتان لگا رہے ہیں۔ معاذ اللہ وہ امام کے بلند ترین مقام اور آپ کے عظیم الشان کردار کی حقیقت کو کیا جانیں۔ امام پاک کے ارشادات کو دیکھئے اور حق و صداقت پر استقلال کو دیکھئے۔ بلاشبہ آپ نے آنے والی نسلوں کے لیے عزیمت کی مثال قائم کر دی اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اس طرح ظالموں اور جابروں کے سامنے کلمۂ حق کہا اور حق و صداقت کے پرچم کو بلند رکھا جاتا ہے جس طرح وہ مرتبہ کے لحاظ سے بہت بلند تھے۔ اسی قدر انہوں نے اپنے بلند کردار کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے دکھا دیا کہ ہلا دینے والے مصائب اور تڑپا دینے والی اذیتیں بھی میرے قدموں میں تزلزل پیدا نہیں کر سکیں انہوں نے سبق دے دیا کہ حق و صداقت پر قائم رہتے ہوئے محبوب حقیقی پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا اور اس کے لیے ہر ذلت و مصیبت کو برداشت کر لینا یہ شکست نہیں یہ ذلت نہیں بلکہ عظیم الشان فتح اور دو جہان کی عزت ہے ؎

ہوئی نصیب جو میدان کربلا میں تمہیں — وہ کامیاب شہادت سلام کہتی ہے
بہ صد عقیدت، بہ صد افتخار و ادب — تمہیں رسول کی امت سلام کہتی ہے

ابن زیاد بدنہاد کو اطلاع مل چکی تھی کہ کاروانِ امام کوفے کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور برابر منزلیں طے کر رہا ہے اس نے اس کاروان سے نپٹنے کے انتظامات شروع کر دیے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

چناں چہ اس نے رئیس الشرطہ (انسپکٹر جنرل پولیس) حصین بن نمیر تمیمی کو ہدایات دے کر اس کے ساتھ ایک لشکر روانہ کر دیا۔ حصین بن نمیر نے قادسیہ پہنچ کر لشکر کو پھیلا دیا اور راستوں کی ناکا بندی کر دی اور چند سوار برائے جاسوسی آگے بھیجے تاکہ آپ کی نقل و حرکت کی خبریں بھی ملتی رہیں اور اہل کوفہ اور آپ کے درمیان پیغام رسانی کا سلسلہ قائم نہ ہو سکے۔

حضرت قیسؓ کی شہادت

امام پاک نے مقام حاجر میں پہنچ کر اپنے ایک رفیق قیس بن مسہر الصیداوی کو ایک خط دے کر کوفہ روانہ کیا اس خط میں آپ نے اہل کوفہ کو اپنے آنے کی اطلاع اور تکمیل مقصد کے سلسلے میں پوری طرح جدوجہد کرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ لیکن راستوں کی ناکا بندی تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ چنانچہ قیس جب قادسیہ کے قریب پہنچے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ حصین نے ان کو ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ قصر امارت کی چھت پر چڑھ کر کذاب ابن کذاب حسین بن علی کو گالیاں دو (معاذ اللہ) قیس نے اہل کوفہ کو امام کا پیغام پہنچانے کے لیے موقع غنیمت جانا فوراً اس حکم پر قصر کے اوپر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا لوگو! سیدنا حسین بن علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر اور خلق خدا میں سب سے بہتر ہیں میں ان کا قاصد ہوں وہ مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں ان کی دعوت قبول کرو پھر انہوں نے ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے بخشش کی۔ اس پر ابن زیاد غضب ناک ہو گیا اس نے حکم دیا کہ اس کو بہت اونچا اچھال کر اس طرح نیچے گراؤ کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی اور حضرت قیس کو اس طرح بے دردی سے گرایا گیا کہ ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں کچھ رمق باقی تھی کہ عبدالملک بن عمیر نے آگے بڑھ کر ذبح کر دیا اور امام پاک کا یہ سچا محب آپ پر نثار ہو گیا۔ رضی اللہ عنہ، بالکل ایسا ہی واقعہ حضرت عبداللہ بن یقطر کے ساتھ پیش آیا جن کو امام نے خط دے کر حضرت مسلم کے پاس بھیجا تھا۔ رضی اللہ عنہ،

(ابن اثیر صفحہ ۱۷/۴)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

عبداللہ بن مطیع سے ملاقات

مسافر کربلا اپنے قافلے کے ساتھ برابر آگے بڑھ رہا تھا۔ بطن ذی الرمہ سے آگے ایک کنوئیں پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا اے ابن رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ آپ نے اپنے آنے کے وجوہ اور اسباب بیان کیے تو انہوں نے کہا اے ابن رسول اللہ میں آپ کو حرمتِ اسلام، حرمتِ قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ کوفے نہ جائیں وہاں آپ یقیناً شہید کر دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا۔ لَنْ یُّصِیْبَنَا اِلَّا مَا کَتَبَ اللّٰہُ لَنَا ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہ پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ (اخبار الطوال ص ۲۵۵، ابن اثیر ص ۱۷/۴)

زہیر بن قین البجلی

عبداللہ بن مطیع سے ملاقات کے بعد امام پاک نے مقام زرود میں قیام کیا۔ وہاں قریب ہی ایک خیمہ نظر آیا۔ پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے؟ عرض کیا گیا۔ زہیر بن قین البجلی کا وہ حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا۔ انہوں نے اس بلانے کو ناپسند کیا۔ مگر چلے گئے جب ملاقات کی اور قافلۂ اہل بیت کا منظر دیکھا تو دفعتہً ایک بات یاد آئی جس سے خیالات کی دنیا بدل گئی اور چہرہ چمکنے لگا۔ اسی وقت اپنا خیمہ اکھڑوا کے آپ کے خیمہ کے قریب نصب کیا اور بیوی کو طلاق دے کر کہا تم اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤ اور اپنے ہمراہیوں سے کہا تم میں سے جو چاہے چلا جائے اور جو چاہے میرا ساتھ دے وہ سب حیران ہو گئے کہ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سنو! میں تمہیں بتاؤں۔ ہم نے بلنجر میں جنگ کی تھی فتح کے بعد بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا جس سے ہم بہت خوش ہوئے (حضرت) سلمان فارسی ہمارے ساتھ تھے انہوں نے فرمایا۔ (ایک وقت آئے گا)

اِذَا اَدْرَکْتُمْ سَیِّدَ شَبَابِ اَھْلِ مُحَمَّدٍ فَکُوْنُوْا اَشَدَّ فَرَحًا بِقِتَالِکُمْ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

مَعَهٗ بِمَا اَصَبْتُمُ الْیَوْمَ مِنَ الْغَنَآئِمِ فَاَمَّا اَنَا فَاَسْتَوْدِعُکُمُ اللّٰہَ۔

(ابن اثیر ص۲۲ طبری ص۲۲۵)

جب تم حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھر کے جوانوں کے سردار (حضرت حسین) کو پاؤ گے اور اُن کے ساتھ مل کر (ان کے دشمنوں سے) جنگ کرو گے تو آج جو تمہیں مال غنیمت کے ملنے پر خوشی ہوئی ہے۔ اس سے بہت زیادہ خوشی حاصل کرو گے پس میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں چناں چہ وہ امام کے ساتھ رہے اور کربلا میں جام شہادت نوش کر کے ابدی خوشیوں سے ہم کنار ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ ؎

ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے ‏ ‏ ‏ ‏ حشر میں شان کریمی ناز برداری کرے

شہادت مسلم کی خبر

امام پاک ابھی تک کوفہ کے حالات سے باخبر نہ تھے۔ جب آپ مقام ثعلبیہ میں پہنچے تو آپ کو حضرت مسلم اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر اس طرح ملی۔ عبداللہ بن سلیم اور مذری بن مشعل الاسدی فرماتے ہیں کہ ہم دونوں حج کو گئے تھے۔ حج سے فارغ ہوئے تو ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی خواہش تھی کہ بہت جلدی جا کر دیکھیں کہ حضرت حسین کو کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ ہم اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے چلے اور مقام زرود میں آپ کے قافلے کو ملے۔ جب ہم آپ کے قریب ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی اہل کوفہ میں سے آپ کی طرف آ رہا تھا آپ اُسے دیکھ کر ٹھہر گئے لیکن وہ دوسری طرف مڑ گیا۔ ہم نے آپس میں کہا چلو اس سے کوفہ کی خبر معلوم کریں۔ ہم اس کے پاس پہنچے اور اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا۔ ہم نے پوچھا تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں اسدی ہوں اور میرا نام بکیر بن مثعبہ ہے۔ ہم نے کہا ہم دونوں بھی اسدی ہیں۔ تعارف کے بعد ہم نے اُس سے کوفہ کی خبر پوچھی تو اُس نے کہا کہ میں ابھی کوفہ سے نہیں نکلا تھا کہ مسلم و ہانی قتل ہو چکے تھے میں نے دیکھا کہ لوگ ان دونوں کے پاؤں پکڑ کر ان کو بازار میں گھسیٹتے ہوتے لیے جا رہے تھے۔ یہ خبر سُن کر ہم دونوں پھر امام کے قافلے کے ساتھ آ ملے۔ شام کو جب امام نے مقام ثعلبیہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

میں منزل کی تو ہم نے آپ کو یہ سارا واقعہ سنایا اس المناک خبر کو سن کر آپ نے بار بار اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ، رحمۃ اللہ علیہما پڑھا ؎

جس دم یہ سنا شہ نے مسافر کی زبانی — آنکھوں سے بہے اشک جگر ہو گیا پانی

فرمایا کہ راحت میں ہماری خلل آیا — منزل پہ نہ پہنچے کہ پیام اجل آیا

پھر ہم نے عرض کیا ہم آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ لوٹ جائیں۔ کوفہ میں کوئی بھی آپ کا حامی و مددگار نہیں ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ جو آپ کے داعی تھے وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے اس پر بنو عقیل نے جوش میں آکر کہا خدا کی قسم! ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لیں گے یا ان کی طرح قتل نہ ہو جائیں گے۔ ان کی بات سن کر امام نے فرمایا لَاخَيْرَ فِي الْعَيْشِ بَعْدَ هٰؤُلَاءِ۔ ان لوگوں کے بعد زندہ رہنے میں کوئی لطف دکھلائی نہیں ؎

زندگی بہر دیدن یار است — یار چوں نیست زندگی عار است

آپ کے بعض ساتھیوں نے کہا واللہ! آپ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں۔ کجا مسلم کجا آپ؟ جوں ہی آپ کوفہ تشریف لے جائیں گے اور لوگ آپ کو دیکھیں گے سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے (طبری ص ۲۲۵/۶)

قافلہ یہاں سے آگے چلا۔ آپ جس جس دیہات سے گزرتے تھے لوگ جوق در جوق آپ کے ساتھ ہوتے جاتے تھے۔ زبالہ پہنچے تو آپ کو عبداللہ بن یقطر کی شہادت کی خبر ملی۔

آپ کی تقریر

جب آپ کو اس قسم کی المناک خبریں ملیں تو آپ نے اپنے سب رفقاء کو جمع کر کے فرمایا ہمیں مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر کے قتل کی خبریں مل چکی ہیں۔ ہمارے شیعوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے لہٰذا تم میں سے جو شخص واپس جانا چاہتا ہے وہ خوشی سے جا سکتا ہے ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں۔

یہ آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو کسی اور خیال کے پیش نظر آپ کے ساتھ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ہو گئے تھے وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں اور نہ اپنے آپ کو آپ کے ساتھ رہنے پر مجبور سمجھیں بلکہ وہ آزادی سے جہاں چاہیں چلے جائیں اور ساتھ وہی لوگ رہ جائیں جو آپ کے مقاصد کے ساتھ پورے پورے متفق ہوں اور بہ صد شوق راہِ حق میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے اس ارشاد کو سُن کر وہ لوگ جو راستے میں ہمراہ ہو گئے تھے منتشر ہو گئے کیوں کہ وہ بہ قصد جنگ نہیں بلکہ یہ سمجھ کر ساتھ ہوئے تھے کہ کوفہ پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے ۔

زبالہ سے چل کر بطن عقبہ میں پہنچے۔ یہاں بنی عکرمہ میں سے ایک شخص آپ کو ملا اس نے آپ سے پوچھا آپ کہاں جارہے ہیں؟ آپ نے بتایا کوفہ! اس نے عرض کیا میں آپ کو خدا کا واسطہ و قسم دیتا ہوں آپ لوٹ جائیں۔ خدا کی قسم! آپ کو نیزوں اور تلواروں سے سابقہ پڑے گا۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگر انھوں نے آپ کے لیے راستہ صاف کر دیا ہوتا اور آپ کے ساتھ ہو کر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتے تو آپ کا جانا درست تھا لیکن جو حالات آپ نے بتائے ہیں ایسے حالات میں جانا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ فرمایا:- یَا عَبْدَ اللّٰہِ اِنَّہٗ لَیْسَ یَخْفٰی عَلَیَّ الرَّأْیُ مَا رَاَیْتَ وَلٰکِنَّ اللّٰہَ لَا یُغْلَبُ عَلٰی اَمْرِہٖ (طبری ص۲۲۶/۶ ابن اثیر ص۱۸/۴)

اے بندۂ خدا! جو تم کہتے ہو وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی امر مغلوب نہیں کیا جا سکتا ۔

دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے سبطِ رسول نے ۔۔۔ دامن میں اپنے بھر لیے صبر و رضا کے پھول

بطن عقبہ کے بعد شراف میں پہنچے۔ یہاں سے صبح کے وقت کوہِ ذی حسم کی طرف چلے اور پہاڑ کے دامن میں خیمہ زن ہوئے۔ یہاں حُرّ بن یزید ریاحی تمیمی جو حکومت یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا ایک ہزار مسلح سواروں کے ساتھ پہنچا اور آپ کے مقابل آکر ٹھہرا۔ ظہر کے وقت امام پاک نے اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد آپ دستۂ حُر کے سامنے تشریف لے گئے اور حمد و ثنا کے بعد یہ تقریر فرمائی ۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

تقریر

اے لوگو! میں اللہ تعالیٰ اور تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں۔ میں تمہارے پاس از خود نہیں آیا بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ آپ ہمارے پاس آئیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ ہمیں راہِ ہدایت پر لگا دے۔ اب میں آیا ہوں تو تم لوگ اپنے قول و اقرار پر قائم رہتے ہوئے مجھ سے ایسے عہد و پیمان کرو جن سے مجھے پورا اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر کو چلوں اور اگر تم ایسا نہیں کرتے اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔

یہ سن کر سب خاموش رہے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے موذن سے فرمایا اقامت کہو اور حُر سے پوچھا میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ؟ حُر نے کہا الگ نہیں ہم سب آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ چناں چہ آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ اپنے خیمہ میں تشریف لے آئے اور حُر اپنے مقام پر چلا گیا۔ عصر کے وقت آپ نے اپنے قافلے کو تیاری کا حکم دیا اور موذن کو اذان کے لیے فرمایا۔ پھر سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آپ نے فرمایا:۔

تقریر

أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّكُمْ إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ وَتَعْرِفُوا الْحَقَّ لِأَهْلِهِ يَكُنْ أَرْضَى لِلّٰهِ وَنَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ أَوْلَى بِوَلَايَةِ هٰذَا الْأَمْرِ مِنْ هٰؤُلَاءِ الْمُدَّعِيْنَ مَا لَيْسَ لَهُمْ وَالسَّائِرِيْنَ فِيْكُمْ بِالْجَوْرِ وَالْعُدْوَانِ فَإِنْ أَنْتُمْ كَرِهْتُمُوْنَا وَجَهِلْتُمْ حَقَّنَا وَكَانَ رَأْيُكُمْ غَيْرَ مَا أَتَتْنِيْ بِهِ كُتُبُكُمْ وَرُسُلُكُمْ انْصَرَفْتُ عَنْكُمْ۔

لوگو! اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہلِ حق کے حق کو پہچانو تو یہ اللہ کی رضامندی کا باعث ہو گا ہم اہلِ بیت نبوت ان دعوے داروں کے مقابلہ میں جو تم پر ظلم و زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں۔ جن کا انہیں حق نہیں، خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ اگر تم لوگ ہم کو ناپسند کرتے ہو اور

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ہمارے حق کو نہیں پہچانتے ہو اور (آج) تمہاری رائے اس سے مختلف ہے جو تمہارے خطوط اور تمہارے قاصدوں نے مجھ پر ظاہر کی تھی تو میں تمہارے پاس سے واپس چلا جاؤں حُر نے کہا خدا کی قسم، ہمیں ان خطوط اور قاصدوں کی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، خبر نہیں۔ آپ نے عقبہ بن سمعان سے فرمایا وہ تھیلے لاؤ جن میں ان لوگوں کے خطوط ہیں؛ وہ لائے! آپ نے ان تھیلوں کو سب کے سامنے اُلٹ دیا۔ ان خطوں کو دیکھ کر حُر نے کہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط لکھے ہیں۔ ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ جب ہم آپ سے ملیں آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ یہاں تک کہ آپ کو کوفہ میں ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر لوٹنے کا حکم دیا۔ حُر نے مزاحمت کی۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے تو کیا چاہتا ہے؟ حُر نے کہا خدا کی قسم! آپ کے علاوہ کوئی اور عرب یہ کلمہ کہتا خواہ وہ کوئی بھی ہوتا تو میں اس کی ماں کے لیے بھی یہی کہتا۔ لیکن خدا کی قسم میں آپ کی والدہ کا ذکر احسن طریقہ سے ہی کروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا کہو تم کیا چاہتے ہو؟ حُر نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم! میں اس میں تمہاری موافقت نہیں کروں گا۔ حُر نے کہا خدا کی قسم! میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح آپس میں تکرار اور تلخ کلامی ہوتی رہی۔ حُر نے کہا مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ہے مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ ملیں آپ کو چھوڑوں نہیں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں تو آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ آپ کو کوفہ پہنچائے اور نہ مدینہ لوٹائے۔ اس دوران میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں اور آپ بھی ابن زیاد یا یزید کو لکھیں شاید اللہ کوئی ایسی عافیت کی صورت پیدا کر دے کہ میں بھی آپ کے معاملہ میں ابتلا و آزمائش سے بچ جاؤں۔ آپ عذیب اور قادسیہ کی راہ سے بائیں طرف مڑ کر چلنے لگے۔ حُر بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا (طبری ص ۲۲۸/۶، ابن اثیر ص ۱۹/۴)

مقام بیضا میں پہنچ کر آپ نے اپنے اور حُر کے ساتھیوں کے سامنے ایک پرجوش تقریر فرمائی۔

تقریر :- حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔ اَیُّهَا النَّاسُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَىٰ سُلْطَانًا جَائِرًا مُسْتَحِلًّا لِحَرَامِ اللهِ نَاكِثًا لِعَهْدِ اللهِ مُخَالِفًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللهِ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فَلَمْ يُغَيِّرْ مَا عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ مُدْخَلَهُ، أَلَا وَإِنَّ هٰؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمٰنِ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ وَقَدْ أَتَتْنِي كُتُبُكُمْ وَقَدِمَتْ عَلَيَّ رُسُلُكُمْ بِبَيْعَتِكُمْ وَأَنَّكُمْ لَا تُسْلِمُونِي وَلَا تَخْذُلُونِي فَإِنْ أَقَمْتُمْ عَلَى بَيْعَتِكُمْ تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ فَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسِي مَعَ أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِي مَعَ أَهْلِيكُمْ فَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ وَخَلَعْتُمْ بَيْعَتِي مِنْ أَعْنَاقِكُمْ فَلَعَمْرِي مَا هِيَ لَكُمْ بِنُكْرٍ لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا بِأَبِي وَأَخِي وَابْنِ عَمِّي مُسْلِمٍ وَالْمَغْرُورُ مَنِ اغْتَرَّ بِكُمْ فَحَظَّكُمْ أَخْطَأْتُمْ وَنَصِيبَكُمْ ضَيَّعْتُمْ وَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَسَيُغْنِي اللهُ عَنْكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ (طبری ۲۲۹، ابن خلدون، ابن اثیر)

اے لوگو! بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنے والا ہو اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرنے والا ہو اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی سے حکومت کرتا ہو تو پھر وہ بہ قدر طاقت فعلاً وقولاً اس کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے اس شخص کو بھی اس (بادشاہ) کے مدخل یعنی (دوزخ) میں داخل کر دے۔ آگاہ ہو جاؤ! ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمٰن کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے۔ ملک میں فساد برپا کر دیا ہے حدودِ شرع کو معطل کر دیا ہے مالِ غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال اور حلال کردہ کو حرام کر دیا ہے اور میں بہ نسبت کسی اور کے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ان کو بدلوں اور بے شک میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد تمہاری بیعت کے (عہد کے) ساتھ آئے اور (اس عہد کے ساتھ آئے کہ تم مجھے دشمن کے سپرد نہ کرو گے اور بے یار و مددگار نہ چھوڑو گے پس اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو گے تو رشد و ہدایت پاؤ گے۔ سنو میں حسین ابن علی، فاطمہ بنت

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ہوں۔ میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے اور میرے اہل تمہارے اہل کے ساتھ ہیں۔ میری ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے عہد و پیمان کو توڑا اور میری بیعت کا حلقہ اپنی گردنوں سے اتار دیا تو میری جان کی قسم! یہ تمہارے لیے کوئی نئی اور انوکھی بات نہ ہوگی بلکہ اس سے پہلے تم میرے باپ اور میرے بھائی اور میرے ابن عم مسلم کے ساتھ بھی ایسا کر چکے ہو۔ وہ فریب خوردہ ہے جو تمہارے دھوکے میں آگیا۔ تم بدنصیب ہو۔ تم نے اپنے حصے کو ضائع کر دیا اور جس نے بدعہدی کی تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اس بدعہدی کا وبال اسی کی ذات پر ہے اور مجھے تو عنقریب اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہٗ۔

اس تقریر کو سن کر حُر نے کہا میں آپ کو آپ ہی کی جان کے بارے میں خدا یاد دلاتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو بھی یا آپ پر حملہ ہوگا تو بھی آپ ضرور قتل کر دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ اور کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچ جائے گی کہ مجھے قتل کرو گے؟ میں نہیں جانتا کہ میں تمہیں کیا کہوں، لیکن میں وہی کہتا ہوں جو بنی اوس میں سے ایک صحابیٔ رسول نے اپنے ابن عم سے کہا تھا۔ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ تو اُن کے ابن عم نے ان سے مل کر کہا، کہاں جاتے ہو مارے جاؤ گے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا) ؎

سَاَمْضِیْ وَمَا بِالْمَوْتِ عَارٌ عَلَی الْفَتٰی　　اِذَا مَا نَوٰی خَیْرًا وَّجَاھَدَ مُسْلِمًا

میں عنقریب اپنے مقصد کو پورا کر دوں گا اور موت جواں مرد کے لیے باعث ننگ و عار نہیں جب کہ اس کی نیت نیک ہو اور مسلمان رہ کر جہاد کرے۔

دَوَاسِیْ رِجَالًا صَالِحِیْنَ بِنَفْسِہٖ وَخَالَفَ مَثْبُوْرًا وَّ فَارَقَ مُجْرِمًا۔

اور اپنی جان سے صالحین بندوں کی مدد کرے اور ہلاک ہونے والے کی مخالفت کرے اور مجرم سے علیحدہ رہے۔

فَاِنْ عِشْتُ لَمْ اَنْدِمْ وَاِنْ مُتُّ لَمْ اُلَمْ　　کَفٰی بِکَ ذُلًّا اَنْ تَعِیْشَ وَتُرْغَمَا

اگر میں زندہ رہا تو مجھے کچھ ندامت نہ ہوگی اور اگر مر گیا تو کوئی صدمہ نہ ہوگا، لیکن تجھے یہی

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کافی ہے کہ تو ذلّت و رسوائی کے ساتھ زندگی بسر کرے گا (ابن اثیر صفحہ ۲)
حُر، یہ اشعار سُن کر آپ سے الگ ہو کر چلنے لگا۔

درسِ عبرت

امام عالی مقام کے ساتھ عقیدت و محبّت کا دعویٰ کرنے والوں اور خصوصًا آپ کی اولاد، سادات حضرات کو آپ کے حالات اور آپ کے خطبات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ نے کس طرح حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزیمت کی بے نظیر مثال قائم کی اور فرمایا میں بہ نسبت دوسروں کے زیادہ حق دار ہوں کہ گلشن اسلام کی حفاظت کروں اس لیے کہ یہ گلشن میرے نانا جان صلّی اللہ علیہ وسلّم کا ہے اور میرے نانا جان نے اپنے خون سے اس کی آب یاری کی ہے اور لرزا دینے والی تکلیفوں کو برداشت کر کے اس کو پروان چڑھایا اور تازگی و شگفتگی بخشی اور پھر آپ کے سچے جانشینوں حضرت صدیق و فاروق اور عثمان و حیدر رضی اللہ عنہم نے اس کی حفاظت کا پورا پورا حق ادا کیا اور اب میرا زمانہ ہے اور خزاں چاہتی ہے کہ اس گلشن کو شکار کرے اور اس کی تازگیاں اور رعنائیاں چھین لے مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں اپنا اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کا خون دے دوں گا لیکن اس گلشن کو تازہ اور شگفتہ رکھوں گا۔ بلاشبہ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا اور اس عمدگی سے کیا کہ رہتی دنیا تک اسلام کی بہاریں آپ کی مرہونِ منت رہیں گی ؎

اسی مقصد کو زندہ یادگارِ کربلا سمجھو　　حسین ابن علی کی زندگی کا مدعا سمجھو

اب اگر آپ کی محبت کے دعوے دار خود فسق و فجور میں مبتلا ہوں یا فساق و فجار کا ساتھ دیں تو کیا امام کی بارگاہ میں ان کے زبانی و کلامی محبت کے دعووں کی کوئی وقعت یا قدر ہوگی؟ ہرگز نہیں! ؎

محبّت کو سمجھنا ہے تو ناصح خود محبّت کر　　کنارے سے کبھی اندازۂ طوفاں نہیں ہوتا

یاد رکھیے! صرف چند شرعی و غیر شرعی رسموں کے بجا لانے سے یا آپ پر آنے والے مصائب

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کو سُن کر چند آنسو بہا لینے سے امام پاک کی روح خوش نہیں ہو گی اور نہ ہی امام کی بارگاہِ اقدس میں سعادت وقبولیت حاصل ہو گی ؎

ختم ہے آنسو بہانے پر ہی تیری جستجو　　اور حسین ابن علی نے تو بہایا تھا لہو

اگر واقعی امام پاک سے سچی محبت ہے تو امام کی پیروی کرتے ہوئے حق وصداقت کے پرچم کو بلند کیجئے اور جس مقدس اور عظیم مقصد کے لیے امام نے اتنی بڑی قربانی دی اس مقصد کو زندہ اور قائم رکھیے خواہ جان ومال اور اپنا سب کچھ ہی کیوں نہ قربان کرنا پڑے ؎

راہ خدا میں عظمت اسلام کے لیے　　ہم بھی کریں وہی جو کیا ہے حسین نے

یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے　　لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

بلاشبہ گھر والوں پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کریں۔ سادات کرام اور امام پاک کے محبوں کا یہ فرض ہے کہ وہ عملی طور پر گلشن اسلام کی حفاظت کریں لیکن افسوس کہ بعض سادات اور مدعیانِ محبت سخت بدعملی کا شکار ہیں اور انھوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ امام جو قربانی دے گئے ہیں وہ قیامت تک کے نام نہاد محبوں کی بخشش کے لیے کافی ہے اور اب انہیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں جیسا کہ عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسٰی علیہ السلام صلیب پر چڑھ کر قیامت تک پیدا ہونے والے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے (معاذ اللہ) یاد رکھیے ؎

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

طرماح ابن عدی کی آمد

کاروان اہل بیت عذیب الہجانات پہنچا تو امام پاک نے چار سواروں کو دیکھا جو طرماح ابن عدی کی رہنمائی میں آپ کی طرف کوفہ کی خبریں لے کر یہ اشعار پڑھتے ہوئے آرہے تھے ؎

یَا نَاقَتِیْ لَا تَذْعَرِیْ مِنْ زَجْرِیْ　　وَشَمِّرِیْ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ

اے میری اونٹنی میرے ڈانٹنے، ہنکارنے سے نہ گھبرا اور بہت تیزی سے چل اور صبح ہونے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

سے پہلے پہنچ۔

بِخَیْرِ رُکْبَانٍ وَخَیْرِ سَفْرٍ حَتّٰی تَحُلِّیْ بِکَرِیْمِ النَّجْرِ

اپنے بہترین سواروں کے ساتھ بہتر سفر کرتے ہوئے اس شخص کے پاس جاکر اتار۔

لِمَاجِدِ الْحُرِّ رَحِیْبِ الصَّدْرِ اَتٰی بِہٖ اللّٰہُ لِخَیْرِ اَمْرٍ

ثُمَّتَ اَبْقَاہُ بَقَآءَ الدَّھْرِ

جو کریم الحسب شریف النسب اور عزت و مرتبہ میں بہت بلند اور سخاوت و فیاضی میں کشادہ دل ہے۔ اللہ اس کو ایک امر خیر کے لیے لایا ہے وہ اس کو رہتی دنیا تک باقی و سلامت رکھے۔ یہ اشعار سن کر امام پاک نے فرمایا۔ اَمَا وَاللّٰہِ اِنِّیْ لَاَرْجُوْا اَنْ یَّکُوْنَ خَیْرًا مَّا اَرَادَ اللّٰہُ بِنَا قُتِلْنَا اَمْ ظَفِرْنَا۔

سنو خدا کی قسم! بے شک مجھے امید ہے کہ اللہ تعالےٰ نے ہمارے ساتھ جو کچھ چاہا ہے اس میں ہمارے قتل ہونے یا غالب ہونے میں خیر ہی خیر ہے ؎

چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں
زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو

حُر نے آگے بڑھ کر کہا یہ لوگ آپ کے ساتھی نہیں ہیں بلکہ یہ کوفہ سے آئے ہیں میں انہیں آپ سے ملنے نہیں دوں گا بلکہ گرفتار کروں گا یا واپس کروں گا آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا یہ لوگ میرے مددگار ہیں میں اپنی جان کی طرح ان کی حفاظت کروں گا اور تم مجھ سے کہہ چکے ہو جب تک ابن زیاد کا خط تمہارے پاس نہیں آجاتا تم مجھ سے کوئی تعرض نہ کرو گے۔ حر نے کہا یہ درست ہے لیکن یہ لوگ آپ کے ساتھ تو نہیں آئے؟ فرمایا اگرچہ ساتھ نہیں آئے مگر ان کے برابر ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں اگر تم نے ان سے کچھ بھی تعرض کیا تو میں تم سے جنگ کروں گا۔ یہ سن کر حُر ان سے علیحدہ ہو گیا۔

آپ نے اُن سے اہل کوفہ کے حالات پوچھے۔ ان میں سے مجمع بن عبداللہ عامری نے کہا بڑے لوگ تو بہت بڑی بڑی رشوتیں لے کر حکومت کے ساتھ مل گئے اور اب وہ سب آپ کے خلاف متحد و مشتعل ہیں۔ رہے عوام تو ان کے دل تو آپ کی طرف مائل ہیں مگر کل

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

وہ بھی تلواریں لیے ہوئے آپ کے مقابلہ میں آجائیں گے۔

آپ نے ان سے اپنے قاصد قیس بن مسہر الصیداوی کے متعلق پوچھا؟ انہوں نے کہا حصین بن نمیر نے اس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا تھا۔ ابن زیاد نے اس کو آپ پر اور آپ کے والد ماجد پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا۔ اس نے آپ پر اور آپ کے والد ماجد پر صلوٰۃ بھیجی اور ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی اور لوگوں کو آپ کا پیغام اور آپ کے آنے کی خبر دے کر آپ کی نصرت کے لیے پکارا۔ اس پر ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کو ایوان کی چوٹی سے نیچے گرایا جائے۔ چناں چہ قیس کو اس طرح گرایا گیا کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ سن کر آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور مبارک رخساروں پر اشکوں کی لڑیاں بہنے لگیں اور زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی۔

فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۔

پس ان میں سے کوئی تو اپنی جان نذر کر گیا اور کوئی منتظر ہے اور انہوں نے کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ پھر آپ نے دعا فرمائی۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا وَلَهُمُ الْجَنَّةَ نُزُلًا وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِيْ مُسْتَقَرٍّ مِّنْ رَّحْمَتِكَ وَرَغَائِبَ مَذْخُوْرِ ثَوَابِكَ ۔

اے اللہ ہمیں اور ان کو نعمت بہشت عطا فرما اور ہمیں اور ان کو اپنی رحمت کے مستقر میں جمع فرما اور اپنے ثواب کے ذخیرہ کا بہترین حصہ عطا فرما۔

زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر　　اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا

طرماح ابن عدی کا مشورہ

طرماح ابن عدی نے عرض کی حضرت! حالات بہت نازک صورت اختیار کر گئے ہیں اور آپ کے ساتھ صرف چند افراد ہیں جو بغرض جنگ بھی نہیں آئے صرف ان کے مقابلے میں ہی حر کا لشکر ایک ہزار پر مشتمل ہے (اور سب مسلح ہیں) یہ ہی بہت زیادہ ہے اور میں نے تو کوفے سے نکلتے وقت کوفے کے باہر اتنا بڑا لشکر دیکھا کہ اس سے پہلے میری آنکھوں نے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کسی مقام پر اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ لشکر کس کے مقابلے کے لیے جمع ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا حسین بن علیؓ کے مقابلے کے لیے! اس لیے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو ایک قدم بھی کوفہ کی طرف آگے نہ بڑھیں اگر آپ کسی ایسے مقام پر جانا چاہیں جہاں اللہ آپ کو حفاظت سے رکھے اور جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی کوئی رائے اور آخری فیصلہ کر لیں تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں آپ کو اپنے بلند پہاڑ پر جسے کوہ آجاہ کہتے ہیں لے چلوں۔ خدا کی قسم وہ پہاڑ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم سلاطین غسان وحمیر، نعمان بن منذر اور ہر اسود و احمر اقوام سے محفوظ رہے ہیں۔ واللہ ہم کو کبھی کوئی مطیع نہیں کر سکا۔ میں آپ کے ساتھ چل کر آپ کو وہاں پہنچا دوں گا اور پھر کوہ آجاہ و سلمی کے باشندوں میں آپ کی دعوت پہنچاؤں گا۔ خدا کی قسم! دس دن بھی گزرنے نہ پائیں گے کہ آپ کے پاس قبیلہ طے کے سواروں اور پیادوں کا ہجوم ہو جائے گا۔ پھر جب تک آپ کا دل چاہے ہم میں قیام فرمائیں اور اگر آپ جنگ کا ارادہ فرمائیں گے تو میں آپ کی مدد کے لیے بنو طے کے بیس ہزار آدمی فراہم کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو آپ کے سامنے اپنی شجاعت اور شمشیر زنی کے جوہر دکھائیں گے اور جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ ہو گا وہ کسی دشمن کو آپ کے قریب نہیں آنے دے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری قوم کو جزائے خیر دے بات یہ ہے کہ ہم میں اور ان لوگوں میں ایک قول ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہم واپس نہیں جا سکتے اور نہیں معلوم اب ہمارے اور ان کے درمیان امور کیا تصرفات کریں گے۔

امام پاک کا یہ جواب سن کر طرماح نے کہا اللہ آپ کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھے میں اپنے اہل و عیال کے لیے کوفہ سے کچھ نان نفقہ وغیرہ لایا ہوں یہ میں ان تک پہنچا کر انشاء اللہ واپس آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے انصار میں شامل ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا کرنا ہے تو جلدی جاؤ اللہ تم پر رحمت کرے چناں چہ طرماح چلے گئے اور حسب وعدہ واپس بھی آئے مگر راستے میں ہی ان کو آپ کی شہادت کی خبر مل گئی اور وہ واپس ہو گئے۔

اس کے بعد قافلۂ امام عذیب الہجانات سے چل کر قصر بنی مقاتل میں اترا۔ آدھی رات

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کے وقت آپ نے رفقار سے فرمایا پانی بھر لو اور چلو۔ سفر کرتے ہوئے ذرا آنکھ لگ گئی پھر ایک دم چونک پڑے اور تین بار کہا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سُن کر آپ کے فرزند حضرت امام زین العابدین (رضی اللہ عنہ) نے کہا ابا جان میں آپ پر فدا ہو جاؤں اس وقت آپ نے یہ کلمات کس وجہ سے فرمائے؟ آپ نے فرمایا میری آنکھ لگ گئی تھی میں نے خواب میں ایک سوار دیکھا جو کہہ رہا تھا لوگ سفر کر رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ ہمیں موت کی خبر دی گئی ہے۔ فرزند امام نے کہا اللہ آپ کو بُرے وقت سے محفوظ رکھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا اس ذات کی قسم جس کی طرف بندوں نے لوٹنا ہے ہم حق پر ہیں! بہادر فرزند نے کہا جب ہم حق پر قائم رہ کر مریں گے تو ایسی موت کی پرواہ نہیں ہے۔ امام پاک نے فرمایا! اللہ تمہیں وہ جزائے خیر دے جو ایک باپ کی طرف سے بیٹے کو مِل سکتی ہے ؎

لَئِنْ كَانَتِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيْسَةً ۔۔۔ فَدَارُ ثَوَابِ اللهِ اَعْلٰى وَاَنْبَلُ

وَاِنْ كَانَتِ الْاَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنْشِئَتْ ۔۔۔ فَمَوْتُ الْفَتٰى فِى اللهِ اَوْلٰى وَاَفْضَلُ

لہ اگر دنیا نفیس اور عمدہ چیز ہے تو ثواب اللہ اس سے کہیں اعلیٰ و اشرف ہے۔

لہ اور اگر جسموں کی پیدائش مرنے کے لیے ہوتی ہے تو جواں مرد کا اللہ کی راہ میں مرنا بہت ہی بہتر اور افضل ہے ؎

رنگ جب محشر میں لائے گی تو اڑ جائے گا رنگ
یوں نہ کہیے سرخیٔ خونِ شہیداں کچھ نہیں

صبح کے وقت ایک مقام پر قیام فرما کر نماز ادا فرمائی پھر روانہ ہوئے حُر بھی ساتھ ساتھ تھا یہاں تک کہ میدان نینوا پہنچے۔ یہاں آپ نے ایک سوار کو دیکھا جو ہتھیار لگائے کندھے پر بھاری کمان رکھے ہوئے آرہا تھا اس نے آکر آپ کو نہیں، حُر کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط اس کو دیا۔ اس میں یہ لکھا تھا۔

فَجَعْجِعْ بِالْحُسَيْنِ حِيْنَ يَبْلُغُكَ كِتَابِىْ وَيَقْدَمُ عَلَيْكَ رَسُوْلِىْ فَلَا تُنْزِلْهُ اِلَّا بِالْعَرَاءِ فِىْ غَيْرِ حِصْنٍ وَعَلٰى غَيْرِ مَاءٍ وَقَدْ اَمَرْتُ رَسُوْلِىْ اَنْ يَلْزَمَكَ وَلَا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

يُفَارِقَكَ حَتّٰى يَأْتِيَنِيْ بِاِنْفَاذِكَ اَمْرِيْ وَالسَّلَامُ۔ (طبری ص۲۳۲ ج۶ ابن اثیر ص۲۱ ج۴)

جب میرا قاصد میرا خط لے کر تمہارے پاس پہنچے تو (اسی وقت سے) حسینؓ پر سختی کرو اور اس کو سوائے ایسے کھلے میدان کے جہاں نہ کوئی پناہ گاہ ہو اور نہ ہی پانی ہو، کہیں اور اترنے نہ دو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تم پر کڑی نگرانی رکھے اور اس وقت تک تم سے الگ نہ ہو جب تک میرے پاس یہ خبر نہ آجائے کہ تم نے میرے حکم پر عمل کیا ہے والسلام

حُر نے یہ خط امام اور آپ کے رفقاء کو سُنا دیا اور آپ اور آپ کے ساتھیوں کو سختی سے ایسے میدان کی طرف چلنے اور اترنے کے لیے کہا جہاں نہ کوئی بستی اور نہ پانی وغیرہ تھا۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا ہمیں چھوڑ دو ہم نینوا یا غاضریہ یا شفیہ میں اتریں گے حُر نے کہا خدا کی قسم! میں ایسا نہیں کر سکتا کیوں کہ اس شخص کو مجھ پر برابر نگرانی کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔

اس پر زہیر بن قین نے عرض کی یا ابن رسول اللہ! ابھی ہم ان لوگوں سے آسانی سے لڑ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد جو وقت آئے گا وہ بہت سخت ہوگا۔ اس قدر زیادہ فوجِ دشمن آئے گی کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کروں گا۔ زہیر نے کہا اچھا پھر ایسا کیجئے کہ یہ سامنے جو گاؤں ہے اس میں نزول فرمائیے یہ کچھ محفوظ بھی ہے اور فرات کے کنارے پر بھی ہے اگر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں گے تو ہم ان سے مقابلہ کریں اور یہ مقابلہ بعد میں آنے والے لوگوں کے مقابلہ کی بہ نسبت آسان ہوگا۔ آپ نے پوچھا اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ عرض کیا "عقر" فرمایا میں عقر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

سرزمین کربلاء

غرض آپ چلتے چلتے اسی میدان میں بتاریخ ۲ محرم ۶۱ھ بروز جمعرات مع اپنے اصحاب اور اہل وعیال خیمہ زن ہوئے۔ حُر نے بھی آپ کے مقابلہ میں خیمے نصب کر دیے تھے اگرچہ حُر کے دل میں اہل بیت نبوّت کی عظمت ضرور تھی اور اس نے نمازیں بھی آپ ہی

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کی اقتداء میں ادا کی تھیں لیکن وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی رعایت برتی تو ایک ہزار سپاہیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کا چھپنا ناممکن ہے اور پھر جب ابن زیاد کو معلوم ہوگا تو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا بلکہ سخت سزا دے گا اس لیے حر ابن زیاد کے حکم پر برابر عمل کرتا رہا۔

اگرچہ بعض کتب میں یہ بھی آیا ہے کہ حُر نے بہ مقتضائے سعادتِ ازلیہ آپ سے خفیہ طور پر مل کر بہ طریق خیر خواہی کہا کہ ابن زیاد کی کثیر فوج آیا چاہتی ہے لہذا مصلحت یہ ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں یہاں سے کوچ کر جائیں میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا اور پھر جو بھی مجھ پر گزرے گی میں برداشت کرلوں گا۔ چناں چہ امام پاک نے مع اپنے رفقاء رات بھر سفر کیا لیکن اگلی صبح اپنے آپ کو اسی مقام پر پایا جہاں سے چلے تھے۔ (سعادت الکونین)

یہ کیفیت اور اس دشت و بیاباں کی اداس اور مغموم فضا کو دیکھ کر آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو "کربلا" کہتے ہیں جوں ہی آپ نے لفظ کربلا سنا فرمایا

هٰذَا مَوْضِعُ كَرْبٍ وَّ بَلَآءٍ هٰذَا مَنَاخُ رِكَابِنَا وَمَحَطُّ رِحَالِنَا وَمَقْتَلُ رِجَالِنَا۔

یہ مقام کرب و بلا ہے یہی ہمارے مال و اسباب کے اترنے اور ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ اور ہمارے اعوان و انصار کا مقتل ہے ؎

گر نام ایں زمیں بہ یقیں کربلا بود ایں جا نصیب ما ہمہ کرب و بلا بود
ایں جا بود کہ تیغ بر آل نبی کشند وایں جا بود کہ ماتم آل عبا بود
ریزند در مصیبت من اب چشم خویش ہر مرغ و ماہی کہ در آب و ہوا بود

دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے
زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے

آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحاں
سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے

کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا
بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ہوگا ہر اک شہید یہاں مصطفےٰ کا لعل
اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے

اس دردانگیز کلام کو سُن کر آپ کے فرزندارجمند حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی۔ ابا جان، یہ آپ کیا فرمارہے ہیں؟ فرمایا جانِ پدر جب تمہارے جدامجد حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین سے واپس ہوئے تھے تو اس مقام پر انہوں نے فرمایا تھا کہ اس جنگل میں میرا نورِ نظر لختِ جگر حسین انتہائی بے کسی کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹا! تم اس وقت کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ صبر کروں گا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہاں صبر ہی کرنا اس لیے کہ اِنَّمَا یُوَفَّی الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ صابرین کے لیے بے حد و بے حساب اجر و ثواب ہے۔ (روضۃ الشہداء، ص ۱۶۳)

جب بہ سلسلۂ انصابِ خیام زمین پر میخ گاڑتے تھے تو وہاں سے تازہ خون نکل آتا تھا یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا بھائی! یہ تو خونی زمین ہے یہاں میرا دل گھبراتا ہے۔ آپ نے فرمایا راضی بہ رضائے الٰہی ہو کر یہیں اترو۔ یہی مقام شہدا اور وعدہ کی جگہ ہے اور ہمیں ہر حالت میں صبر لازم ہے ؎

وادیٔ عشق کہ جز تشنۂ درد نایاب است
ریگش از خون دل تشنۂ لباں سیراب است

؎ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے

اِدھر تو کاروانِ امام پاک غریب الوطنی کے عالم میں کربلا کے میدان میں خیمہ زن تھا اور اُدھر یزیدی حکومت ان نفوس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی چناں چہ دوسرے ہی دن عمرو بن سعد چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے کوفہ سے یہاں پہنچ گیا۔

عمرو بن سعد

عمرو بن سعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

عنہ کا جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور فاتح ایران ہیں، بیٹا ہے۔ لیکن مالِ دنیا کی حرص اور اقتدار کی ہوس نے اس بدنصیب کو تباہ کیا جس کا سبب یہ ہوا کہ انہی ایام میں دیلمیوں (کردوں) نے بغاوت کرکے دستبتیٰ پر حملہ کردیا تھا۔ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو "رےؔ"[1] کا گورنر بنا کر چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ دیلمیوں کی سرکوبی کے لیے مامور کیا تھا۔ ابن سعد چار ہزار فوج کے ساتھ نکلا۔ ابھی وہ "حمام اَعْیَن" تک پہنچا تھا کہ ابن زیاد کو بہ سلسلہ امام پاک کسی ایسے شخص کی ضرورت پیش آئی جو ان کا مقابلہ کرسکے۔ چناں چہ اس نے ابن سعد کو واپس بلا بھیجا۔ جب وہ آیا تو ابن زیاد نے کہا پہلے حسین کا مقابلہ کرو بعد میں اپنے عہدۂ حکومت پر فائز ہو کر دوسری مہم سر کرنا۔ ابن سعد نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے مجھے اس کام سے معاف رکھیں۔ ابن زیاد نے کہا ہاں معافی اس صورت میں ہوسکتی ہے کہ "رے" کی حکومت چھوڑ دو اور ہمارا حکم نامہ واپس کردو؟ ابن سعد نے ان دونوں صورتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے لیے ایک دن کی مہلت مانگی۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی۔

ابن سعد نے اس بارے میں اپنے دوستوں سے مشورہ طلب کیا۔ سب نے امام پاک کا مقابلہ کرنے سے منع کیا۔ جب حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ (ابن سعد کے بھانجے) کو معلوم ہوا تو انہوں نے آکر کہا:۔

اُنْشِدُكَ اللهَ يَا خَالِ اَنْ تَسِيْرَ اِلَى الْحُسَيْنِ فَتَأْثَمَ بِرَبِّكَ وَتَقْطَعَ رَحِمَكَ فَوَاللهِ لَاَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ وَمَالِكَ وَسُلْطَانِ الْاَرْضِ كُلِّهَا لَوْ كَانَ لَكَ خَيْرًا لَّكَ مِنْ اَنْ تَلْقَى اللهَ بِدَمِ الْحُسَيْنِ فَقَالَ لَهٗ عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ فَاِنِّيْٓ اَفْعَلُ اِنْ شَآءَ اللهُ۔ (طبری ج۶ ص۲۳۳ ابن اثیر ص۲۱/۴)

اے ماموں! میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ حسین کے مقابلہ کے لیے جاکر اپنے رب کی معصیت اور قطع رحم کا مرتکب نہ ہونا۔ خدا کی قسم! اگر تم اپنی دنیا۔ اپنے مال ومتاع اور روئے زمین کی حکومت سے خارج کردیے جاؤ تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اللہ تعالےٰ

---

[1] رے خراسان کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے جسے تہران کہتے ہیں۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

سے اس حال میں ملو کہ تمہارے ہاتھ خون حسین سے آلودہ ہوں۔ ابن سعد نے کہا انشاء اللہ میں مشورہ کے مطابق ہی کروں گا۔

ابن سعد رات بھر اس معاملے پر غور کرتا رہا اور یہ اشعار پڑھتا رہا ؎

أَأَتْرُكُ مُلْكَ الرَّيِّ وَالرَّيُّ رَغْبَةٌ ۔۔۔ أَمْ أَرْجِعُ مَذْمُومًا بِقَتْلِ حُسَيْنِ

کیا میں رے کی حکومت چھوڑ دوں؟ اور رے تو (مجھے) مرغوب ہے۔ یا حسین کے قتل سے مذموم ہو کر واپس آؤں۔

وَفِي قَتْلِهِ النَّارُ الَّتِي لَيْسَ دُونَهَا ۔۔۔ حِجَابٌ وَمُلْكُ الرَّيِّ قُرَّةُ عَيْنِ

ان کے قتل کی سزا وہ آگ ہوگی جس کے آگے کوئی حجاب نہ ہوگا اور رے کی حکومت میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ (ابن اثیر ص ۲۲/۴)

عبداللہ بن یسار الجہنی فرماتے ہیں کہ جب عمرو بن سعد کو حضرت حسین کے مقابلہ کے لیے جانے کا حکم ملا تو میں اس کے پاس گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ امیر نے مجھے حسین کے مقابلہ میں جانے کا حکم دیا تھا اور میں نے انکار کر دیا ہے میں نے اس سے کہا اللہ نے تجھ سے بہت اچھا کروایا اللہ تجھے نیک ہدایت دے ایسا ہرگز نہ کرنا اور اُن کے مقابلے کے لیے قطعاً نہ جانا۔ یہ کہہ کر میں اس کے پاس سے چلا آیا پھر مجھے کسی نے آکر بتایا کہ ابن سعد تو حسین کے مقابلہ کے لیے لوگوں کو بھڑکا رہا ہے۔ یہ سُن کر میں دوبارہ اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب اس نے ان کے مقابلے پر جانے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔ میں واپس آ گیا۔ (طبری ص ۲۳۲/۶)

ابن سعد، ابن زیاد کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے میرے لیے "رے" کی حکومت کا فرمان لکھ دیا ہے اور لوگوں کو معلوم بھی ہو گیا ہے لہذا اس کا نفاذ کر دیجئے اور حسین کے مقابلہ کے لیے فلاں فلاں اشراف کوفہ کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ ابن زیاد نے کہا اپنے ارادہ میں تمہارے کسی حکم کا ہرگز پابند نہیں ہوں کہ جن کو تم کہو انہیں کو بھیجوں۔ اگر تم ہمارے لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو تو جاؤ ورنہ ہمارا فرمان (بہ متعلق حکومتِ رے) واپس کر دو؟ ابن سعد نے کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ (ابن اثیر ص ۲۲/۴)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

چناں چہ ابن سعد ۳ محرم ۶۱ھ کو چار ہزار فوج کے ساتھ امام پاک کے مقابلے میں کربلا پہنچ گیا۔

درسِ عبرت

جب کسی انسان کے اندر حرص وطمع کی برائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ عدل وانصاف صبر وتوکل اور قناعت جیسی صفات حسنہ سے محروم ہو جاتا ہے پھر اس میں ایسے مذموم جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ جائز وناجائز اور حلال وحرام کو نہیں دیکھتا بلکہ بعض مرتبہ یہی جذبۂ حرص دوسرے کی ناحق جان ومال لینے کا مرتکب بنا دیتا ہے چناں چہ حضور سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَآءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ۔

(مسلم شریف باب تحریم الظلم)

حرص وطمع سے بچو، کیوں کہ اسی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ اسی نے ان کو خوں ریزی پر ابھارا اور اسی نے حرام کو حلال بنایا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا	کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے جھنڈ
فِيْ غَنَمٍ بِاَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ	میں چھوڑ دیے جائیں وہ ان کو اتنا برباد نہیں
الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ	کرتے جتنی مال وجاہ کی حرص انسان کے
لِدِيْنِهٖ۔ (ترمذی ابواب الزہد)	دین وایمان کو برباد کر دیتی ہے۔

ے اے ابنِ سعد "رے" کی حکومت تو کیا ملی — ظلم وجفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی
دنیا پرستو، دین سے منہ موڑ کے تمہیں — دنیا ملی نہ عیش وطرب کی ہوا ملی
رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے — مردودو تم کو ذلتِ ہر دو سرا ملی
تم نے اجاڑا حضرتِ زہرا کا بوستان — اب دیکھنا جحیم میں جس دم سزا ملی

کربلا میں پہنچ کر ابن سعد نے عزرہ بن قیس احمسی کو حکم دیا کہ حسین کے پاس جا کر ان

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

سے پوچھو وہ یہاں کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ لیکن عزرہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے آپ کو خطوط لکھ کر بلایا تھا اس لیے اس کو آپ کے پاس جاتے ہوئے غیرت و شرم محسوس ہوئی اس نے انکار کر دیا۔ ابن سعد لشکر کے دوسرے رئیس لوگوں میں سے جس جس کو اس کام کے لیے کہتا وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا کہ میں بھی بلانے والوں میں سے ہوں کس مُنہ سے ان کے سامنے جاؤں ؟لہ چناں چہ کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر کثیر بن عبداللہ شعبی جو بڑا دلیر اور بے باک آدمی تھا کہنے لگا میں حسین کے پاس جاتا ہوں اور اگر آپ کہیں تو خدا کی قسم! اچانک ایک وار میں ان کا کام بھی تمام کر سکتا ہوں؟ ابن سعد نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ تم اچانک ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دو! میں یہ کہتا ہوں کہ اُن کے پاس جا کر اُن سے پوچھو کہ وہ کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ کثیر چلا۔ ابو ثمامہ صائدی نے اسے آتے دیکھ کر امام پاک سے کہا اے ابو عبداللہ (حسین) اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کے پاس دنیا بھر کا شریر ترین اور خون ریز شخص آرہا ہے۔ یہ کہہ کر ابو ثمامہ کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر کثیر سے کہا تلوار ایک طرف رکھ کر امام سے ملاقات کر سکتے ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا میں بہ حیثیت قاصد ایک پیغام لایا ہوں اگر سُن لوگے تو ٹھیک ورنہ واپس چلا جاؤں گا! ابو ثمامہ نے کہا اچھا اگر تم تلوار نہیں رکھتے تو میں تمہاری تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھے رہوں گا تم ان سے پیغام کہہ لینا؟ اس نے کہا واللہ یہ بھی نہیں ہو گا تم میری تلوار کے قبضہ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے! ابو ثمامہ نے کہا اچھا جو پیغام ہے وہ مجھ سے کہہ دو میں ان تک پہنچا دوں گا مگر میں تمہیں اس طرح اُن کے قریب نہیں جانے دوں گا کیونکہ تم ایک شریر انسان ہو۔ دونوں کے درمیان بدکلامی ہوئی اور وہ پیغام پہنچائے بغیر واپس چلا گیا اور ابن سعد سے حال بیان کر دیا (طبری ص ۲۳۳)

لہ اس سے ثابت ہوا کہ جن لوگوں نے محبت کے بلند بانگ دعوے کر کے بلایا تھا وہی یزیدی حکومت کے ساتھ مِل کر آپ کے مقابلے میں برائے جنگ آگئے تھے کیوں کہ ان کو بڑی بڑی رشوتیں مل چکی تھیں اور یہ گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے کہ وہ کون تھے۔ فافہم (المؤلف)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اس کے بعد ابن سعد نے قرۃ بن قیس حنظلی کو بلا کر کہا کہ تم یہ کام کرو؟ وہ چلا اس کو آتے دیکھ کر امام پاک نے اپنے انصار سے پوچھا اس شخص کو پہچانتے ہو؟ حبیب ابن مظاہر نے کہا ہاں میں اسے جانتا ہوں یہ بنی حنظلہ سے ہے اور تمیمی ہے اور ہماری بہن کا بیٹا ہے میں تو اس کو خوش عقیدہ سمجھتا تھا تعجب ہے کہ یہ بھی دشمنوں کے ساتھ یہاں آیا ہوا ہے۔

اتنے میں قرۃ آپہنچا اس نے آکر آپ کو سلام کیا اور ابن سعد کا پیغام پہنچایا آپ نے جواب دیا کہ تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا ہے۔ اب اگر میرا آنا انہیں ناپسند ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حبیب ابن مظاہر نے قرۃ سے کہا کیا تو واپس جا کر ان ظالموں کا ساتھ دے گا؟ ان کی مدد کر جن کے بزرگوں کی بدولت اللہ نے ہمیں اور تجھے عزتِ ایمان عطا فرمائی ہے۔ قرۃ نے کہا میں جس کے ساتھ ہوں اُسے اس کے پیغام کا جواب ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد دیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ قرۃ نے ابن سعد کو امام پاک کا جواب سنا دیا۔ جواب سن کر ابن سعد نے کہا امید تو ہے کہ اللہ مجھے حسین کے ساتھ جنگ کرنے سے بچائے گا۔ چناں چہ اس نے ابن زیاد کو اپنا سوال اور امام کا جواب لکھ کر بھیجا۔ (طبری ص ۲۳۶/۶)

ابن سعد کا خیال تھا کہ اس مصالحانہ تحریر سے شاید کوئی صلح وغیرہ کی صورت پیدا ہو جائے اور میں اس ظلم سے بچ جاؤں۔ مگر بدنصیبی، اس کا مقدر بن چکی تھی چناں چہ ابن زیاد نے اس تحریر کو پڑھ کر یہ شعر کہا ؎

اَلْاٰنَ اِذْ اَعْلَقَتْ مَخَالِبُنَا بِہٖ
یَرْجُوْ النَّجَاۃَ وَلَاتَ حِیْنَ مَنَاصٍ

اب جب کہ ہمارے پنجوں نے اُسے جکڑ لیا ہے تو نکلنا چاہتا ہے حالاں کہ اب کوئی جائے فرار نہیں۔

اس نے ابن سعد کو جواباً لکھا کہ تمہارا خط مجھے ملا جو کچھ تم نے لکھا میں نے سمجھا تم حسین اور ان کے تمام ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کریں۔ اگر وہ بیعت کرلیں گے تو پھر ہم جو مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ابن سعد کو یہ خط ملا تو اس نے کہا میں سمجھ گیا ہوں ابن زیاد کو امن وعافیت منظور نہیں اس کے بعد ہی ابن زیاد کا دوسرا خط ابن سعد کو ملا جس میں یہ حکم تھا۔

پانی بند کرنے کا حکم

فَحُلْ بَيْنَ الْحُسَيْنِ وَاَصْحَابِهٖ وَبَيْنَ الْمَآءِ وَلَا يَذُوْقُوْا مِنْهُ قَطْرَةً كَمَا صُنِعَ بِالتَّقِيِّ الزَّكِيِّ الْمَظْلُوْمِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ۔

کہ حسین اور اُن کے رفقاء اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان پر پانی بند کردو کہ وہ ایک قطرہ تک اس سے نہ پی سکیں جس طرح تقی، زکی اور مظلوم امیر المومنین (حضرت عثمان بن عفان (رضی اللہ عنہ) کے ساتھ کیا گیا۔

اس پر ابن سعد نے عمرو بن حجاج کو پانچ سو سواروں کے ایک لشکر پر افسر مقرر کرکے نہر فرات پر متعین کردیا۔ یہ لوگ فرات اور امام پاک کے درمیان حائل ہو گئے کہ وہ پانی کی ایک بوند نہ لے سکیں ؎

حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پییں　　گھوڑے پئیں اونٹ پئیں اہل ہنر پئیں
سب چرند و پرند پئیں منع تم نہ کیجیو　　پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو

عبداللہ بن ابی حصین ارذی نے پکار کر کہا اے حسین دیکھتے ہو پانی فضائے آسمانی کی طرح موجیں مار رہا ہے لیکن خدا کی قسم! تمہیں اس سے ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا اور تم اسی طرح پیاسے ہی مرو گے (معاذ اللہ) یہ سن کر آپ نے فرمایا۔

اَللّٰهُمَّ اقْتُلْهُ عَطَشًا وَّلَا تَغْفِرْ لَهٗ اَبَدًا

اے اللہ اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اس کو ہرگز کبھی نہ بخشنا۔

بعد ازیں یہ گستاخ بے ادب بیمار ہوا۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں اس کی عیادت کو گیا تو خدائے وحدہٗ لاشریک لہٗ کی قسم! اس کی یہ حالت تھی کہ پانی پیتا اور قے کر دیتا پھر پیتا اور غرغر کرکے قے کر دیتا اسی طرح ہر وقت پانی پانی کرتا مگر سیراب نہ ہوتا یہاں تک کہ اسی حالت میں مر گیا (طبری ص ۲۳۴/۶ ابن اثیر ص ۲۲/۴)

امام پاک نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی کے ساتھ تیس[۳۰] سوار اور بیس[۲۰] پیدل پانی لینے کے لیے بھیجے۔ عمرو بن حجاج اپنے ساتھیوں کے ساتھ مزاحم ہوا مگر حضرت عباس نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی لیکن حضرت عباس پانی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ (طبری ص ۲۳۴/۶ ابن اثیر ص ۲۲/۴)

امام عالی مقام نے عمر بن قرظہ بن کعب انصاری کے ذریعہ ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ میں آج رات کو اپنے اور تمہارے لشکر کے درمیان تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد نے یہ بات مان لی اور وہ رات کے وقت بیس سوار اپنے ساتھ لے کر آیا۔ آپ بھی بیس سواروں کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ نے اپنے رفقاء کو ایک طرف کر دیا ابن سعد نے بھی اپنے ساتھیوں کو علیحدہ کر دیا۔ دونوں کے درمیان کافی دیر تک تنہائی میں گفتگو ہوئی جس کو کسی نے نہیں سُنا۔ پھر دونوں اپنے اپنے لشکر میں واپس ہو گئے۔ اس گفتگو کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے ابن سعد سے کہا کہ ہم دونوں اپنے اپنے لشکروں کو یہیں چھوڑ کر یزید کے پاس چلیں۔ ابن سعد نے کہا مجھے خوف ہے کہ ایسا کرنے سے میرا مکان گرا دیا جائے گا اور میری ساری جائداد اور زمین ضبط کر لی جائے گی۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر مکان بنوا دوں گا اور اس سے اچھی جائداد دوں گا۔ ابن سعد کسی قیمت پر بھی اس کے لیے تیار نہ ہوا۔ دوسری یہ کہ آپ نے اس کے سامنے تین باتیں پیش کیں کہ ان میں سے کسی ایک کو مان لو (۱) مجھے وہیں واپس چلے جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں (۲) مجھے سیدھا یزید کے پاس لے چلو میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دوں گا، پھر میرے اور اس کے درمیان جو فیصلہ ہو۔ (۳) مجھے مملکت اسلام کے کسی بھی سرحدی مقام پر لے چلو میں ان سرحدی لوگوں میں رہ کر وقت گزار لوں گا۔

پہلی روایت تو کسی حد تک صحیح سمجھی جا سکتی ہے لیکن جہاں تک دوسری روایت کا تعلق ہے وہ روایت اور درایت دونوں حیثیتوں سے ناقابل اعتبار ہے۔ روایتی حیثیت سے اس طرح کہ اس کا ایک راوی المجالد بن سعید ہمدانی محدثین کے نزدیک پایۂ اعتبار سے ساقط ہے۔ علامہ حافظ ذہبی اور امام ابن حجر عسقلانی دونوں نے اس پر جرح کی ہے۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اور اس کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے [۱]

درایتی حیثیت سے اس طرح کہ ابن زیاد کا یہی تو حکم تھا۔ کہ اگر حسین بیعت کر لیں تو پھر ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے تو اگر حضرت حسین اس بات پر آمادہ ہو گئے تھے کہ میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں تو پھر ابن سعد اور ابن زیاد کا اس کو قبول نہ کرنا اور آپ کے ساتھ لڑائی کر کے آپ کو اور آپ کے رفقاء کو شہید کر دینا کیوں کر وقوع پذیر ہوا۔

اس کے برعکس عقبہ بن سمعان کا بیان ہے کہ میں مدینہ سے مکہ تک اور مکہ سے عراق تک برابر حضرت حسین کے ساتھ رہا اور شہادت کے دن تک کسی بھی وقت میں ان سے جدا نہ ہوا اور میں نے ان کی تمام تقریریں اور گفتگو سنی ہے مگر خدا کی قسم انہوں نے کسی بھی مقام پر یہ ہرگز نہیں کہا کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں گا بلکہ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں اللہ کی بہت وسیع زمین میں کہیں چلا جاؤں یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ (طبری ص ۲۳۵/۶ ابن اثیر ص ۲۲/۴)

ابن سعد اگرچہ دنیاوی جاہ وحشم کی حرص میں حضرت امام سے جنگ کرنے آگیا تھا مگر قلبی طور پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس جرم عظیم کا مرتکب ہو اس لیے اس کی کوشش یہی تھی کہ کوئی صورت ایسی نکل آئے کہ جنگ نہ ہو چناں چہ اس کے اور امام کے درمیان تین چار ملاقاتیں ہوئیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جنگ کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنی طرف سے یہ بات بڑھا دی ہو کیوں کہ فریقین کے درمیان جب سخت اختلاف ہو جائے اور تلوار چلنے کا اندیشہ ہو تو ان میں صلح کرانے کے سلسلے میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:۔

لَا یَحِلُّ الْکَذِبُ اِلَّا فِیْ ثَلٰثٍ یُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَاَتَہٗ لِیُرْضِیَھَا وَالْکَذِبُ فِی الْحَرْبِ وَالْکَذِبُ لِیُصْلِحَ بَیْنَ النَّاسِ

کہ جھوٹ بولنا حلال نہیں سوائے تین موقعوں کے (۱) مرد اپنی عورت کو راضی کرنے

---

[۱] دیکھو میزان الاعتدال ص ۸/۳ تہذیب التہذیب ص ۳۹/۱

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کے لیے کوئی بات کرے۔ (۲) جنگ میں (۳) لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں۔
(ترمذی ابواب البر والصلۃ)

چناں چہ ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا کہ:۔
خدا نے شعلۂ آگ کو بجھا دیا ہے اور اتفاق کی صورت پیدا کر دی ہے اور امت کے معاملہ کو سلجھا دیا ہے یوں کہ حسین نے مجھ سے یہ تین باتیں کہی ہیں۔ (۱) جہاں سے آئے ہیں وہیں چلے جائیں (۲) کسی سرحدی مقام پر جہاں ہم چاہیں بھیج دیں (۳) وہ یزید کے پاس پاس جاکر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے پھر دونوں کے درمیان جو فیصلہ ہو، اس میں تمہاری بھی خوشنودی ہے اور امت کی بھی بہتری ہے (طبری ص ۲۳۵ ابن اثیر ص ۲۲/۴)

ابن سعد کا یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو اس کا ارادہ بھی ہوا کہ ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لی جائے۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس شمر بن ذی الجوشن بھی بیٹھا تھا وہ بدبخت کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیا تم حسین کی ان شرطوں کو قبول کرتے ہو حالاں کہ اس وقت وہ تمہاری گرفت میں ہے واللہ اگر وہ تمہاری اطاعت کیے بغیر یہاں سے چلا گیا تو یہ اس کے غالب وقوی اور تمہارے مغلوب و کمزور ہونے کا باعث ہوگا ایسا موقعہ اس کو ہرگز نہ دو، اس میں سراسر تمہاری ذلت ہے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ حسین اور اس کے سب رفقاء تمہارے حکم پر گردن اطاعت خم کریں۔ پھر اگر تم ان کو سزا دو تو تمہیں اس کا حق ہے اور اگر معاف کر دو تو اس کا بھی اختیار ہے۔ خدا کی قسم! مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ حسین اور ابن سعد اپنے لشکروں کے مابین رات رات بھر بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔

ابن زیاد نے کہا تم نے بہت اچھی رائے دی ہے تم میرا خط لے کر ابھی ابن سعد کے پاس جاؤ چنانچہ ابن زیاد نے ابن سعد کو لکھا۔

میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم حسین کو مہلت دیتے رہو اور اس کے سفارشی بن کر اس کی بقاء اور سلامتی چاہو۔ دیکھو! اگر حسین اور اس کے رفقاء میرے حکم پر گردنیں جھکا دیں تو ان سب کو اطاعت گزاروں کی طرح میرے پاس بھیج دو۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو فوراً ان پر حملہ کرو اور ان کو قتل کر کے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ان کے سر جدا کر دو اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر روند ڈالو کیونکہ وہ اسی سلوک کے مستحق ہیں اگر تم نے میرے حکم کے مطابق عمل کیا تو تم کو وہ جزا ملے گی جو ایک مطیع و فرماں بردار کو ملنی چاہیے اور اگر یہ کام تم نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے لشکر کو شمر کے حوالے کر کے تم اس سے الگ ہو جاؤ، ہم نے شمر کو اپنے احکام دے دیے ہیں وہ ہمارے احکام کو پورا کرے گا (طبری ص۲۳۶ ابن اثیر ص۲۳)

ابن زیاد نے جب یہ خط شمر کو دیا اس وقت عبداللہ بن ابی المحل بن خزام بھی ابن زیاد کے پاس موجود تھا اس کی پھوپھی ام البنین بنت خزام پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ تھیں اور ان کے بطن سے حضرت عباس۔ عبداللہ۔ جعفر اور عثمان پیدا ہوئے تھے اس نے درخواست کی کہ خدا امیر کا بھلا کرے ہمارے بھانجے حسین کے ساتھ ہیں اگر مناسب سمجھا جائے تو ان کو امان کا حکم لکھ دیا جائے؟ ابن زیاد نے لکھ دیا۔ عبداللہ نے یہ امان نامہ اپنے غلام کزمان کے ہاتھ اپنے بھانجوں کو بھیج دیا۔ غلام نے جا کر ان کو بلایا اور کہا کہ تمہارے ماموں نے تمہارے لیے امان نامہ بھیجا ہے ان غیور اور بہادر جوانوں نے کہا کہ ہمارے ماموں کو سلام کہنا اور یہ کہ ہمیں تم لوگوں کی امان کی ضرورت نہیں خدا تعالیٰ کی امان (درکار ہے جو) ابن زیاد کی امان سے بہتر ہے۔ (طبری ص۲۳۶ ابن اثیر ص۲۳)

شمر نے ابن زیاد کا خط لا کر ابن سعد کو دیا وہ پڑھ کر بہت برہم ہوا اور شمر سے کہنے لگا خدا تجھے غارت کرے تو میرے پاس یہ کیا لایا ہے۔ خدا کی قسم! میرا یہ گمان ہے کہ تو نے ہی ابن زیاد کو میری لکھی ہوئی باتوں کو قبول کرنے سے روکا ہے۔ افسوس تو نے اس معاملہ کو بگاڑ دیا جس کی اصلاح کی مجھے امید تھی۔ خدا کی قسم! حسین ہرگز ابن زیاد کے سامنے کبھی نہ جھکیں گے ان کے پہلو میں ایک خوددار دل ہے۔ شمر نے یہ سب کچھ سن کر کہا اچھا بتاؤ اب تمہارا ارادہ کیا ہے امیر کے حکم کی تعمیل کر کے ان کے دشمنوں کو قتل کرو گے یا نہیں؟ اگر نہیں تو لشکر کو میرے حوالے کر دو!

ابن سعد کو ایک بار پھر موقعہ ملا تھا کہ وہ لشکر شمر کے حوالے کر کے اس ظلم کے ارتکاب سے بچ جاتا مگر اس کو تو رَے کی حکومت چاہیے تھی وہ بدبخت چمن زہرا کے پھولوں کو خاک و خون میں تڑپانے کے لیے تیار ہو گیا اور کہنے لگا میں امیر کے حکم کی تعمیل کروں گا۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے　　اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا

شمر امام کے لشکر کے سامنے آیا اور کہا ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ یہ سُن کر حضرت عباس بن علی اور ان کے بھائی اس کے پاس آئے اور کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا ہماری بہن کے فرزند و تمہارے لیے امان ہے۔ غیرت مند جوانوں نے پہلے سے بھی زیادہ سخت جواب دیا کہ تجھ پر اور تیری امان پر اللہ کی لعنت ہو، تو ہمیں امان دیتا ہے اور فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امان نہیں۔ (طبری، ابن اثیر)

حضرت محمد بن عمر بن حسن رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ

كُنَّا مَعَ الْحُسَيْنِ بِنَهْرَيْ كَرْبَلَاءَ فَنَظَرَ اِلَى الشِّمْرِ ذِي الْجَوْشَنِ فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى كَلْبٍ اَبْقَعَ يَلِغُ فِيْ دَمِ اَهْلِ بَيْتِيْ وَكَانَ شِمْرٌ اَبْرَصَ۔
(ابن عساکر۔ شر الشہادتین ص۲۸)

ہم حضرت امام حسین کے ساتھ تھے کربلا کی دو نہروں پر پس امام نے شمر ذی الجوشن کو دیکھا تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول سچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک ابلق کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے اور شمر مبروص یعنی سفید داغوں والا تھا۔

ایک رات کی مہلت

جمعرات ۹ محرم ۶۱ھ امام عالی مقام تلوار باندھے ہوئے اپنے خیمہ کے پاس سر کو گھٹنوں میں رکھ کر بیٹھے اونگھ رہے تھے ادھر ابن سعد نے اپنے لشکر میں ندا کی اے اللہ کے سپاہیو دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اس ندا سے لشکر یزید میں شور ہوا۔ اس شور کو سُن کر حضرت امام حسین کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے آپ کے قریب آکر آپ کو جگایا۔ آپ نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھا کر فرمایا:۔ اِنِّيْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ لِيْ اِنَّكَ تَرُوْحُ اِلَيْنَا۔ میں نے ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ نے مجھ سے فرمایا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ہے، کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔

بہن نے یہ سُن کر روتے ہوئے کہا یا ویلتاہ (ہائے مصیبت) امام نے فرمایا نہیں بہن تمہارے لیے مصیبت نہیں اللہ تم پر رحم کرے صبر کرو اور خاموش رہو۔

حضرت عباس نے کہا بھائی وہ لوگ تمہاری طرف آرہے ہیں؟ امام بھی ان کی طرف جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عباس نے کہا نہیں آپ نہ جائیں میں جاتا ہوں فرمایا جاؤ میں تم پر فدا ہو جاؤں اور ان لوگوں سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارے اس طرح ادھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عباس بیس سواروں کو ساتھ لے کر جن میں زہیر بن قین اور حبیب ابن مظاہر بھی تھے ان لوگوں کے پاس آئے اور آنے کا مقصد پوچھا۔ انہوں نے ابن زیاد کے حکم سے آگاہ کیا کہ یا تو ان کے حکم پر گردن اطاعت خم کر دو ورنہ لڑنے اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس نے کہا۔ ذرا ٹھہرو جلدی نہ کرو میں ابن رسول اللہ کو تمہارے مقصد سے آگاہ کر دوں۔ انہوں نے امام کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں سے کہو ہمیں ایک رات کی مہلت دیں تاکہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں۔ دعائیں مانگ لیں اور توبہ و استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھ کو نماز، تلاوت اور دُعا و استغفار سے کتنا قلبی تعلق ہے۔ نیز اپنے اہل بیت کو کچھ وصیت کر لیں۔ حضرت عباس نے جا کر ابن سعد کے دستہ سے کہا کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دو۔ رات کو ہم کچھ عبادت کر لیں اور اس معاملہ میں مزید غور کر لیں پھر جو کچھ فیصلہ ہو گا صبح تم لوگوں کو بتا دیں گے انہوں نے یہ بات مان لی۔

رفقا سے امام کا خطاب

اس کے بعد امام پاک نے اپنے ہم راہیوں کو جمع کیا۔ آپ کے فرزند حضرت سیدنا علی اوسط زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے قریب جا بیٹھا کہ سنوں ابا جان کیا فرماتے ہیں حالاں کہ میں بیمار تھا۔ آپ نے اپنے انصار کے سامنے یہ خطبہ دیا:۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

أُثْنِيْ عَلَى اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى أَحْسَنَ الثَّنَاءِ وَأَحْمَدُهٗ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَحْمَدُكَ عَلٰى أَنْ أَكْرَمْتَنَا بِالنُّبُوَّةِ وَجَعَلْتَ لَنَا أَسْمَاعًا وَّأَبْصَارًا وَّأَفْئِدَةً
وَّعَلَّمْتَنَا الْقُرْاٰنَ وَفَقَّهْتَنَا فِي الدِّيْنِ فَاجْعَلْنَا لَكَ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِّيْ لَا أَعْلَمُ
أَصْحَابًا أَوْفٰى وَلَا خَيْرًا مِّنْ أَصْحَابِيْ وَلَا أَهْلَ بَيْتٍ أَبَرَّ وَلَا أَوْصَلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ فَجَزَاكُمُ
اللّٰهُ جَمِيْعًا عَنِّيْ خَيْرًا أَلَا وَإِنِّيْ لَأَظُنُّ يَوْمَنَا مِنْ هٰؤُلَاءِ الْأَعْدَاءِ غَدًا أَلَا وَإِنِّيْ قَدْ أَذِنْتُ
لَكُمْ جَمِيْعًا فَانْطَلِقُوْا فِيْ حِلٍّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِّنِّيْ ذِمَامٌ هٰذَا اللَّيْلُ قَدْ غَشِيَكُمْ فَاتَّخِذُوْهُ
جَمَلًا وَّلْيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ بِيَدِ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِيْ فَجَزَاكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ثُمَّ تَفَرَّقُوْا
فِي الْبِلَادِ فِيْ سَوَادِكُمْ وَمَدَائِنِكُمْ حَتّٰى يُفَرِّجَ اللّٰهُ فَإِنَّ الْقَوْمَ يَطْلُبُوْا فِيْ وَلَوْ
أَصَابُوْنِيْ لَهَوْا عَنْ طَلَبِ غَيْرِيْ۔

(ابن اثیر ص ۲۴/۴ ۔ طبری ص ۲۳۸/۶)

اللہ کی تعریف کرتا ہوں، خوشی و مسرت اور تنگی و تکلیف میں اللہ تبارک تعالےٰ کی بہترین حمد و ثنا کرتا ہوں اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں تیرا شکر بجالاتا ہوں کہ تو نے ہمیں نبوت کے ساتھ مکرم کیا اور سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں اور دل دیا اور ہمیں قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے کیا۔ اما بعد! میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا اور نہ کسی اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکو کار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، سن لو! میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا دن ان دشمنوں سے (مقابلے کا) کل کا دن ہے اور میں تم سب کو بہ خوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ایک ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے لے اللہ تم سب کو جزائے خیر دے پھر تم اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں متفرق ہو جانا یہاں تک کہ اللہ تعالےٰ یہ مصیبت آسان کر دے۔ بلاشبہ یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں اور جب مجھے قتل کرلیں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہ ہوگی۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

رفقاء کا جواب

اس خطبہ کو سن کر آپ کے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں نے بہ یک زبان کہا کیا ہم صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔
آپ نے فرزندانِ عقیل سے فرمایا کہ مسلم کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے۔ لہذا تمہیں اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ لیکن باحمیت اور غیرت مند بھائیوں نے کہا ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے سردار، اپنے آقا اور اپنے بہترین ابن عم کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ آئے ہیں۔ نہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر کوئی تیر چلایا۔ نہ نیزہ مارا نہ تلوار کا کوئی وار کیا اور پھر ہمیں نہیں معلوم ان کا حشر کیا ہوا؟ خدا کی قسم! ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنی جانیں اپنا مال اور اپنے اہل و عیال سب آپ پر قربان کریں گے۔ آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا۔ خدا وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔

حضرت مسلم بن عوسجہ الاسدی نے کھڑے ہو کر کہا۔ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو آپ کے ادائے حق کے سلسلے میں اللہ تعالٰے کو کیا جواب دیں گے۔ خدا کی قسم! میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ جب تک دشمنوں کے سینوں میں اپنے نیزہ کو نہ توڑ ڈالوں اور شمشیر زنی نہ کرلوں۔ خدا کی قسم! اگر میرے پاس اسلحہ نہ بھی ہو تو بھی میں دشمنوں سے پتھر مار مار کر لڑتا اور اس طرح آپ پر نثار ہو جاتا۔ (ابن اثیر ص ۲۴/۴)

حضرت سعد بن عبداللہ حنفی نے اٹھ کر کہا خدا کی قسم! ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ یہ دیکھ نہ لے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی اولاد کی کیسی حفاظت کی۔ خدا کی قسم! اگر مجھ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ میں ستر مرتبہ اس طرح قتل کیا جاؤں گا کہ ہر مرتبہ زندہ جلا دیا جاؤں گا اور میری خاکستر اڑا دی جائے گی تو بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا اور اب تو ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے اور اس قتل ہونے میں ابدی شرف و کرامت ہے پھر اسے کیوں نہ حاصل کروں۔ (طبری ص ۲۳۹/۶)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حضرت زہیر بن قین نے اُٹھ کر کہا خدا کی قسم! میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ پھر قتل کیا جاؤں اسی طرح ہزار مرتبہ زندہ کیا جاؤں اور قتل کیا جاؤں اور میرے ہزار مرتبہ کے قتل سے خدا آپ کی ذات اور آپ کے اہل بیت کے ان نوجوانوں کو بچا لیتا۔

غرض یہ کہ اسی طرح آپ کے ہر رفیق اور جان نثار نے اپنی اپنی جان نثاری کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کر کے سعادت دارین حاصل کی۔ چنانچہ حضرت انس بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:۔

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ	میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ اِنَّ ابْنِیْ ھٰذَا	سنا آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا اس زمین میں
یُقْتَلُ بِاَرْضٍ یُقَالُ لَھَا کَرْبَلَاءُ	قتل کر دیا جائے گا جس کو کربلا کہا جاتا ہے
فَمَنْ شَہِدَ ذٰلِکَ مِنْکُمْ فَلْیَنْصُرْہُ	تو تم میں سے جو بھی وہاں موجود ہو اس کو چاہیے
فَخَرَجَ اَنَسُ بْنُ الْحَارِثِ اِلٰی کَرْبَلَاءَ	کہ اس کی مدد کرے۔ پس انس بن حارث
فَقُتِلَ بِھَا مَعَ الْحُسَیْنِ۔	بھی کربلا میں گئے تھے اور وہ بھی آپ کے
(سر الشہادتین ص۲۹ البدایۃ والنہایۃ ص۱۹۹/۸	ساتھ شہید ہوئے۔

خصائص کبریٰ ص۱۲۵/۲) فَجَزَاھُمُ اللّٰہُ خَیْرَ الْجَزَاءِ

حقا کہ عجب فوج تھی فوج شہ ابرار — جن لوگوں کا عباس دلاور سا علمدار
ہم شکل پیمبر سا جواں فوج کا سالار — مختار وہ مختار تھا جو خلق کا مختار

ایسا کسی سردار نے لشکر نہیں پایا
لشکر نے بھی اس طرح کا افسر نہیں پایا

ظاہر میں گرچہ تھے رفقاء شاہ کے قلیل — پیش خدا مگر وہ حقیقت میں تھے جلیل
جرأت میں بے نظیر شجاعت میں بے عدیل — سرگرم جان دینے پہ سب صورت خلیل

فاقوں میں صبر و شکر سے دل ان کے سیر تھے
جانباز تھے جری تھے مجاہد تھے شیر تھے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

آخر ان لوگوں نے شبیر پہ کی جانیں فدا　　　شہ کی الفت میں تنوں سے ہوئے سر ان کے جُدا
خون سے اپنی جواں مردی کے نقشوں کو لکھا　　　اپنے مذہب کی حمایت میں یہ ایثار کیا
ان میں ہر اک نے شجاعت و جواں مردی وہ کی
آج تک اس کی مثال ایک بھی دیکھی نہ سُنی

امام پاک کے منجھلے فرزند حضرت علی زین العابدین فرماتے ہیں کہ جمعرات کی شام کو میں بیٹھا ہوا تھا اور میری پھوپھی سیّدہ زینب میری تیمار داری میں مصروف تھیں اس وقت میرے والد ماجد کے پاس ابوذر غفاری کے آزاد کردہ غلام جُوتی بیٹھے ہوئے تلوار درست کر رہے تھے اور آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے ؎

يَا دَهْرُ اُفٍّ لَّكَ مِنْ خَلِيْلٍ　　　كَمْ لَكَ بِالْاِشْرَاقِ وَالْاَصِيْلِ
اے زمانہ ناپائیدار تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے کسی دوست سے کبھی وفا نہ کی، صبح و شام تو نے۔
مِنْ صَاحِبٍ اَوْ طَالِبٍ قَتِيْلُ　　　وَالدَّهْرُ لَا يَقْنَعُ بِالْبَدِيْلِ
کیسے کیسے صاحبان اولوالعزم کو قتل کیا اور یہ زمانۂ ناہنجار عوض پر قناعت نہیں کرتا۔
وَاِنَّمَا الْاَمْرُ اِلَى الْجَلِيْلِ　　　وَكُلُّ حَيٍّ سَالِكُ السَّبِيْلِ
اور سب ہی کی بازگشت خدائے جلیل ہی کی طرف ہے اور ہر زندہ کو یہی راہ درپیش ہے۔
مَا اَقْرَبُ الْوَعْدِ مِنَ الرَّحِيْلِ　　　سُبْحَانَ رَبِّيْ مَالَهٗ مَثِيْلُ
میرا وعدۂ رحلت کس قدر قریب آپہنچا ہے۔ لہٰذا میں اپنے پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں۔ جس کا کوئی مثیل نہیں۔

آپ نے بار بار ان اشعار کو پڑھا۔ میں آپ کے عزم اور ارادے کو سمجھ گیا اور جان گیا کہ مصیبت ٹوٹ پڑی۔ بے اختیار میرے آنسو آگئے تاہم میں نے صبر و ضبط سے کام لیا۔ مگر میری پھوپھی حضرت زینب نے بھی یہ اشعار سُن لیے تھے اور ان کو حالات سے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ تلواریں صاف کی جا رہی ہیں وہ ضبط نہ کر سکیں اور بے اختیار ہو گئیں اور آپ کے پاس پہنچ کر چیخ چیخ کر رونے لگیں اور کہتی تھیں کاش آج مجھے موت آگئی ہوتی ہائے میری ماں فاطمہ۔ میرے باپ علی اور میرے بھائی حسن چل لیے۔ بھیّا تم ان گزرے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ہوؤں کے جانشین اور ہمارے محافظ اور سہارا تھے بہن کو اس طرح بے اختیار اور بے چین دیکھ کر آپ نے فرمایا دیکھو بہن! شیطان کہیں تمہارے حلم و وقار اور عقل کو زائل نہ کر دے۔ بہن نے کہا بھائی میرے ماں باپ تم پر قربان، میں آپ کے بدلہ میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ بہن کے اس دردناک اور محبت بھرے انداز نے آپ کو بھی بے چین کر دیا۔ آپ کا دل بھر آیا اور آنسو جاری ہو گئے فرمایا:۔

لَوْ تَرَكَ الْقَطَا لَيْلًا لَنَامَ

یہ سن کر حضرت زینب کا تو بُرا حال ہوا دھاڑیں مار مار کر روئیں اور کہتی تھیں کیا زبردستی آپ کو ہم سے چھین لیا جائے گا اس سے تو میرا کلیجا پاش پاش ہوا جاتا ہے یہ کہا اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئیں آپ نے اُن کے مُنہ پر پانی کے چھینٹے دیئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا میری بہن اللہ سے ڈرو اور اس سے صبر و سکون طلب کرو اور جان لو کہ تمام اہل زمین مر جائیں گے اور اہل آسمان بھی باقی نہیں رہیں گے۔ ہر شے فانی ہے سوائے ذاتِ الٰہی جلّ شانہٗ کے۔ میرے باپ۔ میری ماں، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے میرے اور اُن کے لیے ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے۔ تم اسی نمونہ سے صبر حاصل کرو۔ اسی طرح کی چند اور باتوں سے ان کو تسلی دی۔ پھر فرمایا پیاری بہن میں تمہیں قسم دیتا ہوں۔ میری اس قسم کو پورا کرنا۔ سنو۔ میری وفات پر گریباں نہ پھاڑنا۔ منہ نہ نوچنا۔ آہ وزاری اور بین نہ کرنا۔ بہن کو صبر و شکر اور ضبط و تحمل کی تلقین فرما کر خیمہ سے باہر تشریف لائے اور اپنے انصار کو حفاظت کے ضروری انتظامات کی ہدایت فرمائی۔

خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے اور ان کی طنابیں ایک دوسرے میں داخل کر دی گئیں۔ خیموں کی پشت پر ایک خندق کھود دی گئی اور اس میں لکڑیاں اور شاخیں جمع کر کے بھر دی گئیں تاکہ بوقت جنگ ان کو آگ لگا دی جائے اور دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ پھر سب نے آپ کے ساتھ ساری رات نماز، دعا، استغفار اور زاری و تضرع میں گزاری ؎

حکم فرمایا کہ خیموں کا تحفظ تو کرو　　گرد خیموں کے تم اب گہری سی خندق کھود دو

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

آمد و رفت کا بس ایک ہی رستہ رکھو　　اور خندق میں بھی تم آگ کو روشن کردو

حسبِ حکم آپ کے سب لوگوں نے خندق کھودی

اس میں پھر آگ بھی ان لوگوں نے روشن کردی

شاہ نے فجر کی اس روز پڑھائی جو نماز　　آخری تھی یہ نماز ان کی بصد عجز و نیاز

لطف سجدوں کے اٹھائے تھے جبینوں نے بناز　　اور زبانوں نے لیے ذائقۂ سوز و گداز

اس کے بعد آپ نے خیموں کی طرف قصد کیا

دسویں تاریخ کے خورشید کا چہرہ چمکا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

سجدوں سے، نمازوں سے، یہ رفعت کی سحر ہے
رونے کی، تذلّل کی، عبادت کی سحر ہے
ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے
عاشورِ محرّم ہے، شہادت کی سحر ہے
لٹنے کا، تباہی کا، پریشانی کا دن ہے
اولادِ پیمبر کی یہ قربانی کا دن ہے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

دس محرم ۶۱ھ
اور
قیامتِ صُغریٰ

شبِ عاشور ختم ہوئی اور صبح عاشور قیامتِ صغریٰ اور مصائب و آلام کی خبر لے کر آگئی۔ امام عالی مقام کے خیموں میں اذان کی آواز بلند ہوئی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رفقاء اور اہل بیت کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کی اس نماز کا عالم کیا تھا۔ صبر و رضا کے پیکر اپنے مالک و خالق کے حضور مشاہدۂ حق کی کیفیات کے ساتھ دست بستہ کھڑے تھے۔ وہ سر جنہوں نے تھوڑی دیر کے بعد راہ خدا میں کٹ جانا تھا۔ خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز تھے۔ نماز کے بعد امام پاک نے سب کے لیے صبر و استقامت کی دعا مانگی۔ دسویں محرم کا خونیں آفتاب اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا جس کی الم ناکی پر جن و انس سے لے کر ملائکہ تک نوحہ کناں ہوئے۔ حسینی فوج کے بہتر۷۲ جان نثار، بائیس ہزار یزیدیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوگئے، اس مختصر سی جماعت کے آقا نے اپنے جاں بازوں کو اس طرح ترتیب دیا کہ میمنہ پر حضرت زہیر بن قین اور میسرہ پر حضرت حبیب ابن مظاہر کو مقرر کیا اور جھنڈا اپنے بھائی حضرت عباس کو دیا جو اسی سبب سے علم دار کہلائے خندق میں بھری ہوئی لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔

دوسری طرف عمرو بن سعد نے اپنے لشکر کے میمنہ پر عمرو ابن الحجاج الذبیدی اور میسرہ پر شمر بن ذی الجوشن اور سواروں پر عزرہ بن قیس الاحمسی اور پیادوں پر شبث بن ربعی یربوعی کو مقرر کیا اور جھنڈا اپنے غلام ذوید اکو دیا۔

امام عالی مقام اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن منگوا کر اپنے سامنے رکھا اور دونوں ہاتھ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اٹھا کر بارگاہِ ایزدی میں یوں دعا کی :۔

اے اللہ! ہر مصیبت میں تو ہی میرا اعتماد اور ہر تکلیف میں تو ہی میرا آسرا ہے۔ تمام حوادثات میں تو ہی میرا سہارا اور ڈھارس ہے۔ بہت سے غم واندوہ ایسے ہوتے ہیں جن میں دل بیٹھ جاتا ہے اور ان غموں سے رہائی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں۔ دوست اس میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں لیکن میں نے اس قسم کے تمام اوقات میں تیری ہی طرف رجوع کیا تجھی سے اپنا دردِ دل کہا تیرے سوا کسی اور سے کہنے کو دل نہ چاہا اے اللہ تو نے ہر بار ان مصائب کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے ان سے بچا لیا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی ہر بھلائی کا مالک اور ہر خواہش و رغبت کا منتہیٰ ہے ؎

وہ صبر دے الٰہی جس میں خلل نہ آئے
تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے

شمر کی گستاخی

ادھر یزیدیوں نے جب خندق میں لگی ہوئی آگ کو دیکھا جو خیموں کی پشت پر حفاظت کے لیے جلائی گئی تھی تو شمر لعین گھوڑا دوڑاتا ہوا ادھر آیا اور پکار کر کہنے لگا اے حسین تم نے اپنے لیے قیامت سے پہلے دنیا ہی میں آگ لگالی ؟ (معاذ اللہ) آپ نے فرمایا تو اس میں جلنے کا زیادہ مستحق ہے۔ مسلم بن عوسجہ نے عرض کی یا ابن رسول اللہ! میں آپ پر قربان ہو جاؤں اگر ارشاد ہو تو ایک تیر مار کر اس کا خاتمہ کر دوں اس وقت زد میں ہے اور میرا تیر خطا نہ کرے گا۔ فرمایا نہیں ہماری طرف سے ابتدا نہیں ہونی چاہیے پھر امام پاک یزیدی لشکر کے قریب گئے اور باآوازِ بلند فرمایا :۔

اتمامِ حجّت

لوگو! جلدی نہ کرو اور میری باتیں سُن لو اور مجھ پر جو وعظ و نصیحت کا حق ہے اُسے ادا کر لینے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

دو پھر اس کے بعد تمہیں اختیار ہے اگر میرا عذر قبول کر لو گے اور میری بات کو سچا سمجھو گے اور میرے ساتھ انصاف کرو گے تو نہایت نیک بخت ہو گے اور تمہارے لیے میری مخالفت کی کوئی سبیل باقی نہ رہے گی اور اگر تم نے میرا عذر قبول نہ کیا اور انصاف سے کام نہ لیا تو فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ اِنَّ وَلِيِّيَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ۔

پس تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنی ایک بات ٹھہرا لو تاکہ تمہاری وہ بات تم میں سے کسی کے اوپر مخفی نہ رہے تم میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر ڈالو اور مجھے مہلت نہ دو میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہی صالحین کا مددگار ہوتا ہے۔

ادھر خیموں میں عورتوں نے جب آپ کا کلام سنا تو ان میں حشر برپا ہو گیا ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس اور اپنے فرزند حضرت علی اکبر کو بھیجا کہ جا کر انہیں خاموش کراؤ مجھے اپنی جان کی قسم ابھی تو انہیں بہت رونا ہے۔ انہوں نے جا کر ان کو خاموش کروایا۔ جب اُن کے رونے کی آواز موقوف ہوئی تو امام پاک نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انبیاء کرام اور ملائکہ پر درود وسلام بھیجا اور حمد و نعت میں ایسا فصیح وبلیغ کلام فرمایا جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ راوی کہتا ہے فَوَاللّٰهِ مَا سَمِعْتُ مُتَكَلِّمًا قَطُّ قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ اَبْلَغَ فِيْ مَنْطِقٍ مِّنْهُ۔ خدا کی قسم! میں نے ایسی فصیح وبلیغ تقریر نہ اس سے پہلے کسی سے سنی تھی اور نہ بعد میں کسی سے سُنی اس کے بعد آخری اتمام حجت کرتے ہوئے فرمایا۔ فَانْسِبُوْنِيْ فَانْظُرُوْا مَنْ اَنَا ثُمَّ رَاجِعُوْٓا اَنْفُسَكُمْ فَعَاتِبُوْهَا وَانْظُرُوْا هَلْ يَصْلُحُ وَيَحِلُّ لَكُمْ قَتْلِيْ وَانْتِهَاكُ حُرْمَتِيْ اَلَسْتُ ابْنَ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ وَابْنَ وَصِيِّهٖ وَابْنِ عَمِّهٖ وَاَوَّلِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاللّٰهِ وَالْمُصَدِّقِ لِرَسُوْلِهٖ اَوَلَيْسَ حَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَآءِ عَمَّ اَبِيْ اَوَلَيْسَ جَعْفَرُ الشَّهِيْدُ الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ عَمِّيْ اَوَلَمْ يَبْلُغْكُمْ قَوْلٌ مُّسْتَفِيْضٌ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيْ وَلِاَخِيْ اَنْتُمَا سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَقُرَّةُ عَيْنِ اَهْلِ السُّنَّةِ فَاِنْ صَدَّقْتُمُوْنِيْ بِمَا اَقُوْلُ وَهُوَ الْحَقُّ وَاللّٰهِ مَا تَعَمَّدْتُّ كَذِبًا مُذْ عَلِمْتُ اَنَّ اللّٰهَ يَمْقُتُ عَلَيْهِ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

وَاِنْ كَذَّبْتُمُوْنِىْ فَاِنَّ فِيْكُمْ مَّنْ اِنْ سَاَلْتُمُوْهُ عَنْ ذَالِكَ اَخْبَرَكُمْ سَلُوْا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَوْ اَبَا سَعِيْدٍ اَوْ سَهْلَ بْنِ سَعْدٍ اَوْ زَيْدَ بْنِ اَرْقَمَ اَوْ اَنَسًا يُخْبِرُوْكُمْ اَنَّهُمْ سَمِعُوْهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا فِىْ هٰذَا حَاجِزٌ يَّحْجُزُكُمْ عَنْ سَفْكِ دَمِىْ -

(ابن اثیر ص۲۵/۴، طبری ص۲۴۲/۶، البدایۃ ص۱۷۹/۸)

لوگو! میرے حسب و نسب کو دیکھو میں کون ہوں پھر اپنے نفسوں میں غور کرو اور ان کو سرزنش کرو اور دیکھو کیا تمہارے لیے میرا قتل اور میری آبرو ریزی درست اور حلال ہے کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور ان کے وصی اور ابن عم، اللہ اور اس کے رسول پر بہتر ایمان لانے والے کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید الشہدا حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا اور شہید جعفر طیار ذوالجناحین میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا یہ مشہور حدیث تمہیں نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ تم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو، پس اگر تم میری تصدیق کرو تو بلا شُبہ میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں حق اور سچ کہہ رہا ہوں کیوں کہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جھوٹے پر خدا تعالےٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ خدا کی قسم! اس وقت سے میں نے عمداً کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے ہو بلکہ مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو تم میں اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر تم ان سے پوچھو تو وہ تمہیں بتائیں گے (یا پھر اصحاب رسول اللہ) جابر بن عبداللہ انصاری، ابوسعید خدری، سہل بن سعد، زید بن ارقم سے پوچھ لو وہ اس کی تصدیق کریں گے کیوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا ہے تو اب مجھے بتاؤ کہ کیا ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو تمہیں میری خون ریزی اور آبرو ریزی سے روک دے؟

اس دوران شمر لعین نے آپ پر ایک نامناسب چوٹ کی۔ حبیب ابن مظاہر نے اس کا دندان شکن جواب دے کر کہا خدا نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے اس لیے تو نہیں سمجھ سکتا کہ امام کیا فرما رہے ہیں شمر اور حبیب کی گفتگو کے بعد امام پاک نے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

پھر فرمایا:۔

فَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ اَقُوْلُ اَوْ تَشُكُّوْنَ فِيْ اَنِّيْ ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ابْنُ بِنْتِ نَبِيٍّ غَيْرِيْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْ غَيْرِكُمْ اَخْبِرُوْنِيْ اَتَطْلُبُوْنِيْ بِقَتِيْلٍ مِّنْكُمْ قَتَلْتُهٗ اَوْ بِمَالٍ لَكُمْ اسْتَهْلَكْتُهٗ اَوْ بِقِصَاصٍ مِّنْ جِرَاحَةٍ فَلَمْ يُكَلِّمُوْهُ فَنَادٰى يَا شَبَثُ بْنُ رِبْعِيٍّ وَيَا حَجَّارُ بْنُ اَبْجَرَ وَيَا قَيْسُ بْنَ الْاَشْعَثِ وَيَا زَيْدَ بْنَ الْحَارِثِ اَلَمْ تَكْتُبُوْآ اِلَيَّ فِي الْقُدُوْمِ عَلَيْكُمْ قَالُوْا لَمْ نَفْعَلْ ثُمَّ قَالَ بَلٰى فَعَلْتُمْ ثُمَّ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِذْ كَرِهْتُمُوْنِيْ فَدَعُوْنِيْ اَنْصَرِفْ اِلٰى مَاْمَنِيْ مِنَ الْاَرْضِ ۔

(ابن اثیر، طبری) لوگو! اگر تم لوگوں کو میری اس بات میں کچھ شک ہے (کہ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں) تو کیا اس میں کوئی شک وشبہ ہے کہ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں خدا کی قسم اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین پر میرے سوا اور کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ تم لوگ میرے خون کے کیوں پیاسے ہو؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے یا کسی کا مال برباد کیا ہے؟ یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ ان باتوں کا اُن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ سب خاموش تھے پھر آپ نے کچھ لوگوں کا نام لے کر پکارا اے شبث بن ربعی۔ اے حجاز بن الجبر۔ اے قیس بن اشعث۔ اے زید بن حارث کیا تم نے مجھے خطوط لکھ کر اپنے پاس نہیں بلایا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے کوئی خطوط نہیں لکھے تھے! آپ نے فرمایا ہاں بلاشبہ تم نے ضرور لکھے تھے۔ پھر فرمایا لوگو! اب تم مجھے ناپسند کرتے ہو تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی گوشہ امن کی طرف چلا جاؤں۔ (ابن اثیر صفحہ ۲۵ ج ۴ ؛ طبری صفحہ ۲۴۳ ج ۶)

اس پر قیس ابن اشعث نے کہا آپ ابن عم یعنی ابن زیاد کے حکم پر سر جھکا دیں۔ پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم بھی تو آخر محمد ابن اشعث کے بھائی ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بنو ہاشم تم سے مسلم بن عقیل کے خون کے علاوہ اور دوسرے خون کے بدلہ کا بھی مطالبہ کریں۔ خدا کی قسم! میں کسی ذلیل انسان کی طرح ابن زیاد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دوں گا اور نہ میں کسی غلام کی طرح اقرار اطاعت کروں گا۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

عِبَادَ اللّٰهِ اِنِّیْ عُذْتُ بِرَبِّیْ وَرَبِّکُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ اَعُوْذُ بِرَبِّیْ وَرَبِّکُمْ مِّنْ کُلِّ مُتَکَبِّرٍ لَّا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ ۔

اللہ کے بندو! میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے ہر مغرور اور متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا پناہ مانگتا ہوں ؎

جب سرِ محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے
کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے

یہ فرما کر آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا اور اس سے اتر پڑے اور کوئی آپ کی طرف بڑھے ۔ ان کا ریلا دیکھ کر زہیر بن قین گھوڑے پر سوار ہتھیار لگائے ہوئے آگے بڑھے اور دشمنوں کے سامنے پرجوش انداز میں فرمایا ۔

اے اہل کوفہ ! اللہ کے عذاب سے ڈرو ۔ ایک مسلمان پر یہ واجب ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو نصیحت کرے ابھی تک ہم آپس میں بھائی بھائی اور ایک دین وملت پر ہیں ۔ اور جب تک ہمارے تمہارے درمیان تلوار نہیں چلتی اس وقت تک ہم کو تمہیں نصیحت کرنے کا حق ہے اور جب تلواریں چلیں گی تو ہمارا تمہارا یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا پھر ہم ایک الگ جماعت ہوں گے اور تم ایک الگ جماعت ۔ سنو ۔ بے شک اللہ تعالٰے نے ہمیں اور تمہیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں امتحان و آزمائش میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ ہم اور تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ہم تمہیں اولادِ رسول کی نصرت و امداد کرنے اور سرکش ابن زیاد اور یزید کا ساتھ چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں اس لیے کہ تمہیں ان دونوں سے برائی کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا یہ تمہاری آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیریں گے ۔ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے ۔ تمہارا مثلہ کریں گے ۔ تمہاری لاشوں کو کھجور کی شاخوں پر لٹکائیں گے ۔ حجر بن عدی اور ان کے اصحاب اور ہانی بن عروہ جیسے تمہارے ممتاز لوگوں کو قتل کریں گے ۔

یہ سن کر کوفیوں نے زہیر بن قین کو گالیاں دیں اور ابن زیاد کی تعریف اور اس کے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

لیسے دعا کر کے کہنے لگے۔

وَاللّٰهِ لَا نَبْرَحُ حَتّٰى نَقْتُلَ صَاحِبَكَ وَمَنْ مَّعَهٗ اَوْ نَبْعَثَ بِهٖ وَبِاَصْحَابِهٖ اِلَى الْاَمِيْرِ عُبَيْدِ اللّٰهِ سَلْمًا۔

خدا کی قسم! ہم یہاں سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے جب تک تیرے صاحب (حسین) اور ان کے ہم راہیوں کو قتل نہ کر دیں یا ان کو بہ حیثیت قیدیوں کے ابن زیاد کے سپرد نہ کر دیں۔

نے کہا خدا کے بندو! اِنَّ وَلَدَ فَاطِمَةَ رِضْوَانَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اَحَقُّ بِالْوُدِّ وَالنَّصْرِ مِنِ ابْنِ سُمَيَّةَ فَاِنْ لَّمْ تَنْصُرُوْهُمْ فَاُعِيْذُكُمْ بِاللّٰهِ اَنْ تَقْتُلُوْهُمْ۔

حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہا کی اولاد ابن سمیہ کے مقابلہ میں زیادہ محبت و نصرت کی مستحق ہے اگر تم ان کی امداد و اعانت نہیں کرتے ہو تو خدارا ان کو قتل تو نہ کرو

ان کا معاملہ ان کے اور ان کے ابن عم یزید کے درمیان چھوڑ دو مجھے اپنی جان کی قسم! یزید تمہاری اطاعت گزاری سے حسین کے قتل کیے بغیر بھی تم سے خوش ہو سکتا ہے۔

یہ سن کر شمر نے زہیر کو ایک تیر مارا اور کہا بس خاموش رہ۔ خدا تیرا منہ بند کرے تو نے اپنی بک بک سے ہمارا دماغ چاٹ لیا ہے زہیر نے جواب دیا او ابن البوال میں تجھ ہی سے مخاطب نہیں ہوں تو تو جانور ہے واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تو تو قرآن کی دو آیتوں کو بھی سمجھنے کی لیاقت نہیں رکھتا فَاَبْشِرْ بِالْخِزْيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعَذَابِ الْاَلِيْمِ پس اب قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی اور عذاب الیم تجھے مبارک ہو۔

شمر نے کہا اب خدا تجھے اور تیرے صاحب کو اسی وقت قتل کرنے والا ہے۔ زہیر نے کہا کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے خدا کی قسم! حسین کے ساتھ جان دینا مجھ کو تمہارے ساتھ دائمی زندگی سے زیادہ پسند ہے پھر باآواز بلند لشکر یزید سے خطاب کیا لوگو! ان سنگ دل ظالموں کے فریب میں آکر اپنا دین نہ برباد کرو۔ خدا کی قسم! جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کے اہل بیت کا خون بہائیں گے اور ان کے مددگاروں اور ان کے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حرم کی طرف سے لڑنے والوں کو قتل کریں گے وہ آپ کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔

حسین ابن علی کی زندگی قرآن کی صورت

رسول اللہ کی دنیا میں اک روشن نشانی ہے

امام عالی مقام نے زہیر کو واپس بلالیا۔

درس عبرت

جب بدبختی کسی قوم کا مقدر بن جاتی ہے تو آنکھوں پر پردے پڑجاتے ہیں اور دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں پھر حق کو دیکھنے اور حق سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۭ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰي قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۭ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ۝ وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ۭ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۭ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْىِٕلًا ۔ (القرآن ۱۵/۲)

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات سے سمجھایا گیا تو اس نے روگردانی کی اور اس نے فراموش کر دیا ان (اعمال کو) جو اس کے ہاتھوں نے پہلے کیے تھے (تو) ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ اس کو نہ سمجھ سکیں اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو ہرگز کبھی ہدایت کی طرف نہ آئیں گے اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے اگر وہ ان کو پکڑ لیتا ان کے کیے پر تو ان پر بہت جلد عذاب بھیجتا (مگر وہ ایسا نہیں کرتا) بلکہ ان کو سزا دینے کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر اس وقت کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔

کوفیوں یزیدیوں کا حال بھی بالکل ایسا ہی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کوئی نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہوئی اور کرتوت تو ان کے بلاشبہ ایسے ہی تھے کہ ان ظالموں کو فوراً عذاب کی چکی میں پیس کر رکھ دیا جاتا اور ذرا ڈھیل نہ دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حلم وکرم اور حکمت کی وجہ سے ان کو مہلت دی کیوں کہ اس کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر رہے ۔

حُر کو جنّت بھی مِلی اَوجِ شہادت بھی مِلا
اِک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا

حُر کا آنا :

زہیر بن قین کی واپسی کے بعد عمرو بن سعد جنگ کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے ابن سعد سے کہا خدا تیرا بھلا کرے کیا تو ان سے لڑے گا؟ ابن سعد نے کہا ہاں اور قسم خدا کی لڑنا بھی ایسا کہ جس میں کم از کم یہ ہوگا کہ سر اور ہاتھ کٹ کٹ کے گریں گے ۔ حر نے کہا کیا ان کی تین باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں؟ ابن سعد نے کہا واللہ اگر یہ امر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور ایسا ہی کرتا لیکن کیا کروں تمہارا امیر نہیں مانتا ۔

حر پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا آنکھوں سے تاریکی کے پردے اٹھ گئے اور حق کے جلوے نظر آنے لگے ۔ حُر کی یہ حالت دیکھ کر انہی کی برادری کے ایک شخص مہاجر بن اوس نے حُر سے کہا ۔ واللہ آج تمہاری عجیب حالت ہے ۔ میں نے کسی جنگ میں تمہاری ایسی حالت نہیں دیکھی حالانکہ میرے نزدیک تم اہل کوفہ کے بہادروں میں سے ایک بہادر ترین انسان ہو پھر یہ حالت کیوں ہے ؟ حُر نے کہا خدا کی قسم ! میرے ایک طرف جنت اور ایک طرف دوزخ ہے اور میں درمیان میں کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کدھر جاؤں ۔

حُر نے فرمایا برادر تجھے یہ بھی ہے خبر
اس لڑائی میں مقابل ہے پیمبر کا پسر
عاقبت سے جسے لڑنا ہو بلا خوف وخطر
اس لڑائی میں دکھائے وہ دلیری کے ہنر
درمیان دوزخ وجنت کے کھڑا ہوں میں یہاں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

خوف دوزخ سے ہوں اس وقت بے تاب وتواں

پھر کہا خدا کی قسم! اب تو جنت کی طرف ہی جاؤں گا خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے۔ یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گروہِ اشقیا سے نکل کر امام عالی مقام کے پاس پہنچ گئے۔

نکل کر لشکر اعدا سے مارا حُر نے یہ نعرہ　　　کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے

امام پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی یا ابن رسول اللہ! میری جان آپ پر فدا ہو میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو واپس نہ جانے دیا اور راستہ بھر آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اسی مقام پر ٹھہر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا مگر خدائے وحدہٗ لاشریک کی قسم! مجھے یہ گمان تک نہ تھا کہ ان لوگوں کی بدبختی اس حد تک پہنچ جائے گی اور یہ آپ کی تمام شرائط کو رد کر دیں گے میں تو خیال کرتا تھا کہ آپ کی پیش کردہ شرائط میں سے کسی شرط کو مان لیں گے اور صلح ہو جائے گی واللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا اور جو گستاخیاں مجھ سے ہوئیں ان کا مرتکب نہ ہوتا۔ اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں اور اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ پر قربان کرتا ہوں فرمائیے کیا میری یہ توبہ قبول ہو گی؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہیں بخش دے گا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حُر بن یزید۔ فرمایا تم دُنیا و آخرت میں انشاءاللہ حُر (آزاد) ہو گھوڑے سے اترو۔ عرض کیا اب تو اسی وقت اتروں گا جب ان ظالموں سے لڑتے ہوئے اپنی جان آپ پر فدا کر دوں گا فرمایا اچھا جس طرح چاہو کرو اللہ تم پر رحم کرے ؎

عرض کی ابن رسول اک خطا کار ہوں میں　　　آپ کے پہلے تقابل کا گنہ گار ہوں میں
اس بیابان میں سرکار کو میں نے روکا　　　یہ جسارت ہوئی سرکار میں اس حُر سے تنہا
یہ تمنا ہے مرے جُرم کو اب عفو کرو
جاں فدا کرنے کی اب مجھ کو اجازت دے دو
آپ نے ہاتھ سر حُر پہ بہ شفقت رکھا　　　اور فرمایا تیرا عذر بھی مقبول ہوا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

توبہ کر رب سے وہ بخشے گا تیرے جرم و خطا　　تیری تقصیر کو حر میں نے بھی اب عفو کیا
جاں فدا کرنے کی اب تجھ کو اجازت دے دی
اب شہادت کی سعادت تجھے مل جائے گی

حُر کا خطاب

امام عالی مقام کے جاں نثاروں میں شامل ہونے کے بعد حُر نے کوفیوں یزیدیوں سے کہا لوگو! حسین نے تمہارے سامنے جو تین صورتیں پیش کی ہیں ان میں سے کوئی ایک صورت کیوں نہیں مان لیتے تاکہ خدا تمہیں ان کے ساتھ جنگ و جدال میں مبتلا ہونے سے بچائے کوفیوں نے کہا ہمارے امیر ابن سعد سے بات کرو۔ ابن سعد نے کہا میں تو چاہتا تھا۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ حر نے کہا اے کوفیو! خدا تمہیں تباہ و برباد کرے تم نے خود حسین کو بلایا۔ جب وہ آگئے تو تم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اپنی جانیں ان پر فدا کریں گے اور اب تم انہی پر حملہ کرنے اور انہیں قتل کرنے کے درپے ہو۔ تم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے ان کو اور ان کے اہل بیت کو اللہ تعالیٰ کی وسیع و عریض زمین میں کسی طرف جا کر امن و امان سے رہنے سے روک دیا ہے اس وقت وہ بالکل قیدیوں کی حالت میں ہیں اور تم نے ان پر نہر فرات کا پانی بند کر رکھا ہے۔ جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی سب پیتے ہیں اور اس میدان کے سور اور کتے تک اس میں لوٹتے ہیں۔ اسی پانی کے لیے حسین اور ان کے اہل و عیال تڑپ رہے ہیں۔ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا ہے۔ اگر تم نے اسی وقت توبہ نہ کی اور اپنے ارادوں کو نہ بدلا تو قیامت کے دن خدا تعالیٰ تمہیں بھی پیاسا تڑپائے گا۔

کوفیوں نے حُر پر تیر برسانے شروع کر دیے اور حُر وہاں سے لوٹ کر امام پاک کے سامنے آکھڑے ہو گئے۔

آغاز جنگ

حر کے واپس آنے کے بعد ابن سعد اپنا علم لے کر آگے بڑھا اور ایک تیر امام کی طرف

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

چلا کر کہنے لگا گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے۔ اس کے ساتھ ہی طبل جنگ پر چوٹ پڑی اور دوسروں نے بھی تیر چلانے شروع کر دیے۔ جنگ شروع ہو گئی اور دونوں طرف سے سپاہی نکل نکل کر آنے اور اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنے لگے۔

زیاد بن ابی سفیان کا آزاد غلام یسار اور ابن زیاد کا آزاد غلام سالم دونوں سب سے پہلے کوفیوں سے نکلے اور میدان میں آکر دعوت مقابلہ دی۔ ان کے مقابلہ کے لیے حبیب ابن مظاہر اور بریر بن حضیر آگے بڑھنے لگے مگر امام نے انہیں روک لیا یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمیر الکلبی نے مقابلہ کی اجازت طلب کی۔ امام نے اجازت دی۔ یہ تنہا ان دونوں کے بالمقابل ہوئے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ عبداللہ نے اپنا نام و نسب بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں جانتے زہیر بن قین یا حبیب ابن مظاہر ہمارے سامنے آئیں۔ اس وقت یسار آگے اور سالم پیچھے تھا۔ عبداللہ نے کہا او فاحشہ کے بیٹے تجھے مجھ سے مقابلہ کرنے میں عار ہے یہ کہتے ہوئے ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ سالم نے ایک دم جھپٹ کر حملہ کر دیا۔ عبداللہ نے اس کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر روکا ان کی انگلیاں اڑ گئیں مگر دائیں ہاتھ سے اس پر ایک ایسا وار کیا کہ سالم کو بھی مار گرایا اور یہ شعر پڑھے ؎

اِنْ تَنْكُرُوْنِیْ فَاَنَا ابْنُ كَلْبٍ　　　نَسَبِیْ وَبَیْتِیْ فِیْ عُلَیْمٍ حَسَبِیْ

اگر تم لوگ مجھے نہیں جانتے ہو تو میں خاندان کلب کا ایک فرزند ہوں یہ میرا نسب ہے اور میرے لیے یہ کافی ہے کہ میرا گھر قبیلۂ علیم میں ہے۔

اِنِّیْ امْرُءٌ ذُوْ مِرَّةٍ وَغَضَبٍ　　　وَلَسْتُ بِالْخَوَّارِ عِنْدَ النَّكْبِ

میں بڑی قوت والا اور صاحب شمشیر براں ہوں اور سختی و مصیبت کے وقت بزدل اور عاجز نہیں ہوتا۔

اِنِّیْ زَعِیْمٌ لَّكَ اُمَّ وَهَبٍ　　　بِالطَّعْنِ فِیْهِمْ مُقْدِمًا وَّالضَّرْبِ
ضَرْبَ غُلَامٍ مُّؤْمِنٍ بِالرَّبِّ

اے وہب کی ماں میں تیری اس بات کا ضامن ہوں کہ دشمنوں پر بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ نیزہ و شمشیر کی ضرب لگاؤں گا وہ ضرب جو رب تعالےٰ پر ایمان رکھنے والے بندے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کی ضرب ہوتی ہے۔
عبداللہ کی بیوی ام وہب نے یہ سن کر ایک خیمہ کی چوب ہاتھ میں لی اور آگے بڑھ کر کہا میرے ماں باپ تم پر فدا اولادِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑتے جاؤ۔ عبداللہ نے انہیں عورتوں کے خیموں میں لوٹانا چاہا۔ لیکن انہوں نے انکار کیا اور کہا میں تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں گی۔ تمہارے ساتھ جان دوں گی۔ امام عالی مقام نے آواز دی اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اہل بیت کی طرف سے جزائے خیر دے۔ بی بی تم واپس آجاؤ عورتوں پر قتال واجب نہیں ہے۔ آپ کے ارشاد پر وہ واپس آگئیں۔

عبداللہ بن عمیر کلبی

یہ بنی علیم میں سے ہیں۔ حال ہی میں کوفہ آئے تھے اور قبیلۂ ہمدان میں جعد کے کنویں کے پاس ایک مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کی بیوی ام وہب جو خاندان نمیر بن قاسط سے تھیں ان کے ساتھ تھیں۔ عبداللہ نے مقام نخیلہ میں ایک لشکر مع ساز و سامان کے دیکھ کر لوگوں سے پوچھا یہ لشکر کہاں جا رہا ہے؟ کسی نے ان سے کہہ دیا کہ فاطمہ بنت رسول اللہ کے فرزند حسین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے! عبداللہ فرماتے ہیں خدا کی قسم! میں یہ آرزو رکھتا تھا کہ کبھی مجھے مشرکین سے جہاد کا موقعہ ملے۔ جب میں نے حالات سنے اور لشکر کوفہ کو دیکھا تو میں نے یقین کر لیا کہ جو لوگ اپنے نبی کے نواسے پر لشکر کشی کر رہے ہیں ان سے جہاد کرنا بھی عنداللہ مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے سے اجر و ثواب میں کم نہیں۔
پھر اپنی بیوی کے پاس آئے اور تنہائی میں بلا کر اس کو سب حالات سے اور اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ بیوی نے کہا تمہارا ارادہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تمہاری بہترین تمنا اور آرزو کو پورا کرے چلو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ عبداللہ بیوی کو ساتھ لے کر رات ہی رات میں چل کر لشکر امام میں پہنچ گئے تھے۔ انہی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ امام کے پہلے جان نثار سپاہی کی حیثیت میں نکل کر سالم اور یسار کو موت کے گھاٹ اتارا۔
سالم اور یسار کے قتل کے بعد عمرو بن حجاج جو یزیدی لشکر کے میمنہ پر رئیس تھا۔ اپنے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

دستہ کو لے کر امام کی طرف بڑھا۔ جاں نثاران امام پاؤں ٹیک کر سینہ سپر ہو گئے اور تیروں کے وار سے کوفیوں کے گھوڑوں کے منہ پھیر دیئے۔

کرامت

کوفیوں میں سے ایک گستاخ ابن جوزہ نے دو مرتبہ بآواز بلند کہا حسین ہیں؟ کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ کہنے پر انصار امام نے کہا تیرا کیا مقصد ہے؟ اس ظالم نے کہا اے حسین تجھے دوزخ کی بشارت ہو (معاذ اللہ) امام عالی مقام نے جوابًا فرمایا تو جھوٹا ہے میں دوزخ میں نہیں بلکہ اپنے رب رحیم اور رسولِ شفیع و مطاع کے حضور جاؤں گا۔ پھر پوچھا یہ کون ہے؟ انصار نے عرض کیا یہ ابن جوزہ ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا خداوندا! اس کو آگ میں ڈال دے۔ اسی وقت اس کا گھوڑا بدک کر دوڑا اور امام کے خیموں کے پیچھے جو خندق میں آگ جل رہی تھی اس طرف گیا جوزہ نے چاہا کہ اس خندق کو پھاند جائے مگر گھوڑے کے اچھلنے کے وقت یہ اس پر سے گر پڑا اور پاؤں رکاب میں اٹک گیا۔ اب اس کا ایک پاؤں تو رکاب میں اٹکا ہوا تھا اور باقی وجود لٹکا ہوا تھا اور گھوڑا پریشانی کے عالم میں برابر بھاگ رہا تھا۔ چنانچہ اس کا سر۔ ران۔ پنڈلی اور ایک پاؤں تو گھوڑے کے نیچے آ آ کر اور برابر کی ٹھوکروں سے چور چور ہو گیا۔ آخر گھوڑے نے خندق کی آگ میں ڈال دیا اور وہ ظالم فنا فی النار ہو گیا۔ مسروق بن وائل حضرمی بھی انہی سواروں میں سے ایک تھا جو دستہ کے آگے آگے تھا وہ کہتا ہے کہ میں آگے آگے اس لیے تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح حسین کا سر کاٹنے میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ اس وجہ سے ابن زیاد کے ہاں قدر و منزلت پاؤں لیکن میں نے حسین کی بد دعا سے ابن جوزہ کا حشر دیکھا تو میرا ارادہ بدل گیا اور میں لشکر یزید سے بالکل علیحدہ ہو گیا۔ اس کے بھائی عبدالجبار نے لشکر سے علیحدگی کا سبب پوچھا۔ کہنے لگا میں نے اس خاندان کے لوگوں سے ایک ایسی بات دیکھی ہے کہ میں کبھی بھی ان سے نہ لڑوں گا یہ بھی سلسلہ اتمام حجت کی ایک کڑی تھی۔ امام عالی مقام کو یہ دکھانا تھا کہ اگر میری مقبولیت میں کچھ شبہ ہے تو آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو ادھر زبان سے نکلتا ہے ادھر ہو جاتا ہے اب سوچ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ہو کہ ایسے مقبول اور مستجاب الدعوات کے ساتھ لڑنے اور اس کو ستانے کا انجام کتنا سخت ہو گا اب بھی موقعہ ہے باز آجاؤ مگر وہ بدبخت جن کو مردار دنیا کی حرص و طمع نے اندھا بہرا بنا دیا تھا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔

اس کے بعد کوفی لشکر سے یزید بن معقل نکلا اور لشکر امام سے بریر بن حضیر نکلے۔ یزید نے کہا بریر تم نے دیکھ لیا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بریر نے کہا خدا کی قسم! خدا نے میرے ساتھ بھلائی کی اور تیرے ساتھ برائی کی۔ یزید بولا تم نے جھوٹ کہا حالاں کہ آج سے پیشتر تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ آج تم گمراہوں میں سے ہو۔ بریر نے کہا آؤ پہلے مباہلہ کریں اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ وہ جھوٹے پر لعنت کرے اور گمراہ کو قتل کرے اس کے بعد ہم دونوں لڑیں ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہ ہے۔ چناں چہ دونوں نے دعا کی کہ اللہ جھوٹے پر لعنت کرے اور جو حق پر ہو وہ گمراہ کو قتل کرے پھر دونوں نے تلواریں نکالیں اور لڑنے لگے۔ یزید نے بریر پر وار کیا وہ خالی گیا مگر بریر نے جواب میں ایسی کاری ضرب لگائی کہ تلوار یزید کی خود کو کاٹتی ہوئی دماغ تک پہنچ گئی وہ گر پڑا اور تلوار اس کے سر میں اٹک گئی۔ بریر تلوار کو کھینچ رہے تھے کہ رضی بن منقذ العبدی بریر سے لپٹ گیا۔ کچھ دیر تک دونوں میں کشتی ہوتی رہی۔ آخر بریر نے رضی کو نیچے گرا دیا اور اس کے سینہ پر سوار ہو گئے۔ رضی چلایا مقابلہ کرنے والے اور بچانے والے کہاں ہیں؟ مجھے آکر بچاتے کیوں نہیں؟ رضی کے چلانے پر کعب ابن جابر ازدی نے بریر پر نیزے کا وار کیا۔ نیزہ ان کی پشت میں پیوست ہو گیا ابھی نیزہ ان کی پشت میں پیوست ہی تھا اور وہ رضی کے سینہ سے اٹھ رہے تھے کہ کعب نے دوسرا وار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ یہ کعب جب واپس گھر گیا تو اس کی بہن نوار بنت جابر نے کہا تو نے فرزند فاطمہ بنت رسول اللہ کے دشمنوں کی مدد کی اور قاریوں کے سردار بریر کو قتل کیا۔ اس لیے خدا کی قسم! میں تجھ سے کبھی بات نہ کروں گی۔

حضرت بریر کے بعد حضرت عمر بن قرظہ انصاری یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے۔

قَدْ عَلِمَتْ کَتِیْبَۃُ الْاَنْصَارِ ۔۔۔ اِنِّیْ سَاَحْمِیْ حَوْزَۃَ الذِّمَارِ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

بے شک انصار کے شہ سوار جانتے ہیں کہ میں اس بزرگ کی حمایت میں لڑ رہا ہوں جس کی حمایت وحفاظت ضروری ہے۔

ضَرْبَ غُلَامٍ غَیْرِ نِکْسٍ شَارِیْ دُوْنَ حُسَیْنٍ مُهْجَتِیْ وَدَارِیْ

یہ خوب لڑے اور دادِ شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کا بھائی علی بن قرظہ ابن سعد کے ساتھ تھا اس ظالم نے اپنے بھائی کو خاک وخون میں غلطاں دیکھ کر پکارا۔ اے حسین اے کذّاب ابن کذّاب تو نے میرے بھائی کو گمراہ کیا اور دھوکا دے کر قتل کرا دیا (معاذ اللہ) آپ نے جواب دیا خدا نے تیرے بھائی کو گمراہ نہیں کیا بلکہ اسے ہدایت دی اور تجھ کو گمراہ کیا۔ یہ جواب سُن کر کہنے لگا اگر میں تم کو قتل نہ کروں تو اللہ مجھے قتل کرے یہ کہہ کر آپ پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت نافع بن بلال مرادی نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کو روکا اور اس پر نیزے کا ایسا وار کیا کہ وہ چاروں شانے چت گرا۔ مگر اس کے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر اس کو بچا لیا اور اٹھا کر لے گئے۔

اس کے بعد امام پاک کی طرف سے حُر بن یزید نکلے اُن کے مقابلہ میں یزید بن سفیان آیا۔ حُر نے ایک ہی وار میں اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ حُر کے بعد نافع بن ہلال آگے بڑھے اُن کے مقابلے میں مزاحم بن حریث آیا۔ نافع نے اسے بھی تڑپا کے رکھ دیا۔ ابھی تک لڑائی اس انداز سے ہو رہی تھی کہ فریقین کی طرف سے ایک ایک جوان میدان میں آ رہا تھا۔ لیکن کوئی لشکر سے جو بھی آیا وہ بچ کر نہ گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر عمرو بن حجاج چلایا بے وقوف کوفیو! تمہیں نہیں معلوم تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو یہ سب موت کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ لہٰذا ایک ایک کر کے اُن کے مقابلے میں ہرگز نہ جاؤ۔ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں تم تو ان کو صرف پتھر مار مار کے بھی ختم کر سکتے ہو۔ اے کوفیو! اطاعت اور جماعت کو لازم پکڑے رہو اور اس شخص (حسین) کے قتل میں کوئی شک وشبہ اور تردد نہ کرو جس نے امام (یزید) کی مخالفت کی ہے اور دین کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ سُن کر امام پاک نے فرمایا اے عمرو بن حجاج! جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو مرنے کے بعد تمہیں معلوم ہو گا کہ کس نے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

دین کو چھوڑا تھا اور کون دوزخ کا ایندھن بنتا ہے۔

عمرو بن سعد نے بھی عمرو بن حجاج کی رائے کو پسند کیا اور ایک ایک کے مقابلہ کی سخت ممانعت کر دی۔ اس کے بعد عمرو بن حجاج نے جو لشکر یزید کے میمنہ پر مقرر تھا۔ امام پاک کے میمنہ پر عام حملہ کر دیا۔ کچھ دیر تک لڑائی ہوتی رہی۔ اس میں امام کے انصار میں سے حضرت مسلم بن عوسجہ اسدی شہید ہوئے۔ ان کو مسلم بن عبداللہ ضبابی اور عبدالرحمٰن بجلی نے شہید کیا۔ امام پاک ان کے لاشے کے قریب تشریف لے گئے۔ ابھی ان میں کچھ رمق باقی تھی فرمایا مسلم خدا تعالیٰ تم پر رحم کرے پھر فرمایا۔ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔

پس کوئی تو ان میں سے اپنا ذمہ پورا کر چکا اور کوئی ان میں انتظار کر رہا ہے مگر وہ بالکل نہیں بولے۔

پھر حبیب ابن مظاہر نے قریب آ کر کہا مسلم تمہیں جنت مبارک ہو۔ مسلم نے بہت آہستہ سے کہا خدا تمہیں خیر و بھلائی مبارک کرے حبیب نے کہا میں جانتا ہوں کہ میں بھی تمہارے پاس ابھی پہنچنے ہی والا ہوں ورنہ میں ضرور تم سے کہتا کہ کوئی وصیت کرو اور اسے میں ضرور پورا کرتا۔ مسلم نے امام پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ صرف یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان پر جان فدا کرنا حبیب نے کہا واللہ میں ایسا ہی کروں گا اور مسلم کی روح اپنے آقا کے سامنے پرواز کر گئی۔ رضی اللہ عنہ۔

اس کے بعد شمر ذی الجوشن جو لشکر یزید کے میسرہ پر مقرر تھا امام پاک کے میسرہ پر حملہ آور ہوا اور اس کے حملہ کے ساتھ ہی یزیدی چاروں طرف سے انصار امام پر ٹوٹ پڑے بڑا زبردست مقابلہ ہوا۔ امام کے ساتھ کل ۳۲ سوار تھے مگر انہوں نے بے مثال شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جدھر رخ کرتے تھے کوفیوں کی صفوں کو الٹ دیتے تھے یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ سواروں کی صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ عزرہ بن قیس نے جو کوفی سواروں کا سرخیل تھا اپنے سواروں کو ہر طرف پسپا ہوتے دیکھ کر عبدالرحمٰن بن حصین کو ابن سعد کے پاس بھیجا کہ تم دیکھ رہے ہو ان چند سواروں نے میرے سوار دستہ کا منہ پھیر دیا ہے اور اب حال

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

یہ ہے کہ میرے سوار ادھر ادھر بھاگ رہے اور جان بچانے کی فکر کر رہے ہیں اس لیے فوراً کچھ پیدل اور کچھ تیر انداز بھیجیے۔ ابن سعد نے عزرہ کی درخواست پر شبث بن ربعی کو جانے کا حکم دیا مگر اس نے گریز کیا[1] پھر اس نے حصین بن نمیر تمیمی کو بلایا اور اس کے ساتھ تمام زرہ پوش سواروں اور پانچ سو تیر اندازوں کو بھیجا انہوں نے انصار امام کے پاس پہنچ کر تیروں کی بارش کر دی اور تھوڑی دیر میں انصار امام کے تمام گھوڑوں کو زخمی و بے کار کر دیا امام کے ان جان نثاروں کے پائے استقلال میں کوئی کمی نہ آئی وہ گھوڑوں سے اتر پڑے اور بڑی دیر تک پا پیادہ ہی اس بہادری و بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے کہ کوفیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔

ایوب بن مشرح الخیوانی کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم حُر بن یزید کے گھوڑے کو میرا تیر لگا جو اس کے حلق میں اتر گیا بس وہ ڈگمگایا اور گر گیا اور حر اس کی پشت پر سے شیر کی طرح کود کر میدان میں آ گئے اور تلوار کھینچ کر یہ شعر پڑھا ؎

اِنْ تَعْقِرُوْا اِبِیْ فَاَنَا اِبْنُ الْحُرِّ ۔۔۔ اَشْجَعُ مِنْ ذِیْ بَعْدَ هِزَبْرٍ

اگر تم نے میرے گھوڑے کو زخمی و بے کار کر دیا تو کیا ہوا میں ابن حر اور شیر ببر سے زیادہ بہادر اور شریف ہوں۔

اور اسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے حُر کی طرح کسی کو تیغ زنی کرتے ہوئے نہیں دیکھا دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ایسی شدید جنگ کہیں نہیں ہوئی ہو گی، جیسی کربلا کے میدان میں

---

[1] یہ شبث بن ربعی مصعب بن زبیر کے عہد امارت میں کہا کرتا تھا کہ خدا اہل کوفہ کو کبھی برکت و ہدایت نہ دے گا۔ کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ ہم حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کے فرزند حسن کی رفاقت میں پانچ سال تک برابر ابوسفیان کے خاندان سے لڑتے رہے یعنی شیعان علی رہے پھر حضرت علی کے فرزند امام حسین کے دشمن ہو گئے جو اس وقت روئے زمین کے آدمیوں میں بہترین آدمی تھے اور ہم معاویہ کے خاندان اور سمیہ کے بچے کے حامی ہو کر اُن سے لڑے۔ ہائے ہائے رے گمراہی وائے وائے رے گمراہی۔ (ابن اثیر)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حسینیوں اور یزیدیوں کے درمیان ہوئی ۔

امام پاک نے اپنے خیموں کو اس ترتیب سے لگایا اور آپس میں باندھ دیا تھا کہ کوئی ایک رُخ کے سوا کسی اور طرف سے حملہ نہیں کر سکتے تھے ۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ خیمے اکھاڑ دیے جائیں تاکہ ہر طرف سے حملہ ہو سکے چناں چہ کوئی جب خیمے اکھاڑنے کے لیے آگے بڑھے تو امام پاک کے چند جاں نثار خیموں کے اندر آگئے اور خیموں کی طرف آنے والوں اور اکھیڑنے اور لوٹ مار کرنے والوں کو آڑ سے تلواروں اور تیروں سے ہلاک کرنے لگے ۔ ابن سعد نے اس صورت میں بھی اپنے سپاہیوں کا نقصان اور ناکامی دیکھی تو حکم دے دیا کہ خیموں کو جلا دو ۔ چناں چہ خیموں کو آگ لگا دی گئی اور وہ جلنے لگے ۔ امام پاک نے دیکھا تو فرمایا ان کو جلانے دو اس صورت میں بھی یہ چاروں طرف سے حملہ نہیں کر سکیں گے کیوں کہ پہلے تو خیمے حائل تھے اب آگ حائل ہے ۔ چناں چہ ایسا ہی ہوا کہ وہ آگ کے حائل ہونے کی وجہ سے پشت کی طرف سے حملہ نہ کر سکے ۔ شمر لعین نے خاص آپ کے خیمہ میں جو ان خیموں سے الگ تھا اور جس میں عورتیں اور بچے تھے نیزہ مار کر ساتھیوں سے کہا آگ لاؤ میں اس خیمہ کو اور جو اس کے اندر ہیں ان کو بھی جلا دوں ۔ بی بیوں نے سنا تو وہ چلاتی ہوئی خیمہ سے باہر نکل آئیں ۔

امام پاک نے دیکھا تو پکار کر کہا او پسر ذی الجوشن تو میرے اہل بیت کو آگ میں جلانا چاہتا ہے ۔ خدا تجھے جہنم کی آگ میں جلائے ۔ شمر کے ساتھیوں میں سے حمید بن مسلم و شبث بن ربعی نے روکا اور غیرت دلائی کہ تیرے جیسے بہادر کا عورتوں کے ساتھ ایسا کرنا نہایت شرمناک ہے ۔ خدا کی قسم تمہارا صرف مردوں کو قتل کر دینا بھی تمہارے امیر کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے ۔ شمر اپنے ارادہ سے باز آکر لوٹا ۔ اس کے لوٹتے ہی زہیر بن قین نے دس آدمیوں کے ساتھ اس پر اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کیا اور ابوعزہ الضبابی کو مار گرایا اور ان کو خیمہ سے دُور ہٹا دیا ۔

اسی اثنا میں عبداللہ بن عمیر الکلبی یزیدیوں کے ساتھ سخت لڑائی کرتے ہوئے شہید ہو گئے ۔ ان کی بیوی اُن کے لاشے پر آئیں اور سر کی طرف بیٹھ کر اُن کے چہرے سے گرد و غبار

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ تمہیں بہشت میں جانا، مبارک ہو۔ شمر لعین یہ جملہ سُن کر کھول گیا اس نے اپنے غلام رستم سے کہا۔ اس کے سر پر زور سے لوہے کا ڈنڈا مار، جوں ہی اس نے مارا اس بی بی کا سر پاش پاش ہو گیا اور روح اسی وقت ہی اپنے شوہر کے پاس بہشت بریں میں پہنچ گئیں ؎

بہاروں پر ہیں آج آرائشیں گلزار جنت کی
سواری آنے والی ہے شہیدانِ محبت کی

جنگ کا طول کھینچنا کوفیوں کے لیے کافی پریشان کن تھا وہ چاہتے تھے کہ جس قدر جلد ہو سکے اسے ختم کریں اور ان چند افراد کو ہلاک کر دیں۔ امام پاک کے ساتھ چند جان نثار تھے۔ ان میں سے جب کوئی شہید ہو جاتا تو نمایاں کمی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے مقابلہ میں کوفیوں کا لشکر کثیر تھا۔ ان کے چند افراد کے قتل ہونے سے کوئی فرق نظر نہ آتا تھا یہ صورت حال دیکھ کر ابو ثمامہ عمرو بن عبداللہ الصائدی نے بارگاہِ امام پاک میں عرض کیا میری جان آپ پر فدا ہو یہ لوگ آپ کے بہت قریب آتے جاتے ہیں اور میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے سامنے آپ کو کوئی گزند پہنچے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پہلے میں جان دوں اور میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی اور چاہتا ہوں کہ نماز پڑھ کر اپنے رب سے ملاقات کروں۔ امام پاک نے سر اٹھا کر فرمایا تم نے اس وقت نماز کو یاد کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نمازیوں اور اپنے یاد کرنے والوں میں داخل فرمائے۔ ہاں اب نماز کا وقت ہے ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دیں۔ اس پر حصین بن نمیر نے بلند آواز سے کہا تمہاری نماز قبول نہ ہو گی۔ حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا او گدھے تو سمجھتا ہے کہ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قبول نہ ہو گی اور تیری قبول ہو گی؟ یہ سُن کر حصین کو سخت طیش آیا اس نے حبیب پر حملہ کر دیا۔ حبیب نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کے منہ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ آگے کے دونوں پاؤں اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور حصین اس کی پیٹھ سے نیچے گرا۔ لیکن اس کے ساتھیوں نے دوڑ کر اُسے بچا لیا۔ حبیب نے یہ رجز پڑھا ؎

اَنَا حَبِیْبٌ وَّ اَبِیْ مُظَهِرٌ فَارِسُ هَیْجَاءَ وَحَرْبٌ تَسْعَرُ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

میں حبیب ابن مظاہر ہوں۔ شہ سوار۔ بہادر اور میدان جنگ میں لڑائی سے آگ بھڑکا دینے والا۔

أَنْتُمْ أَعَدُّ عِدَّةً وَّأَكْثَرْ　　　وَنَحْنُ أَوْفَى مِنْكُمْ وَأَصْبَرْ

تم تعداد میں تو ہم سے بہت زیادہ ہو لیکن ہم وفاداری اور صبر و استقامت میں تم سے بڑھ کر ہیں۔

وَنَحْنُ أَعْلَى حُجَّةً وَّأَظْهَرْ　　　حَقًّا وَّأَتْقَى مِنْكُمْ وَأَعْذَرْ

اور ہم دلیل و حجت میں بہت بلند اور غالب ہیں اور حقیقت میں تم سے زیادہ متقی ہیں اور ہمارا عذر تم پر غالب ہے۔

کچھ دیر تک سخت لڑائی اور شمشیر زنی کی۔ بنو تمیم کے ایک شخص بدیل بن صریم کو قتل کیا لیکن مقابلہ انبوہ کثیر سے تھا۔ تن تنہا کب تک لڑ سکتے تھے۔ ایک تمیمی نے آپ پر نیزے کا سخت وار کیا جس سے آپ گر گئے۔ ابھی اٹھ ہی رہے تھے کہ حصین بن نمیر نے آپ کے سر پر تلوار ماری آپ پھر گر گئے اور تمیمی نے آگے بڑھ کر آپ کا سر کاٹ لیا۔

حبیب کی شہادت سے امام پاک کا ایک قوی بازو ٹوٹ گیا۔ اس بہادر جان نثار ساتھی کے جدا ہو جانے سے آپ بہت شکستہ خاطر ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں خدا تعالیٰ کے پاس اپنا اور اپنے حامیوں کا احتساب کروں گا۔

حر بن یزید نے جب اپنے آقا کو پر ملال دیکھا تو یہ رجز پڑھتے ہوئے آگے بڑھے ؎

اَلَیْتَ لَا أَقْتُلُ حَتّٰی أُقْتَلَا　　　وَلَنْ أُصَابَ الْيَوْمَ إِلَّا مُقْبِلَا
أَضْرِبُهُمْ بِالسَّيْفِ ضَرْبًا مُّفَصِّلَا　　　لَا نَاكِلًا عَنْهُمْ وَلَا مُهَلِّلَا

مشہور جان نثار زہیر بن قین بھی ان کے ساتھ ہو گئے وہ یہ پڑھ رہے تھے ؎

أَنَا زُهَيْرٌ وَّأَنَا ابْنُ الْقَيْنِ　　　أَذُوْدُهُمْ بِالسَّيْفِ عَنْ حُسَيْنٍ

میں زہیر ہوں اور میں قین کا بیٹا ہوں میں ان دشمنوں کو اپنی تلوار کے ساتھ (حضرت) حسین

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

سے دفع کردں گا۔

ان دونوں نے بڑی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے لیکن یہ بھی کب تک لڑتے آخر کوفی پیادوں کے جم غفیر نے حر پر سخت حملہ کر کے ان کو بھی شہید کر دیا۔

ابوثمامہ الصائدی آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے چچازاد بھائی کو جو کوفیوں کے ساتھ تھا، قتل کیا۔ امام پاک نے صلوٰۃ خوف ادا فرمائی۔ اس کے بعد پھر ایسی شدت کے ساتھ لڑائی ہوئی کہ کربلا کی زمین تھرا گئی۔ دشمنوں کا ہجوم بڑھتے بڑھتے امام پاک کے قریب پہنچ گیا اور انہوں نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔ آپ کے ایک جان نثار حنفی آپ کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے اور آنے والے تمام تیروں کو اپنے سینے پر روکا اور ایک تیر بھی آپ تک نہیں جانے دیا لیکن ایک انسان کب تک مسلسل آنے والے تیروں کا ہدف بن سکتا تھا۔ آخر سینہ چھلنی کرا کے یہ بھی امام پاک کے قدموں پر گر کر فدا ہو گئے۔

ان کے بعد نافع بن ہلال البجلی کی باری آئی۔ اس بہادر نے بارہ ۱۲ کوفیوں کو قتل کیا اور بہت سے زخمی بھی کیے۔ آخر دشمنوں نے مل کر ان پر ایسا سخت وار کیا کہ ان کے دونوں بازو کاٹ دیے اور زندہ پکڑ کر کھینچتے ہوئے ابن سعد کے پاس لے گئے۔ ان کے چہرے پر سے خون بہہ رہا تھا اور کہہ رہے تھے میں نے زخمیوں کے علاوہ تمہارے بارہ ۱۲ آدمیوں کو قتل کیا ہے اگر میرے بازو نہ کٹتے تو تم مجھے اسیر نہیں کر سکتے تھے۔ ابن سعد نے کہا نافع تم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ نافع نے کہا خدا خوب جانتا ہے۔ جو کچھ میں نے کیا ہے۔ شمر نے ابن سعد سے کہا خدا آپ کو سلامت رکھے اسے قتل کیجئے؟ ابن سعد نے کہا تو ہی اس کو لے کر آیا ہے تو ہی قتل کر۔ شمر نے ان کے قتل کے لیے تلوار اٹھائی تو نافع نے کہا۔ واللہ اگر تم مسلمان ہوتے تو ہمارا خون اپنی گردن پر لے کر تمہیں اللہ کے سامنے جانا ضرور شاق ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہماری موت بدترین خلائق کے ہاتھوں مقدر فرمائی۔ شمر نے ان کو شہید کر دیا۔

پھر شمر لعین ایک بڑی تعداد کے ساتھ رجز پڑھتا ہوا اور فخر و غرور کے کلمات کہتا ہوا امام پاک کی طرف بڑھا۔ امام پاک کے ساتھ جو صرف چند جان نثار باقی تھے انہوں نے دیکھا کہ اس کثیر لشکر کے مقابلہ میں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتے تو انہوں نے طے کر لیا کہ امام

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

پاک پر کسی نازک وقت کے آنے سے پہلے سب کے سب آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ چناں چہ سب پروانے ایک ایک کر کے شمعِ امامت پر نثار ہونے لگے۔ سب سے پہلے عبداللہ اور عبدالرحمٰن بن عزرۃ الغفاری آپ کے سامنے کھڑے ہو کر دشمن سے لڑنے لگے۔ ان کے بعد دو نوجوان سیف بن حارث اور مالک بن عبد جو آپس میں چچازاد بھائی مگر ایک ہی ماں کے فرزند تھے اس طرح میدان کی طرف بڑھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام پاک نے انہیں روتا دیکھ کر پوچھا اے میرے بھائی کے فرزندو روتے کیوں ہو؟ خدا کی قسم ابھی تھوڑی دیر کے بعد تم خوش اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گے۔ انہوں نے عرض کیا ہم آپ پر فدا ہوں ہم اپنی جان کے لیے نہیں روتے بلکہ آپ کے لیے روتے ہیں کیوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمنوں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے اور ہم ان کو دفع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا اے فرزندو اللہ تعالیٰ تمہیں متقیوں کی سی احسن جزا دے۔ میری حالت پر غمگین ہونے اور میرے ساتھ ہمدردی کرنے پر۔ (آمین)

اسی اثنا میں حنظلہ بن اسعد الشامی امام پاک کے سامنے آکر کھڑے ہو گئے اور پکار پکار کر کہنے لگے اے لوگو! مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر یوم الاحزاب اور قوم نوح وعاد وثمود اور ان کے بعد کی اقوام کی طرح عذاب نازل ہو۔ اللہ تعالےٰ بندوں کے لیے ظلم نہیں چاہتا۔ اے میری قوم کے لوگو! مجھے تمہارے لیے روز قیامت کا ڈر ہے جس روز تم پیٹھ دے کر بھاگتے پھرو گے اور کوئی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اے میری قوم کے لوگو! حضرت حسین کو قتل نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تم پر عذاب نازل کر کے تمہیں تباہ کر دے اور افترا پرداز ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے۔ امام پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے ان لوگوں نے اپنے اوپر عذاب تو اسی وقت ہی واجب کر لیا تھا جب انہوں نے میری دعوتِ حق کو رد کر دیا تھا اور اب یہ ہم سب کو قتل کرنے کے لیے میدان میں آگئے ہیں اور انہوں نے تمہارے صالحین بھائیوں کو قتل بھی کر دیا ہے۔ اب وہ کیسے باز آسکتے ہیں۔ لہٰذا اب ان کو سمجھانا بے کار ہے۔ حنظلہ نے کہا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں آپ نے سچ فرمایا۔ اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی اپنے بھائیوں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

سے جاملوں۔ فرمایا جاؤ اس دار البقاء کی طرف جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حنظلہ نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اللہ کا آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود و سلام ہو اور اللہ ہم سب کو بہشت میں ملائے۔ امام پاک نے اس پر دو مرتبہ آمین کہا حنظلہ آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد سیف اور مالک دونوں السلام علیک یا ابن رسول اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا وعلیکما السلام ورحمتہ اللہ! دونوں نے لڑتے ہوئے جانیں قربان کر دیں۔ ان کے بعد عابس بن ابی شبیب شاکری نے اپنے آزاد کردہ غلام شوذب سے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ارادہ یہی ہے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی طرف سے ان کے دشمنوں سے لڑتا ہوا جان دے دوں؟ عابس نے کہا مجھے تجھ سے یہی امید تھی۔ آؤ ابو عبداللہ حسین کو سلام کریں اور اجازت لیں۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکے ثواب لوٹ لیں۔ بس آج کے بعد ایسے نیک عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ شوذب نے امام پاک کو سلام کیا اور آگے بڑھ کر لڑنے لگا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ عابس نے سلام کے بعد عرض کیا یا ابا عبداللہ۔ خدا کی قسم روئے زمین پر مجھے آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں لیکن اے کاش! میں اپنی جان دے کر آپ کو ان دشمنوں سے بچا سکتا۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچی اور دشمنوں کی طرف بڑھے۔ یہ شجاعت و بہادری میں بہت مشہور تھے۔ ربیع بن تمیم نے ان کو پہچان کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شیر میدانِ وغا ہے خبردار تم میں سے کوئی شخص تنہا ہرگز اس کے مقابلے میں نہ جائے۔ عابس نے پکارا ہے کوئی جو میرے مقابلہ میں آئے؟ کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ ابن سعد نے کہا سب مل کر اس پر سنگ باری کرو۔ چناں چہ چاروں طرف سے پتھر آنے لگے۔ عابس نے ان کی یہ بزدلی دیکھی تو اپنی زرہ اور خود اتار کر پھینک دی اور ان پر ٹوٹ پڑے وہ سب بھاگے اور یہ ان کو مارتے ہوئے ان کی صفوں میں گھستے چلے گئے اور ایک ہل چل برپا کر دی۔ عابس اگرچہ بہت بہادر اور شجاع تھے لیکن تن تنہا ہزاروں کا مقابلہ کب تک کر سکتے تھے۔ آخر دشمنوں نے ان کو گھیرے میں لیا اور چاروں طرف سے ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔

ابو شعثاء یزید بن زیاد الکندی پہلے ابن سعد کے لشکر میں تھے۔ مگر جب انہوں نے دیکھا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کہ یزیدیوں نے امام پاک کی پیش کردہ سب شرطیں رد کر دیں تو یہ لشکرِ یزید سے نکل کر امام پاک کے انصار میں شامل ہو گئے تھے۔ بڑے تیر انداز تھے۔ امام پاک کے آگے آئے اور دونوں زانو ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور یہ شعر پڑھے ؎

اَنَا یَزِیْدُ وَاَبِیْ مُھَاصِرْ اَشْجَعُ مِنْ لَیْثٍ بِغِیْلٍ خَادِرْ
یَارَبِّ اِنِّیْ لِلْحُسَیْنِ نَاصِرْ وَلِابْنِ سَعْدٍ تَارِکٌ وَّھَاجِرْ

میں یزید ہوں اور میرا باپ مہاصر ہے۔ میں شیر بیشۂ شجاعت ہوں۔ خداوندا میں حسین کا مددگار ہوں اور ابن سعد کو چھوڑنے والا اور اس سے دُوری اختیار کرنے والا ہوں۔

پھر پے در پے دشمنوں کی طرف سو تیر چلائے[1] جن میں سے صرف پانچ تیر خطا ہوئے علاوہ ازیں پانچ آدمیوں کو پہلے قتل کر چکے تھے آخر یہ بھی میدان میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔

اسی طرح عمرو بن خالد۔ جبار بن حارث۔ سعد۔ مجمع بن عبید اللہ بھی ایک ایک کر کے فدا ہو گئے۔ صرف ایک سوید بن ابی المطاع الخثعمی باقی رہ گئے[1]۔ جان نثاران امام نے جس صبر و استقلال، شجاعت و بہادری اور جان نثاری کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس چھوٹے سے لشکر پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے۔ ظلم و ستم کے طوفان برپا ہوئے مگر کسی نے بھی ہمت نہ ہاری۔ حمایتِ حق سے منہ نہ موڑا اور کسی نے بھی اپنی جان کو عزیز نہ رکھا بلکہ سب نے اپنی جانوں کو پروانہ وار شمعِ امامت پر قربان کیا اور فردوسِ بریں کو سدھارے رضی اللہ عنہم

اس کے ہر قطرے سے پیدا ہو گئی دنیائے نو
کون کہتا ہے شہیدوں کا لہو ناکارہ ہے
ابرِ رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے
حشر میں شانِ کریمی ناز برداری کرے

---

[1] (ابن اثیر ص ۳۰/۴ طبری ص ۲۵۱/۶)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضیٰ کے پھول
زہـــرا بتول اور چمنِ مصطفیٰ کے پھول

ان کی وفا، صبـــر و رضا حق پر ثبات سے
ہر دم ہیں تازہ گلشنِ دیں میں وفا کے پھول

حوریں جناں سے آئیں ملک آئے عرش سے
لے کر خدا کی طرف سے صلِّ علیٰ کے پھول

ہشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمیں
کملا نہ جائیں یہ ہیں رسولِ خدا کے پھول

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اب اسد اللہ الغالب کی کچھار کے شیروں، چمنستان زہرا کے شگفتہ پھولوں اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی۔ ان ہاشمی جوانوں کا میدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے۔ ان پیکرانِ شجاعت کی خون آشام تلواروں کے حملوں سے شیر دل بہادر بھی چیخ اٹھے۔ انہوں نے حرب و ضرب کے وہ جوہر دکھائے کہ کربلا کی پیاسی زمین کو دشمنوں کے خون سے سیراب کر دیا۔ مگر یہ صرف چند تھے اور دشمن کا لشکر ہزاروں پر مشتمل تھا۔ کب تک مقابلہ کر سکتے تھے۔ جب کہ پانی بھی بند تھا اور مقابلہ بھی ایک کا ایک سے نہیں ہوتا تھا لہٰذا زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کر رہے تھے۔ ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر ان جانبازوں پر پانی بند نہ کیا جاتا اور ایک کے مقابلہ میں ایک ہی جاتا تو اہل بیت کا ایک جوان پورے لشکر کو برباد کر ڈالتا۔

حضرت عبداللہ بن مسلم

امام پاک کے اقربا میں سے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا چچا جان! مجھے اجازت دیجئے میں راہ حق میں سر کٹانے اور اپنے ابا جان اور بھائیوں کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں۔! امام پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا! بیٹا تمہارے باپ اور بھائیوں کی مفارقت کا داغ میرے دل سے محو نہیں ہوا۔ میں کس طرح تمہیں اجازت دوں؟ تم ایسا کرو کہ اپنی والدہ کو ساتھ لے کر جہاں بھی تم سے ہو سکے چلے جاؤ یہ لوگ تمہارا راستہ نہیں روکیں گے کیوں کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ عبداللہ نے عرض کیا چچا جان یہ آپ کیا فرمار ہے ہیں میں آپ کو چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا میں آپ کو چھوڑ کر ہر گز نہ جاؤں گا بلکہ آپ کے سامنے جام شہادت نوش کروں گا۔ آپ نے ان کا جذبۂ جہاد اور شوق شہادت دیکھ کر اشک بار آنکھوں سے ان کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا جاؤ راہ حق میں قربان ہو جاؤ۔ یہ ہاشمی جوان میدان میں آیا اور مقابلے کے لیے پکارا۔ ابن سعد نے کہا کون اس جوان کا مقابلہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کرے گا۔ پھر اس نے قدامہ بن اسد فزاری کی طرف دیکھ کر کہا اے قدامہ تو ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ قدامہ فن حرب میں بہت ماہر اور بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا وہ آپ کے مقابلے میں آیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں مقابلہ ہوتا رہا۔ آخر عبداللہ نے تلوار کا ایک ایسا کاری وار کیا کہ اس کو چیر کر رکھ دیا اور کمر بند پکڑ کر گھوڑے سے نیچے گرا دیا اور خود اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے کیوں کہ آپ کا گھوڑا بھوکا پیاسا ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ گیا تھا۔ پھر نیزہ اٹھا کر مبارز طلب کیا اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کسی نے فارسی میں یہ کیا ہے ؎

امروز بہ بینم جگر سوختہ جان را　　پیش شہ مظلوم کشم روح و رواں را
با دولت جاوید در آغوش در آرم　　در روضۂ فردوس عروسان جناں را

قدامہ کے بیٹے سلامہ بن قدامہ نے حضرت عبداللہ کی شجاعت و بہادری دیکھ کر ابن سعد سے کہا میں نے ایسا دلیر اور بہادر جوان کوئی نہیں دیکھا۔ اب کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ تنہا آپ کے سامنے آئے آپ بھوکے شیر کی طرح ان پر حملہ آور ہوئے اور لشکر اشقیاء کو زیر و زبر کرتے ہوئے ان میں گھستے چلے گئے اور بہت سوں کو مارا اور زخمی کیا آخر انہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا اور جداع دمشقی نے پیچھے سے تلوار ماری اور آپ کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے۔ آپ پیادہ پا بھی مقابلہ کر رہے تھے کہ نوافل بن مزاحم حمیری نے آپ کو نیزہ مارا اور بقول بعض عمرو بن صبیح صیداوی نے تیروں کا نشانہ بنایا اور یہ خلاصۂ خاندانِ عقیل بہشت بریں میں جا پہنچا۔ رضی اللہ عنہ۔

پسران حضرت عقیل

حضرت جعفر بن عقیل نے جب اپنے بھتیجے کو خاک و خون میں غلطاں دیکھا تو اشک بار آنکھوں سے آگے بڑھے اور امام پاک کو سلام کر کے اجازت طلب کی امام پاک نے ان کو بھی سینے سے لگایا اور اجازت دی۔ حضرت جعفر رجز پڑھتے ہوئے میدانِ کارزار میں آئے ابوالمناخر نے اس رجز کا ترجمہ یوں کیا ہے ؎

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

قرۃ العین عقیل من ومولائے حسین | دل وجان پاک ز آلائش ہر تہمت وشین
پسر عم منست ایں شہ وشہزادہ کہ ہست | قرۃ العین نبی چشم و چراغ ثقلین
ایں حسین ابن علی است کہ جبریل امین | پرورش دادہ ورا در حلل اجنحتین

اور لڑنا شروع کیا وہ شجاعت دکھائی کہ بہت سے یزیدیوں کو واصل بہ جہنم کیا اور آخر دشمنوں نے گھیرے میں لے کر تیروں کی بارش کردی اور فرزند عقیل اپنے خون میں رنگین ہو کر عبداللہ بن عزرہ خثعمی کے تیر سے جام شہادت نوش فرما گئے۔ رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمٰن بن عقیل نے جب اپنے بھائی کو نیم بسمل دیکھا تو بے تاب ہو گئے اور شیر کی طرح میدان میں کود پڑے اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ خون اشقیا سے میدان کارزار لالہ زار بنا دیا۔ آخر عثمان بن خالد جہنی اور بشر بن سوط ہمدانی کے ہاتھوں سے جام شہادت نوش کیا، رضی اللہ عنہ،

دونوں بھائیوں کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عقیل آگے بڑھے اور امام سے اجازت طلب کی امام پاک نے فرمایا اگر تمہارا یہی مقصد ہے اور تم سب نے یہی ٹھان لی ہے کہ میدان جنگ میں ایک ایک عزیز کے مجروح ومقتول ہونے کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور فراق کے صدمے بھی سہوں تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک ہم میں سے ایک ناصر بھی باقی رہے اس وقت تک امانت رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے ناخن پا تک بھی دشمنوں کو نہ آنے دیں۔ مسافر کربلا نے اپنے عم زاد بھائی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر عبداللہ کو رخصت کر دیا۔ میدان قتال میں آکر عبداللہ نے تلوار بلند کی اور ہاشمی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ شمشیر آب دار سے بجلیاں گرائیں۔ دشمنوں کا خون بہایا اور عثمان بن اسیم الجہنی اور بشر بن سوط کے حملوں سے جام شہادت نوش کیا۔ رضی اللہ عنہ۔

فرزندان حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ

اولادِ عقیل کی شہادت کے بعد اب فرزندانِ حیدر کرار کی باری آئی یہ وہ شیر تھے جن کی رگوں میں شیر خدا علی مرتضیٰ کا خون گردش کر رہا تھا۔ اب جب کہ عقیل کے فرزند خونِ شہادت

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ہیں نہا چکے تو اولادِ امیر المومنین سیدنا علی میں اوّلیتِ شہادت اور خلعتِ پُر خون حاصل کرنے کے لیے خلیفۂ اوّل اور خلیفۂ برحق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہم نام حضرت ابوبکر بن علی رضی اللہ عنہما نے آگے بڑھ کر امام کی خدمت میں عرض کی بھائی جان مجھے بھی اجازت مرحمت ہو۔ آپ نے فرمایا بھائی تم ایک ایک کر کے مجھ سے جدا ہوئے جا رہے ہو۔ آہ! انہوں نے کہا پیارے بھائی جان! آج میرے پاس اس جان کے سوا اور کچھ نہیں وہ آپ پر نثار ہے۔ اس کو قبول فرمالیں اور مجھے اجازت دیں آپ نے مجبوراً اجازت دی میدان میں تشریف لائے اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے ۔

شاہ و برادر من است اخترِ آسمانِ دین مہتر و بہترِ زمان، قبلہ و قدوۂ زمین
لالۂ روضۂ صفا گلبنِ باغِ اصطفیٰ چشم و چراغِ مصطفیٰ میر و امامِ راستین
گوہرِ کانِ اجتبیٰ مہرِ سپہرِ اہتدیٰ طرہ نشانِ طاد ہا چہرہ کشائے یادسین
من نہ برادر ویم خادم و چاکرِ ویم پیش دو دیدۂ شما خارِ جبانِ تیرہ دیں
تحفۂ جان و دل بہ کف آمدہ ام بدرگہش دیدہ و رُخ برآستاں تیغ و کفن در آستیں

امام نے یہ سن کر ان کو دعائیں دیں۔ انہوں نے لڑنا شروع کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ میں حیدر کرار کا فرزند ہوں، حضرت جدھر بڑھتے کشتوں کے پشتے لگا دیتے۔ آخر زخموں سے نڈھال ہو کر قدامۂ موصلی کے نیزے اور بقول بعض عبداللہ بن عقبہ عنقری کے تیر سے جامِ شہادت نوش کر کے بہشت بریں میں پہنچے رضی اللہ عنہ، ان کے بعد اُن کے دوسرے بھائی حضرت عمر بن علی رضی اللہ عنہما جو خلیفہ ثانی اور خلیفہ برحق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہم نام ہیں بہ اجازت امام پاک میدان میں آئے اور خدا داد قوت و طاقت سے بہت سے یزیدیوں کو مارتے اور کاٹتے ہوئے جنت الفردوس میں سدھارے رضی اللہ عنہ۔ ان کے بعد ان کے تیسرے بھائی حضرت عثمان بن علی رضی اللہ عنہما نے جو خلیفہ ثالث اور خلیفۂ برحق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہم نام ہیں اپنے دو بھائیوں کا خون زمین پر بہتا ہوا دیکھا تو آنکھوں میں دُنیا اندھیر ہوگئی۔ ادھر اپنے بھائی یعنی امام پاک کی خدمت کا جذبہ رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا تو آگے بڑھ کر عرض

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کی جہاں آپ کے دو جاں باز خلعت فاخرۂ شہادت زیب تن کر گئے وہاں ایک حلّہ مجھے بھی عطا ہو کہ میں بھی آپ کا بھائی ہوں امام پاک نے فرمایا تم میری عظمت کا تاج ہو جاؤ اور کوثر پر تشنگی بجھاؤ۔ میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں حضرت عثمان امام پاک سے اجازت لے کر میدان میں آئے اور یوں کہا ؎

آمدہ عثمان بجنگ تیغ یماں در یمین　　خوردہ بہ قتل شما پیش برادر یمین
شامی مدبر چرا تیغ کشد بر حسین　　نیست دلش را نگر دیدۂ انصاف بیں
صبح شہادت دمید وقت صبوح من است　　مست شوم دم بدم از قدح حور عین

پھر خوب لڑے اور ایسے گراں بار حملے کیے کہ سواروں کو گھوڑوں پر نشست دوبھر ہو گئی اور پیدل پس پس کر رہ گئے آخر زخموں سے چور ہو کر خولی بن یزید اصبحی کے ہاتھ سے جام شہادت نوش کیا اور بہشت بریں میں پہنچ گئے۔ رضی اللہ عنہ،

پھر امام پاک کے چوتھے بھائی حضرت جعفر بن علی رضی اللہ عنہما نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اب جان نثاری کا مستحق میں ہوں۔ امام پاک نے ایک نظر اُن کی طرف دیکھا اور فرمایا۔ بھیا بہادری کے جوہر تمہاری پیشانی سے چمک رہے ہیں لیکن انبوہ کثیر سے تن تنہا لڑ کر کوئی واپس نہیں آیا۔ اس لیے بہتر ہو گا کہ مبارز طلب کر کے ایک سے لڑو۔ حضرت جعفر نے کہا بھائی! جس سر میں جاں بازی اور جان نثاری کا سودا ہو اس میں قلت و کثرت کی فکر کہاں سما سکتی ہے۔ اب تو واپس آنے کی نہیں بلکہ آپ پر جان قربان کر کے جنت الفردوس میں اباجان کے پاس جانے کی آرزو ہے۔

امام پاک نے ان کو سینے سے لگایا اور دیر تک روتے رہے۔ حضرت عباس کے علاوہ یہ آخری بھائی رہ گیا تھا جو جدا ہو رہا تھا غرض کہ امام پاک کی اجازت سے میدان میں آئے اور دادِ شجاعت دے کر بہشت بریں سدھارے۔ رضی اللہ عنہ،

فرزندان حضرت امام حسن مجتبیٰ

چاروں بھائیوں کی شہادت کے بعد حضرت امام کے حقیقی بھتیجے عبداللہ بن حضرت امام

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حسن رضی اللہ عنہما آگے بڑھے اور عرض کیا اے عم مکرّم مجھے بھی اجازت دیجئے کہ ان دشمنانِ دین سے لڑوں اور اپنی جان راہِ حق میں قربان کروں۔ امام پاک نے ان کو سینے سے لگایا اور بہت سمجھایا مگر سوائے اجازت دینے کے کچھ بن نہ آیا وہ شیر بیشۂ شجاعت میدانِ کارزار میں آئے اور دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا ؎

پدرم محترم و عالی جاہ　　نور بینائے زہرا حسن است

وایں شہنشاہ گراں مایہ حسین　　ہادی راہ حق و عم من است

اور تلوار بلند کی وہ جوہر دکھائے کہ لشکر اعدا میں کھلبلی مچ گئی۔ ثابت کر دیا کہ میں حیدر کرّار کا پوتا ہوں۔ عمرو بن سعد نے کہا اس جوان کو گھیرے میں لو اور قتل کر دو۔ بختری بن عمرو شامی پانچ سو سواروں کے ساتھ آگے بڑھا اور آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا آخر زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کیا۔ رضی اللہ عنہ۔

سیّدنا قاسم بن حسن

حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد امام پاک کی بارگاہِ اقدس میں گلشن رسالت کا دوسرا مہکتا ہوا پھول یعنی حضرت قاسم بن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما حاضر ہے۔ انیس ۱۹ برس کی عمر ہے اور یہ وہ نوجوان ہے جس کے ساتھ امام پاک کی لختِ جگر حضرت سکینہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، آل رسول کی آنکھ کا تارا سراپا التجا بن کر عرض گزار ہے۔ چچا حضور! میں بھی راہِ حق میں سر کٹانے اور ابا جان کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں۔ مجھے بھی اجازت مرحمت ہو۔ امام پاک نے اس نورِ نظر کی طرف دیکھا اور فرمایا بیٹا! تمہیں کس بات کی اجازت دوں کیا تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں، تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں۔ آہ تم تو میرے بھائی حسن مجتبےٰ کی یادگار ہو۔ حضرت قاسم نے کہا چچا جان خدا کے لیے مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجئے اور مجھے اپنے اوپر نثار ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجئے۔ امام پاک نے اشک بار آنکھوں سے ان کے ماتھے کو چوما اور سینے سے لگا لیا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اور رخصت کر دیا۔ اللہ اللہ امام پاک نے نہ اپنے جوان بھتیجے کے شباب کو دیکھا اور نہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو دیکھا۔ دیکھا تو صرف یہ دیکھا کہ گلشن اسلام خزاں کا شکار نہ ہونے پائے اس کی سرسبزی وشادابی کے لیے اپنے خاندان کے جوانوں کا خون بھی دینا پڑے تو دے دیا جائے ؎

یہ شہادت اک سبق ہے حق پرستی کے لیے
اک ستون روشنی ہے بحر ہستی کے لیے

حضرت قاسم میدان میں آئے اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا او دین کے دشمنو اور اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والو! میں قاسم بن حسن بن علی ہوں میں خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں میں گلشن زہرا کا مہکتا ہوا پھول ہوں آؤ مجھے بھی تیروں سے چھلنی کرو تلواروں سے گھائل کرو اور میرے لیے جنت کا راستہ کھول دو۔ تم میں کون ہے جو تنہا میرا مقابلہ کرے؟ ابن سعد نے ایک سالارِ لشکر ارزق نامی سے کہا کہ اس نوجوان کو قتل کرو۔ ارزق نے کہا واہ جناب! آپ نے خوب میری قدر کی میں وہ بہادر ہوں جو تنہا سیکڑوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اس بچے کے مقابلہ میں جانا میری توہین ہے۔ ابن سعد نے برہم ہو کر کہا تو نہیں جانتا یہ کون ہے یہ علی کا پوتا ہے تین دن کا پیاسا ہے پھر بھی اس کی ہمت وشجاعت کو دیکھنا ہے تو ذرا سامنے ہو جا۔ اس نے کہا میں تو نہیں جاتا البتہ لشکر میں میرے چار بیٹے ہیں۔ ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں۔ اس کے لیے تو وہ ایک ہی کافی ہے چناں چہ اس نے اپنے لڑکے کو بھیجا۔ وہ آپ کے مقابلے میں آیا۔ آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور چند منٹوں میں اس کو تڑپا کے رکھ دیا۔ اور اس کی تلوار جو بہت اچھی تھی وہ چھین لی۔ ارزق کے دوسرے بیٹے نے اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو غصہ میں دیوانہ ہو کر آگے بڑھا کہ اپنے بھائی کا انتقام لے۔ آپ نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ ارزق کا تیسرا بیٹا بھی غیظ و غضب کا پتلا بن کر آگے بڑھا اور آپ کے سامنے آکر آپ کو گالیاں دینے لگا آپ نے فرمایا او اللہ کے دشمن تیری گالیوں کا جواب میں گالیوں سے نہ دوں گا کہ یہ ہماری شان نہیں۔ البتہ تجھے تیرے بھائیوں کے پاس جہنم میں پہنچا دیتا ہوں یہ کہہ کر اس پر حملہ کیا۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اور اس کو چیر کر رکھ دیا۔ ارزق نے جب اپنے تین بیٹوں کا انجام بد دیکھا تو غصّے سے لال پیلا ہو کر دھاڑنے لگا اور خود مقابلے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کا چوتھا بیٹا بے ہودہ کلمات کہتا ہوا آگے بڑھا اور کہنے لگا اے باپ ذرا ٹھہر جا مجھے اس نوجوان سے دو دو ہاتھ ہو لینے دے۔ وہ بھوکے شیر کی طرح آپ پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار کو اپنی تلوار پر روکا اور پھر اس پر اس طرح وار کیا کہ اس کے سیدھے ہاتھ کو کاٹ دیا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر دوسرا وار اس کے سر پر ایسا کیا کہ اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اب تو ارزق کا حال بد دیکھنے کے قابل تھا۔ اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا اور اس کی زندگی کی پوری کمائی لٹ چکی تھی اس مقطوع النسل باپ کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی اس کی صبح تمنا شامِ حسرت بن چکی تھی وہ غیرت جو اب تک قاسم کو بچہ سمجھ کر مقابلہ پر جانے سے روک رہی تھی اب ختم ہو چکی تھی وہ ظالم غیظ و غضب کی آگ میں جلتا ہوا آگے بڑھا کہ اپنے بیٹوں کا انتقام لے اور ایک وار میں اس نوجوان کو ختم کر دے لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے مقابلے میں وہ جوان ہے جس کے بازوؤں میں قوتِ ربّانی کام کر رہی ہے وہ مقابلے میں آ کر ہاتھی کی طرح چنگھاڑنے اور شیر کی طرح دہاڑنے لگا اس کی تلوار فضا میں رعد و برق بن کر چمک رہی تھی۔ جوں ہی اس کی نظر حضرت قاسم کی تلوار پر پڑی جو آپ نے اس کے لڑکے سے چھینی تھی کہنے لگا۔ خدا کی قسم یہ تلوار میں نے ایک ہزار دینار میں خریدی ہے اور ایک ہزار دینار دے کر اسے زہر کا بجھاؤ دیا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہنے دوں گا بلکہ اسی کے ساتھ تمہیں قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا تیرے تین بیٹے تو اس کا مزا چکھ چکے ہیں اور تو بھی خاطر جمع رکھ ابھی تجھے بھی اس کا ذائقہ چکھاؤں گا۔ پھر آپ نے اَلْحَرْبُ خَدْعَۃٌ کے پیش نظر فرمایا ارزق ہم تو تجھے ایک نبرد آزما بہادر مرد سمجھتے تھے مگر تو تو نہایت ناتجربہ کار ہے۔ تجھے تو گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں وہ جھک کر کسی ہوئی زین کو دیکھنے لگا۔ آپ نے اسی وقت ایک ایسا کاری وار کیا کہ اس کو کاٹ کر دو ٹکڑے کر دیا اور ایک جست لگا کر اپنے گھوڑے سے اس کے گھوڑے پر جا بیٹھے اور فوراً دونوں گھوڑوں کے ساتھ خیموں کی طرف آ گئے امام پاک کی

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا۔ واعماہ العطش العطش۔ آہ! چچا جان، پیاس پیاس۔ چچا جان! اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو ابھی ان سب کو نیست و نابود کردوں امام پاک نے فرمایا بیٹا تم عنقریب ساقیٔ کوثر کے ہاتھ سے کوثر کا جام پیو گے دیکھو پینے کے بعد پھر تمہیں پیاس کبھی نہ ستائے گی۔ دیکھو تمہارے والد تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ جاؤ ان کے پاس پہنچنے کا وقت آگیا ہے اور ان کو میرا اسلام کہنا۔ حضرت قاسم پھر میدان میں آئے۔ ابن سعد نے کہا یہ نوجوان ہمارے بہترین جوانوں کو قتل کر چکا ہے اب اس کو مہلت نہ دو۔ اس کو چاروں طرف سے گھیر لو اور اس کو ختم کردو چنانچہ اس کے حکم پر دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور آپ پر حملہ کردیا۔ اب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ آپ اس حالت میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ خاکِ کربلا کا ایک ابر حسنؓ کے چاند پر چھا گیا۔ آخر زخموں سے چور چور ہو گئے۔ ایک شقی شیبت بن سعد اور بقول بعض سعد بن عمرو بن نفیل ازدی نے آپ کے سر پر تلوار ماری۔ آپ نے فرمایا یا عماہ ادرکنی۔ چچا جان مجھے پکڑو سنبھالو اور زمین پر گر گئے۔ امام پاک نے آپ کی آواز سنی دوڑ کر آپ کے پاس پہنچے دیکھا کہ جسم نازنین زخموں سے چور چور ہے۔ سر کو اپنی آغوش میں لے کر فرمایا قاسم! ان کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے تجھے قتل کیا ہے وہ قیامت کے دن تیرے جد امجد کو کیا جواب دیں گے جب وہ تیرے خون کے متعلق باز پرس کریں گے۔ امام پاک کی آغوش میں آپ کی روح پرواز کرگئی۔ رضی اللہ عنہ۔

امام پاک نے لاش مبارک کو اس طرح اٹھایا کہ قاسم کا سینہ آپ کے سینے سے ملا ہوا تھا۔ اور پاؤں زمین کے ساتھ گھسٹتے جا رہے تھے۔ آپ نے لاش کو شہدا کی لاشوں کے پاس رکھ دیا ؎

ہائے جنت کو تم بھی سدھارے — میرے بھائی کے فرزند قاسم
داغ فرقت ہے دل پر ہمارے — میرے بھائی کے فرزند قاسم
کاش تم ساتھ میرے نہ آتے — ہو کے رخصت نہ میدان کو جاتے
بھوکے پیاسے نہ گردن کٹاتے — میرے بھائی کے فرزند قاسم

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

یاد کس کس کی دل سے بھلاؤں   ہائے کس کس کی لاشیں اٹھاؤں
کس کو اپنی کہانی سناؤں   میرے بھائی کے فرزند قاسم

حضرت قاسم کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر بن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہم نے بھی میدان کربلا میں جفاکار یزیدیوں کے ہاتھوں سے جام شہادت نوش کیا۔ رضی اللہ عنہم۔

حضرت محمدؔ و عون

چاروں بھتیجوں کی شہادت کے بعد فرزندان عبد اللہ بن جعفر طیار حضرت محمد و عون امام عالی مقام کے حقیقی بھانجوں حضرت سیدہ زینب کے جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی چمن زہرا کے جنتی پھولوں نے آگے بڑھ کر عرض کی۔ ماموں جان ہمیں بھی نثار ہونے کی اجازت مرحمت ہو؟ امام پاک نے فرمایا نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے تمہیں اس لیے اپنے ساتھ نہیں لایا تھا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں تیروں کا نشانہ بنتے اور نیزوں پر اچھلتے دیکھوں گا۔ تم اپنی اماں کے پاس رہو۔ محمد و عون نے کہا۔ ماموں حضور! اماں جان کا بھی یہی حکم ہے دیکھو وہ بھی سامنے کھڑی ہیں۔ امام پاک نے اپنی بہن سیدہ زینب کی طرف دیکھ کر کہا۔ میری بہن کچھ خیال کرو مجھ پر صدموں کے پہاڑ نہ توڑو میں کن آنکھوں سے ان پھول جیسے بچوں کے سینوں سے تیر اور نیزے پار ہوتے دیکھوں گا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھیں بھیا میرے پیارے بھیا کیا اپنی بہن کا یہ حقیر ہدیہ قبول نہیں کرو گے اگر تم نے میرا یہ ہدیہ قبول نہ کیا تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گی جب وہ پوچھیں گی بیٹی تم نے اس وقت کیا نذر پیش کی تھی۔ جب شہزادۂ سرورِ کونین کے حضور جانوں کے ہدیے پیش ہو رہے تھے۔ میرے یہ دو ہی فرزند ہیں دونوں تجھ پر قربان ہیں اس کے ساتھ ہی سیدہ کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ امام پاک نے اشک بار آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھا۔ دل پارہ پارہ ہو گیا اور دونوں بھانجوں کو سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا ماں دیکھ رہی تھی کہ میری آنکھوں کے تارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزیدی بادلوں میں روپوش ہونے جا رہے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ہیں ان کے جاتے ہی دشمن ان پر بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ مگر اس صبر والی ماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا۔ مولا! جو تیری رضا وہ ہماری رضا۔

چمن زہرا کے جنتی پھول حضرت جعفر طیار کے پوتے۔ مولا علی کے نواسے میدان کارزار میں دشمنوں کے سامنے گئے اور کہا سنو اور ہمیں پہچانو ؎

دادا ہے شہنشاہ دو عالم کا مددگار — سردار جہاں فخر عرب جعفر طیار
وہ شفقہ طراز علم احمد مختار — آلودہ رہی خون میں جس شیر کی تلوار
ہاتھوں کے عوض حق سے سر دست لیے ہیں — اللہ نے پَر ان کو زمرد کے دیے ہیں
نانا اسد اللہ مددگار دو عالم — دیں دار نموں دار جہاں دار دو عالم
سلطان ولایت و اسرار دو عالم — سرتاج فلک جبہ و دستار دو عالم

تم یہ نہ سمجھنا کہ یداللہ نہیں ہیں
ہم شیر تو ہیں گر اسد اللہ نہیں ہیں

پھر ان دونوں بھائیوں نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ صفوف اعدا میں ہلچل برپا ہو گئی آخر شش بہت سے یزیدیوں کو مارتے اور کاٹتے ہوئے خود بھی نیزوں اور تلواروں کا نشانہ بن کر بہشت بریں میں جا پہنچے۔ حضرت عون کو عبداللہ بن قطبۃ الطائی نے اور حضرت محمد کو عامر بن نہشل نے شہید کیا۔ امام پاک کے رفقاء ان کی لاشیں اٹھا کر لے گئے اور خیموں کے پاس لا کر رکھ دیں۔

لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا — اے بھانجو! موجود ہے ماموں یہ تمہارا
اے شیر جوانو! مجھے الفت تھی تمہیں سے — اے تشنہ دہانو مجھے ہمت تھی تمہیں سے

ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بات تو کر لو
سینے سے لگو اٹھو ملاقات تو کر لو

اتنے میں سیدہ زینب بھی آ گئیں امام پاک نے فرمایا لو بہن تمہاری قربانی بھی منظور ہو گئی آؤ اپنے شہیدوں کی زیارت کر لو۔ ماں نے جب اپنے فرزندوں کی کٹی پھٹی

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

لاشوں کو دیکھا تو لاشوں کے اوپر گر گئیں اور بلائیں لیتے ہوئے کہا اے کاش! تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی۔ رضی اللہ عنہما۔

حضرت عباس علمدار

ایک ایک عزیز کا بچھڑنا امام پاک کے لیے اس قدر روح فرسا تھا کہ آپ زانوئے غم پر سر رکھ کر خاک کربلا پر بیٹھ جاتے اور کبھی آسمان کی طرف نگاہ کر کے اپنے وقت شہادت کی باقی ماندہ گھڑیاں گنتے۔ کبھی در در رسیدہ مغموم و مظلوم عورتوں کی طرف نگاہ حسرت فرماتے۔ بس ایک شہزادہ علی اکبر جلو میں ہے اور ایک قوتِ بازو عباس علمدار سامنے ہے اب امام مظلوم کی کمر ٹوٹنے کا وقت قریب آرہا ہے۔ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں۔ اس لیے انتہائی صبر و ضبط کی طلب میں جبینِ نیاز جھکائے ہوئے اپنے خالق و مالک سے عرض و معروض میں محو ہیں۔ جب جبین انور سجدۂ خالق سے راز و نیاز کی منزلیں طے کر کے بلند ہوئی تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے عرض کی! اب تو غلاموں میں مجھ کفش بردار کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا۔ بچوں کے دل جوانوں کا جہاد، بوڑھوں کے کمزور ہاتھوں سے چلتی ہوئی تلواریں دیکھیں اور جس سے اب تک سوائے علم بلند رکھنے کے اور کوئی کارگزاری نہیں ہوئی وہ آپ کا یہ غلام عباس ہے۔

نور دیدۂ بتول! اب تو خون رگیں توڑ کر راہِ خدا میں بہہ جانے کی حسرت میں سرگرم ہے از راہِ کرم مجھے بھی اجازت دے کر میری قسمت کا ستارہ بھی چمکا دیجئے۔ صبر و رضا کے پیکر امام پاک نے اپنے بھائی کا سر سینے سے لگایا آنکھوں سے کچھ محبت اور کچھ درد و غم کے آنسو موتیوں کی شکل میں رخساروں پر چمکتے ہوئے بہنے لگے۔ دیر تک سینے سے لگانے کے بعد فرمایا کیا کروں مشیت الٰہی میں چارہ نہیں راضی بہ رضا ہوں۔ لیکن ساقیٔ کوثر کے لعل! بچوں کی پیاس ان کی ماؤں کے صبر کو متزلزل کر رہی ہے وہ تشنگی کے عالم میں سخت بے قرار ہیں اور ان کی بے قراری ان کی ماؤں کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے یہ سنتے ہی عباس نامدار خیمے کی طرف چلے۔ داخل ہوتے ہی حضرت سکینہ اور علی اصغر

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کی تشنگی کا وہ عالم دیکھا کہ تڑپ گئے۔ علی کے شیر نے غصہ میں ہونٹ چباتے ہوئے کہا افسوس فرات سامنے ہے اور یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترسیں۔ میں ابھی فرات پر جاؤں گا اور پانی لاکران معصوموں کی پیاس بجھاؤں گا۔ یہ سنتے ہی سیدہ زینب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ پکاریں بھیا! کیا نہر کے کنارے فولاد میں ڈوبی ہوئی فوج کی دیوار کے مقابل اکیلے جاؤ گے؟ عباس علم دار نے کہا میری بہن تمہیں تشویش کیا ہے اگر وہاں غرق آہن فوج ہے تو کیا تمہارے بھائی کے ہاتھ میں تیغ خارا شگاف نہیں ہے! شیر حیدر کی ہمت افزا بات سے پیاسوں کو کچھ ڈھارس ہوئی اور ٹوٹتے ہوئے دل سینوں میں بندھ گئے۔ مشکیزا شانے پر لٹکایا اور نہر کی طرف چلے۔ دشمن حائل ہوئے تو آپ نے فرمایا:۔

اتمام حجت

اے کوفیو، شامیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرماؤ۔ حیف صد حیف۔ تم نے فرزند رسول کو بلایا اور پھر اُن سے بے وفائی کی اور دشمنوں سے مل کران پر پانی بند کیا۔ ان کے رفقار، اعزا و اقربا کے سر کاٹے۔ رسول زادیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بُوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو؟ دیکھو ابھی توبہ کا دروازہ تم میں سے بعض کے لیے کھُلا ہے۔ اب بھی وقت ہے ظلم وستم اور فرزند رسول کے قتل سے باز آجاؤ۔ لشکر اشقیا میں سے شمر ذی الجوشن، شبث بن ربعی، حجر ابن الاحجار تینوں نے سامنے آکر کہا اگر تمام روئے زمین پانی ہو جائے تو پھر بھی ہم لوگ تمہیں پانی کا ایک قطرہ تک نہ لینے دیں گے۔ یہ سنتے ہی حیدر کے شیر کو جلال آگیا انہوں نے ایک نعرہ شیرانہ کیا اور فرمایا کہ یہ سر کٹ سکتے ہیں لیکن فاسق و فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ یہ فرما کر تلوار آب دار کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے۔ شاعر کہتا ہے ؎

آتا ہے خبردار اب عباس علم دار　　ناگاہ زمین ان کی ہوئی مطلع انوار
ہر چار طرف سے یہ اٹھا غلغلہ اک بار　　ہوشیار خبردار خبردار خبردار
اے صل علیٰ کیا پسر شیر خدا ہے　　یہ شیر خدا گر نہیں شمشیر خدا ہے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حضرت عباسؓ نے فرمایا ؎

ہاں مجھ کو رکھو یاد میں حیدر کا پسر ہوں اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں
میں دیدۂ ہمت کے لیے نور نظر ہوں پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پسر ہوں

واللہ میری ضرب طمانچا ہے بلا کا
دل بند ہوں میں شیر خدا شیر خدا کا

آپ کا حملہ کیا تھا قہر خدا تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ گھوڑے بھڑکنے لگے سواروں کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹنے لگیں۔ بزدل فراری ہرنوں کی طرح بھاگے اور آپ ان کو مارتے اور کاٹتے ہوئے نہر کے قریب پہنچ گئے۔ نہر پر سیکڑوں مسلح سپاہی بطور پہرے دار مقرر تھے۔ وہ آپ کے سامنے آہنی دیوار بن گئے آپ نے اُن سے فرمایا تم لوگ مسلمان ہو یا کافر؟ انہوں نے کہا مسلمان! آپ نے فرمایا کیا تمہاری مسلمانی یہی ہے کہ فرات سے چرند و پرند سیراب ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، بیٹیاں اور شیر خوار بچے ایک ایک بوند پانی کو ترسیں؟ میں نے اپنی ان آنکھوں سے اُن کو پیاس سے نڈھال اور غش میں دیکھا ہے۔ آپ ان سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ادھر سے یزیدی فوج کے سپاہی، امیر لشکر عمرو بن سعد کا حکم لے کر پہنچ گئے اور نہر پر متعین سپاہیوں سے کہا امیر لشکر کا حکم ہے کہ پانی کی بوند بھی خیمۂ حسین تک نہ پہنچنے پائے یہ حکم سن کر لشکر یزید نے نیزے تان لیے۔ شیر خدا کے شیر نے ایک جست لگائی اور صف اعداء کو چیرتے ہوئے گھوڑا آگے بڑھایا اور فرات میں داخل کر دیا۔ پیاسے ہشتی نے ایک چلّو پانی کا لیا مگر تشنگیٔ اہل بیت پینے سے مانع ہوئی یہ کہہ کر پانی پھینک دیا کہ اے عباس تم نہر پر اپنی پیاس بجھانے نہیں آئے ہو۔ جب تک معصوم علی اصغر اور سکینہ کی پیاس نہ بجھالو تمہیں پانی پینا روا نہیں حضرت عباس نے مشک بھری اور بائیں شانے پر ڈال کر باہر نکلے چاروں طرف سے غل ہوا کہ اگر یہ مشک خیمۂ حسین تک پہنچ گئی تو ساری محنت بے کار ہو جائے گی۔ اس کا راستہ روکو۔ اس سے مشک چھین لو۔ پانی بہا دو۔ ادھر سقائے اہل بیت کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ مشک پیاسوں کے خیمہ تک پہنچ جائے۔ آپ چاہتے تھے کہ گھوڑا اڑا کر

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

خیمہ تک پہنچ جائیں مگر سامنے سے کئی سو تیر مشک کا رُخ کیے نظر آئے۔ آپ مشک کی حفاظت میں ایک طرف ہٹ گئے یہاں تک کہ فوج کی دوسری سمت سے اس قدر قریب ہو گئے کہ اب دونوں طرف سے گھر گئے۔ جب اپنے آپ کو دشمن کے گھیرے میں دیکھا تو بپھرے شیر کی طرح حملہ کیا اور صفوفِ اعدار میں کھلبلی مچادی۔ لاش پر لاش گرنے لگی اور خون کی رَو بھی شروع ہو گئی۔ شیرِ خدا کے لختِ جگر نے میدانِ کربلا میں ثابت کر دیا کہ میرے بازؤں میں قوتِ حیدری اور رگوں میں خونِ علی ہے لاشوں کے انبار لگا دیے کہ ایک خبیث زرارہ نامی نے دھوکے سے آپ کے بائیں شانے پر ایک ایسا وار کیا کہ بازوئے علم دار کو شانے سے جُدا کر دیا۔ آپ نے مشک فوراً داہنے شانے پر لٹکالی اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے لیکن اب نہ وہ طاقت تھی نہ ایک ہاتھ سے دو کام انجام پا سکتے تھے دفاعی کوشش کرتے کرتے ایک طرف سے فوج کے پہرے پر آپ نے گھوڑا اٹھا دیا کہ شاید راستہ مل جائے مگر اس غازی کی خدمات ختم ہونے کا وقت بڑی تیزی سے قریب آرہا تھا یہاں تک کہ نوفل ابن الارزق نے دائیں بازو پر بھی ایک وار کیا اور وہ ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اللہ اللہ شیرِ خدا کے فرزند کی ہمت دیکھیے کہ مشک کا تسمہ منہ میں دبا لیا لیکن مشک کے بچانے کی کوئی تدبیر کامیاب نہ ہوئی کہ ایک مردود نے تاک کر ایک تیر ایسا مارا کہ مشک کے پار ہو گیا اور سارا پانی یک لخت بہہ گیا۔ عرب کی شجاعت کو بٹا لگانے والے نامردوں نے دیکھا کہ اب مجاہد بے دست و بازو ہے اس لیے چاروں طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے اور زخموں سے چُور چُور کر دیا۔ ایک ظالم نے سر پر ایک گرز ایسا مارا کہ آپ یہ کہتے ہوئے یا اخاہ ادرکنی بھائی جان مجھے پکڑنا گھوڑے سے گر پڑے ؎

ناگاہ صدا آئی کہ آؤ میرے آقا — آخر ہوا عباس اٹھاؤ میرے آقا
سر کاٹتی ہے فوج بچاؤ میرے آقا — آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا

سن کر یہ صدا شاہ پکارے کئی باری
ہم شکل بنی دوڑو کمر ٹوٹی ہماری

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

جوں ہی امام پاک نے اپنے بھائی کی آواز سُنی دوڑ کر تشریف لائے۔ اس وقت زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے اَنکسر ظھری الآن اب میری کمر ٹوٹ گئی بے دست و بازو زخموں سے چور چور بھائی کے پاس پہنچے تو دیکھ کر کلیجا تھام کر رہ گئے شاعر کہتا ہے ؎

چلائے گر کے لاشں پر شبیر نامدار بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار
اس نرغہ میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار

شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں
روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں

بے تاب ہے حسین برادر جواب دو اے میرے نوجواں میرے صفدر جواب دو
اب جاں بلب ہے سبط پیمبر جواب دو اے نور چشم ساقی کوثر جواب دو

ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا
سر گود میں دھرا رہا اور دم نکل گیا

اکبر پکارے ہائے چچا بھی گزر گئے رو کر حسین بولے بھائی کدھر گئے
منہ تو اٹھاؤ خاک سے رخسار بھر گئے واحسرتا حسین کو بے آس کر گئے

اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ
دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ

اے شیر صف شکن لے میرے نوجوان پاؤں گا تم سا چاہنے والا میں اب کہاں
شیر خدا کا آج جہاں سے مٹا نشان تم کو حسین جانتا تھا اپنے تن کی جان

تیغوں میں اب سپر نہیں بھائی کے ہوتے ہو
بازو کٹائے شیر سے دریا پہ سوتے ہو

حضرت سیدنا علی اکبر

اب وہ مرحلہ درپیش ہے کہ پتھر دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ بے بسی و بے کسی کی انتہا ہو گئی۔ ستّر اعوان و انصار اور اعزا و اقربا کی شہادت کے بعد آنکھوں کے سامنے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ایک لرزا دینے اور تڑپا دینے والا منظر تھا کہ سرورِ ریاضِ حسینی گلِ باغ مصطفیٰ نورِ دیدۂ مرتضیٰ جانِ چمن مجتبیٰ باپ کی ضعیفی کا سہارا۔ تمام گھر بھر کی آنکھ کا تارا۔ اہل بیت نبوت کا جگ مگاتا چراغ ہم شکل پیمبر۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ جن کو دیکھ کر تصویرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں پھر جاتی تھی۔ اٹھارہ برس کی عمر عین شباب کا عالم ہے۔ کمر شکستہ باپ کے سامنے سراپا التجا بن کر عرض گزار ہے، بابا حضور! مجھے بھی اجازت مرحمت ہو، میں بھی راہ حق میں سر کٹانے اور آپ پر نثار ہونے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں ؎

اکبر کی ہے یہ عرض کہ میداں کی رضا دو　　رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو
بابا مری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو　　اماں سے بھی رخصت مجھے جانے کی دلا دو

کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے
زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے

دل شکستہ باپ نے ایک نظر اپنے فرزند ارجمند پر ڈالی اور فرمایا بیٹا! تجھے کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ بیٹا! تم تو نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہو میں کن آنکھوں سے اس تصویر کو خاک و خون میں تڑپتے اور مٹتے دیکھوں گا۔ میری آنکھوں کے نور۔ تم نہ جاؤ مجھے جانے دو۔ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ ان کی پیاس صرف میرے خون سے بجھے گی۔ شبیہ رسول نے دست بستہ عرض کی بابا! میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ مجھے ان ذلیل لوگوں کا قیدی بنا کر نہ چھوڑ جائیے بلکہ بہشت بریں میں جد امجد حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور بابا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دیجئے۔ اللہ اللہ کتنا بڑا امتحان تھا جس سے فاطمہ کا لال صبر و استقامت کے ساتھ گزر گیا۔ فرمایا بیٹا! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں ورنہ تم جیسے گوہر بے بہا کو کون خاک میں ملاتا ہے اچھا بیٹا جاؤ۔ حسین نے بھی آج چھاتی مضبوط کر لی ہے، دیکھتا ہوں کہ آزمائش کی سِل کتنی وزنی ہے۔

حسینوں کے حسین حضرت یوسف علیہ السلام کے محبوب و مطلوب نبی آخر الزمان کے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

نواسے کا وہ حسین فرزند ہم صورت محبوبِ خدا ان اشقیا میں جا رہا ہے جہاں سے اب تک کوئی واپس نہیں پلٹا تھا۔ اس وقت امام پاک نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ اب دل چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم و یعقوب علیہما السلام کو سلام کہہ کر انہیں آواز دی جائے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا صبر دیکھئے۔

مظلوم کربلا نے اپنے ہاتھوں سے اٹھارہ برس کے جمیل جوان کو سلاح جنگ پہنائے اور گھوڑے پر سوار کرایا اور فرمایا بیٹا جنت میں پہنچ کر نانا جان کو میرا سلام کہنا، میرے بابا علی مرتضیٰ اور میری اماں جان کو بھی میرا سلام کہنا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے ابا جان اور خیمہ میں کھڑی ہوئی ستم رسیدہ بی بیوں کو سلام کہا اور میدان کارزار کی طرف چلے اس وقت امام پاک اور اہل بیت کی پاک بی بیوں اور بچوں پر جو گزری یقیناً اس پر عرش الٰہی ہل گیا ہوگا ؎

داغ اولاد نہیں آہ، اٹھایا جاتا ۔۔۔ ایسا بیٹا نہیں ہاتھوں سے گنوایا جاتا
درد وہ ہے کہ زبان پر نہیں لایا جاتا ۔۔۔ زخم وہ ہے کہ جگر پر نہیں کھایا جاتا

داغِ فرزند حسین ابن علی سے پوچھو
نوجواں بیٹے کا غم باپ کے جی سے پوچھو

دکھ درد کی ماری ماں بیٹے کی رخصتی کے وقت کہہ رہی تھی۔

علی اکبر مری محنت کی طرف دھیان کرو ۔۔۔ اماں واری مری بستی کو نہ ویران کرو
چھوڑ کر ماں کو نہ تم کوچ کا سامان کرو ۔۔۔ پھر فدا ہو جیو، پہلے مجھے قربان کرو

میرے جیتے جی نہ قدم گھر سے نکالو بیٹا
اپنی مادر کا جنازہ تو اٹھا لو بیٹا

چھوڑ کر روتا انہیں خیمہ سے اکبر نکلے ۔۔۔ پیچھے فرزند کے روتے ہوئے سرور نکلے
پر عجب حال سے ہم شکل پیمبر نکلے ۔۔۔ مڑکے تکتے تھے کہ خیمہ سے نہ مادر نکلے

ماں کے رونے کی جو کانوں میں صدا آتی تھی
ٹکڑے ہوتا تھا جگر چھاتی پھٹی جاتی تھی

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

الغرض فوج اعدار کے روبرو تشریف لائے۔ حسنِ خداداد کی جوت سے میدان جگ مگانے لگا۔ نورِ جبین سے جمالِ پیمبر چمکا۔ چہرے کی تجلی نے میدان کارزار کو عالمِ انوار بنا دیا۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ؎

لختِ دلِ امام حسین ابنِ بوتراب ۔۔۔ شیرِ خدا کا شیر وہ شیروں میں انتخاب
صورت تھی انتخاب تو قامت تھا لاجواب ۔۔۔ گیسو تھے مشک ناب تو چہرہ تھا آفتاب
شہزادۂ جلیل، علی اکبرِ جمیل ۔۔۔ بستانِ حسن میں گلِ خوش منظرِ شباب
چہرہ میں آفتابِ نبوت کا نور تھا ۔۔۔ آنکھوں میں شانِ صولتِ سرکارِ بوتراب
صحرائے کوفہ عالمِ انوار بن گیا ۔۔۔ چمکا جو اُن میں فاطمہ زہرا کا ماہ تاب
صولت نے مرحبا کہا شوکت تھی رجز خواں ۔۔۔ جرأت نے باگ تھامی شجاعت نے لی رکاب
چمکا کے تیغ مردوں کو نامرد کر دیا ۔۔۔ اس سے نظر ملاتا یہ تھی کس کے دل میں تاب
مردانِ کار لرزہ بر اندام ہو گئے ۔۔۔ شیر افگنوں کی حالتیں ہونے لگیں خراب
کہتے تھے آج تک نہیں دیکھا کوئی جواں ۔۔۔ ایسا شجاع، ہوتا جو اس شیر کا جواب
کُھپ پکڑوں کو تیغ سے دو پارہ کر دیا ۔۔۔ کی ضرب خود[1] پر تو اڑا ڈالا تارِ کاب
تلوار تھی کہ صاعقۂ برق بار تھا ۔۔۔ یا از برائے زجمِ شیاطین تھا شہاب

میداں میں اس کے حسن و ہنر دیکھ کر نعیمؔ
حیرت سے بدحواس تھے جتنے تھے شیخ و شاب

میدان کربلا میں علیؓ کے پوتے نے میان سے شمشیر آب دار نکالی، اس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں زبان مبارک سے یہ رجز پڑھا ؎

اَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیّ ۔۔۔ نَحْنُ اَھْلُ الْبَیْتِ اَوْلٰی بِالنَّبِیّ

میں علی اکبر ہوں حضرت حسین بن علی کا فرزند۔ ہم اہل بیت رسول ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قرابت دار۔

---

[1] لوہے کی ٹوپی۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اَطْعَنُکُمْ بِالرُّمْحِ طَعْنَ صَیِّبٍ   اَضْرِبُکُمْ بِالسَّیْفِ اَحْمِیْ عَنْ اَبِیْ
ضَرْبَ غُلَامٍ هَاشِمِیٍّ عَرَبِیٍّ   مِنْ اٰلِ بَیْتِ الْهَاشِمِیِّ اَلْیَثْرِبِیْ

یاد رکھو! میں تمہیں نیزے سے ٹھیک ٹھیک نشانہ بناؤں گا اور اپنے باپ کی حمایت میں وہ تیغ زنی کروں گا جیسی ہاشمی عربی جوانوں کی تیغ زنی ہوتی ہے۔ یہ فرما کر ایک نعرہ مارا اور فرمایا ظالمو! اگر اولادِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو۔ زورِ بازوئے حیدر دیکھنا ہو تو میرے مقابل آؤ مگر کس کو ہمت تھی کہ آگے بڑھتا۔ کس کے دل میں تاب و تواں تھی کہ تنہا اس شیرِ ژیاں کے سامنے آتا۔ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک آگے نہیں بڑھتا اور ان کو برابر کی لڑائی کی ہمت نہیں کہ ایک کو ایک کے مقابل کریں تو آپ نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور مثلِ صاعقہ ان پر حملہ کیا جس طرف آپ کا رخ ہوتا دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے نظر آتے ایک ایک وار میں کئی کئی سر گرا دیے۔ ادھر میمنہ پر چمکے تو اس کو منتشر کیا۔ ادھر میسرہ کی طرف پلٹے تو صفیں درہم برہم کر ڈالیں۔ کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگایا تو کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا۔ دلاوروں کے دل چھوٹ گئے۔ بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہ تھا عذاب الٰہی تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے چمنستان رسالت کے گل شاداب کو پیاس کا غلبہ ہوا باگ موڑ کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا یا ابتاہ العطش ابا جان پیاس کے غلبہ سے سخت بے تاب ہوں۔ اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ امام پاک نے اپنے نورِ نظر کی پیاس دیکھی مگر پانی کہاں تھا جو اس تشنۂ شہادت کو دیتے دستِ شفقت سے چہرۂ گلگوں کا گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا بیٹا! اب تمہاری سیرابی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب ساقیٔ کوثر کے ہاتھ سے کوثر کا جام پینا۔ جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے نہ زبان بیان کر سکتی ہے اور اس کے بعد تمہیں پیاس کبھی نہ ستائے گی۔ بیٹا! جب کبھی میں پیاسا ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ میں اپنی زبان مبارک دے دیا کرتے تھے۔ آج تم اس پیاس کی حالت میں میری زبان چوس لو تمہیں کچھ تسکین ہو جائے گی۔ تشنۂ شہادت فرزند نے امام پاک کی زبان مبارک کو چوسا انہیں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

فی الحقیقت کچھ تسکین ہوئی۔ دوبارہ رخصت کرتے وقت امام پاک نے اپنی انگوٹھی فرزند ارجمند کے منہ میں رکھ دی۔ شہزادہ انور نے پھر میدان کا رخ کیا اور لشکر اعدا کے مقابل ہو کر صدا دی ھل من مبارز ہے کوئی جو میرے سامنے آئے عمرو بن سعد نے طارق بن شیث سے کہا بڑے شرم کی بات ہے کہ یہ نوجوان اکیلا ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو تم میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے بالمقابل ہو آخر اس نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا اور تمہارے بہادروں کو تہہ تیغ کر دیا بھوکا پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے اس کے باوجود وہ تمہیں للکار رہا ہے اور تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا تف ہے تمہارے دعویٰ شجاعت پر اگر کچھ غیرت ہے تو اس نوجوان کا مقابلہ کر کے اس کا کام تمام کر دے اگر تو نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھ کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرزند رسول و اولادِ بتول کو قتل کر کے اپنی عاقبت بھی برباد کر لوں اور تو بھی وعدہ پورا نہ کرے۔ ابن سعد نے قسم کھائی اور پختہ قول و قرار کیا۔ اب طارق بدبخت موصل کی حکومت کے لالچ میں گل بستان رسالت کے مقابلہ کے لیے نکلا سامنے پہنچتے ہی اس نے ہم شکل نبی پر نیزے کا وار کیا۔ شہزادۂ والاتبار نے بہ کمال ہنرمندی اس کا وار رد فرما کر اس کے سینۂ پرکینہ پر ایک وار نیزے کا ایسا کیا کہ نیزہ سینہ سے پار ہو گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کی لاش کو روند ڈالا۔ یہ دیکھ کر اس کے بیٹے عمر بن طارق نے وفورِ غصہ سے پاگل ہو کر شہزادۂ جمیل پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے اس کے حملے سے خود کو بچا کر ایک ہی ضرب حیدری سے اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شعلۂ آتشیں بن کر شہزادۂ امام پر ٹوٹ پڑا۔ لخت دل حسین نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو بھی خاک و خون میں ملا دیا لشکر اعدا پر حیدر کے شیر کی ایسی ہیبت چھائی کہ سب دم بخود ہو کر رہ گئے۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصراع بن غالب کو فرزند حسین کے مقابلہ کے لیے بھیجا مصراع نے شہزادے پر نیزے سے حملہ کیا۔ شہزادۂ حسین نے تلوار سے نیزہ قلم کر کے مصراع کے سر پر تلوار سے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ایک ضرب حیدری لگائی کہ مصراع دو ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اب کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ تنہا اس شیر کے مقابل آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو حکم دیا کہ ایک ہزار سواروں کے ساتھ جگر پارۂ بتول علی اکبر پر حملہ کرے چناں چہ وہ اشرار آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ آور ہوئے۔ شہزادۂ امام بھی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے دشمنوں کو ہلاک کر کے خاک و خون میں ملاتے رہے۔ لیکن چاروں طرف سے چلائے جانے والے نیزوں اور تیروں کے مسلسل حملوں سے آپ سخت زخمی ہو چکے تھے اور زخموں سے خون کے بہہ جانے کی وجہ سے دست و بازو میں کمزوری محسوس ہونے لگی۔ آپ کے ہاتھ کا سست پڑنا تھا کہ چاروں طرف سے تلواریں پڑنے لگیں اور چمن فاطمہ زہرا کا یہ گل رنگیں اپنے خون میں نہا گیا ؎

نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر　　کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر
کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر　　خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ مرا پسر
پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے
وہ لعل ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے

شہزادۂ انور پشت زین سے زمین پر آ رہے رہوار سے گرتے ہوئے پکارے یا ابتاہ ادرکنی ابا جان مجھے سنبھالیے مجھ کو لیجئے ؎

جس دم سنی حسین نے یہ جان گزا صدا　　صابر اگرچہ تھے پر کلیجا الٹ گیا
ہاتھوں سے دل کو تھام کے دوڑے برہنہ پا　　نعرہ کیا کہ اے علی اکبر کدھر گیا
مل کر غریب و بے کس و تنہا سے جائیو
آئے ضعیف باپ تو دنیا سے جائیو

جا کر صفوں کے پاس پکارے بہ اشک و آہ　　ہے کس طرف مرے علی اکبر کی قتل گاہ
اے ظالمو! یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ　　کس ابر میں چھپا ہے مرا چودھویں کا ماہ
بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جسم زار میں
زخمی پڑا ہے شیر مرا کس کچھار میں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

جلاّدوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ　　اکبر ہیں کہاں لاش مجھے اُن کی دکھاؤ
یا اُن کے برابر مرا لاشہ بھی گراؤ　　یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ

سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا
یارو میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا

آئے یہ بات کہہ کے جو سلطان بحر و بر　　بیٹے کی لاش باپ نے دیکھی لہو میں تر
اٹھا وہ دل میں درد کہ خم ہو گئی کمر　　دیکھا جو زخم منہ کے قریب آ گیا جگر

اکبر تیرے الم سے جگر چاک چاک ہے
رحب تو نہ ہو تو باپ کے جینے پہ خاک ہے

دشمن کو بھی نہ بیٹے کا لاشہ خدا دکھائے　　حضرت زمیں پہ گر کے پکارے کہ ہائے لٹے
زندہ رہے یہ پیر، جواں یوں جہاں سے جائے　　اے لال تین روز کے فاقے میں زخم کھائے

شاید جگر کے زخم سے تم بے قرار ہو
زخمی تمہاری چھاتی پہ بابا نثار ہو

مظلوم کربلا نے اپنے شہزادۂ اقدس کا سر اپنی گود میں رکھا علی اکبر نے آنکھ کھولی۔

اکبر نے آنکھیں کھول کے دیکھا رخ پدر　　سوکھی زباں دکھائی کہ پیاسا ہوں اے پدر
زردی اجل کی چھا گئی چہرے پہ سر بسر　　دو بار لی کراہ کے کروٹ ادھر ادھر

دنیا سے انتقال ہوا نور عین کا
ہنگام ظہر تھا کہ لٹا گھر حسین کا

جب جان باز بیٹا آغوش پدر میں اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر کے فردوس بریں پہنچا تو مظلوم کربلا نے لاش مبارک زمین کربلا پر رکھ دی اور فرمایا:۔

قَتَلَ اللّٰهُ قَوۡمًا قَتَلُوۡكَ يَا بُنَيَّ ۔

اے میرے فرزند! اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے جنہوں نے تجھے قتل کیا ہے

مَا اَجۡرَاَهُمۡ عَلَى اللّٰهِ وَعَلَى انۡتِهَاكِ حُرۡمَةِ الرَّسُوۡلِ عَلَى الدُّنۡيَا بَعۡدَكَ الۡعِفَاءُ۔

یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آبرو ریزی پر کس قدر دلیر ہیں۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

میرے بچے تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔

لشکر اعداء میں سے حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون خیمہ سے دوڑ کر نکلی وہ اس قدر حسین و جمیل تھی کہ گویا آفتاب نکل آیا اور وہ یہ پکارتی ہوئی آرہی تھی یا اخیاہ ویا ابن اخاہ۔ اے میرے بھیا اور اے میرے بھیا کے فرزند، اور وہ بے تابانہ آکر علی اکبر کی لاش پر گر گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ ہمشیرۂ حسین زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ؎

اے میرے لمبے گیسوؤں والے کدھر ہے تو — ہائے ہائے میری غریبی کے پالے کدھر ہے تو
داری کہاں لگے تجھے بھالے کدھر ہے تو — کیوں کر پھوپھی جگر کو سنبھالے کدھر ہے تو

اٹھارواں برس تھا کہ موت آگئی تجھے
اے نورِ عین کس کی نظر کھا گئی تجھے

اسی دل فگار غمگسار پھوپھی نے شہزادۂ امام علی اکبر کو بڑے ناز و نعمت سے پالا تھا۔ روزن خیمہ سے اسی شہزادے کی شہادت کا قیامت خیز منظر دیکھ رہی تھیں جب پیارے بھتیجے کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھا بے تاب ہوگئیں یارائے ضبط باقی نہ رہا خیمہ سے باہر نکل آئیں اور بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں پر گر پڑیں۔ مظلوم کربلا نے دکھیاری بہن کا یہ حال دیکھا تو ہاتھ پکڑ کر خیمہ میں لائے اور فرمایا اے اہل بیت رسول، اللہ تعالٰی آج تمہارے صبر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے صبر و ضبط سے کام لو اور آج سب کچھ قربان کرکے اس کی رضا حاصل کرلو۔

امام خیمے سے باہر تشریف لائے اور شہزادۂ شہید کی لاش مبارک اور اپنے قلب و جگر کے ٹکڑوں کو اٹھا کر خیمہ کے قریب لاکر رکھ دیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بارگاہِ رب العزت میں عرض کیا۔ میرے معبود! آج تیرے ایک وفادار بندے نے تیری راہ میں سب سے بڑی نذر پیش کرکے سنت ابراہیمی پوری کی ہے۔ میرے مولیٰ، میرا یہ ہدیہ قبول فرما۔ رضی اللہ عنہ۔

جوں ہی ستم رسیدہ غم نصیب ماں نے اپنے نورِ نظر کی لاش کو پاش پاش دیکھا چلا اٹھی اور کہا ؎

اے جانِ فاطمہ مرا پیارا کہاں گیا — اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

وہ تین دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا　　　آلِ نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا
مرتی ہوں اپنے سروِ سہی قد کو دیکھ لوں
اک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں

معصومِ کربلا حضرت علی اصغر

اِدھر مجاہدین فی سبیل اللہ ایک ایک کر کے نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام پاک پر نثار ہو گئے اور اُدھر لشکر اعداء میں اب بھی ہزاروں کی تعداد میں ترکش لگائے کمانیں چڑھائے، ہاتھوں میں شمشیر و سناں لیے فرزندِ رسول کے خون کے پیاسے موجود ہیں۔ ذرا ریحانِ و راکبِ دوشِ رسول، جگر پارۂ بتول سیدنا امام حسین کے جان گسل غم و اندوہ کا تصور کیجئے۔ غریب الوطنی میں اور مسافری کے عالم میں ان پر کیا بیت رہی ہے۔ ہزاروں داغ ہائے جگر، ساتھ ہی سیکڑوں انتہائی دل شکن مناظر ہیں بھوک اور پیاس کا سخت غلبہ ہے۔ انصار اور عزیزوں کے فراق کا صدمہ ہے۔ جان نثاروں، قرابت داروں بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور بیٹوں کی بے کفن دفن مقدس لاشیں دھوپ میں مرجھا رہی ہیں۔ خیمۂ عصمت و طہارت کی بے پناہی ولاوارثی اور اپنی تنہائی کا جان گداز احساس ہے کہ کربلا کا جنگل ان دشمنوں سے بھرا ہوا ہے جن سے اپنے بعد بھی پسماندگان کے لیے کسی رحم و کرم کی امید نہیں۔ ایسے ہی روح فرسا صدہا خیال ہیں، یہ وہ اندوہ گین مصائب و آلام ہیں کہ کسی ایک ذات پر یوں جمع نہیں ہوئے تھے نہ اس سے پہلے چشم فلک نے کبھی دیکھے تھے۔ بلاشبہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشۂ بتول رضی اللہ عنہا نے جس کمال صبر و رضا کا مظاہرہ فرمایا اس کی مثال نہیں ملتی یہ انہیں کا مرتبہ و مقام اور حصہ و حق تھا اور ربّ کائنات کی ان پر کمال مہربانی تھی کہ حق کے لیے ان کے عزم و استقلال اور ثبات میں معمولی سی لغزش۔ کجا، زبان پر حرفِ شکایت بھی نہیں ہے۔

صبح سے اس وقت تک جتنے مجاہد بھی میدان کارزار میں گئے انہوں نے قتل کیا بھی اور خود بھی قتل ہوئے لیکن اب وہ ننھا شیر خوار شش ماہہ مجاہد میدانِ کارزار میں دشمنوں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کے سامنے آرہا ہے جس نے غصے سے کسی کو انگلی بھی نہیں لگائی تھی اور تیوری چڑھا کر کسی کو دیکھا بھی نہ تھا وہ کیوں آیا صرف اس لیے کہ تاریخ کے صفحات پر اپنے مقدس خون سے اپنی معصومیت و مظلومیت اور ان اشقیار کی شقاوت و قساوت کی داستان نقش کر دے اور آنے والی نسلوں کو بتا دے کہ ان سنگ دل یزیدیوں نے مجھ جیسے بے جرم و خطا شیر خوار پر بھی کوئی ترس نہیں کھایا اور تین دن کے پیاسے حلق میں پانی ڈالنے کی بجائے تیر پیوست کیا۔

معصوم شیر خوار علی اصغر کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ رباب نے امام پاک کی خدمت میں عرض کیا۔ میرے سر کے تاج فرط غم اور فاقے سے میرا تو دودھ خشک ہوگیا ہے اور پانی کا ایک قطرہ نہیں۔ ذرا اپنے اس لخت جگر کو دیکھو کہ شدت پیاس سے اس کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ مجھ سے تو اس کا رونا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ میرا تو کلیجا پاش پاش ہو رہا ہے۔ خدارا اس کو لے جائیے اور ان پتھر دل ظالموں کو دکھائیے۔ اس کی حالت زار دیکھ کر ضرور کسی کو رحم آجائے گا بچوں پر تو ہر کسی کو رحم آجاتا ہے۔ حضرت سیدہ رباب کی درخواست پر امام پاک اپنے اس پھول علی اصغر کو جو ابھی کھلنے بھی نہ پایا تھا گود میں اٹھا کر سینے سے لگائے سیاہ دل دشمنوں کے سامنے پہنچے ؎

جب رن میں حسین اصغر بے شیر کو لائے لخت جگر بانوئے دل گیر کو لائے
جلادوں میں اس صاحب توقیر کو لائے ہاتھوں پہ دھرے چاند سی تصویر کو لائے
غل پڑ گیا دیکھو شہ والا کے پسر کو
خورشید نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے قمر کو

گر میں بقول شمر و عمر ہوں گنہ گار یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصور وار
شش ماہ و بے زبان، نبی زادہ شیر خوار ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار
سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے
مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زادہ ہے

ان پھول سے رخساروں کے کملانے کو دیکھو گہوارے سے میداں میں چلے آنے کو دیکھو

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ان سوکھے ہوئے ہونٹوں کے مرجھانے کو دیکھو غش آنے کو اور سانس الٹ جانے کو دیکھو

ناحق ہے عداوت تمہیں نازوں کے پلے سے
پھر دوگے تو پانی بھی نہ اترے گا گلے سے

فرمایا اے قومِ جفاکار! میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور یہ طفلِ صغیر میرالخت جگر ہے اگر تمہارے زعم باطل میں میں مجرم ہوں تو اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں اس کو تو پانی پلا دو دیکھو شدت پیاس سے اس کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ دشمنو! میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو شاید تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اس میں سے میں بھی پی لوں گا۔ پانی کے دو قطروں سے اس کا خشک گلا تر ہو سکتا ہے اور چند قطروں سے بہتے ہوئے دریائے فرات میں کوئی کمی نہیں آجائے گی۔ بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آجاتا ہے اور تم تو مسلمان کہلاتے ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بچہ کون ہے ؎

یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے درِ نجف ہے بانوئے بےکس کا لال ہے
لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے بطحا کے شہزادے کا تم سے سوال ہے

تم کو قسم ہے روحِ رسالت مآب کی
ٹپکا دو اس کے حلق میں دو بوند آب کی

افسوس صد افسوس! سنگ دل جفاکار تیرہ بختوں پر کچھ اثر نہ ہوا اور ان کو ذرا رحم نہ آیا۔ بجائے پانی کے ایک بدبخت شقی ازلی حرملہ بن کاہل اسدی نے نشانہ لے کر اس زور سے ایک تیر مارا جو علی اصغر کا حلق چھیدتا ہوا امام پاک کے بازو میں بیٹھ گیا۔

امام پاک نے وہ تیر کھینچا خون کا فوارہ ہمراہ پیکان برآمد ہوا۔ امام پاک نے بچے کا گرم گرم لہو اپنے چلو میں لیا اور جانب فلک پھینکا اور فرمایا:۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُشْهِدُكَ عَلٰی هٰؤُلَاۗءِ الْقَوْمِ۔

اے اللہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر میں تجھے گواہ بناتا ہوں۔

پروردگار عالم! جس راہ میں اس وقت میں گام زن ہوں اس کی سخت کٹھن منزلیں تیری رحمت ہی سے آسان ہو رہی ہیں ؎

وہ دیکھ دست امامت پہ شیرخوار کی لاش وہ دیکھ پھر بھی کہیں ڈگمگا سکے نہ قدم

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

بچے نے اک جھرجھری سی لی اور مظلوم باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کر جان دے دی۔ مظلوم باپ نے ننھے شہید کو چوما اور ہاتھ میں لگے ہوئے خون سے ریش مبارک کو خضاب کر کے فرمایا۔ میرے چاند تم چلو میں بھی اسی ہیئت میں تمہارا خون منہ پر ملے تمہارے پیچھے نانا جان کے پاس آتا ہوں اور ان کو دکھاتا ہوں کہ ان جفا کار امتیوں نے تمہارا اور میرا کیا حال کیا ہے۔ ادھر خیموں میں بی بیوں کو گمان تھا کہ بے رحم سنگ دل بچے کی حالت زار پر ضرور ترس کھائیں گے اور پانی پلا دیں گے جب انہوں نے اس شگوفۂ آرزو کو بھی امام کے ہاتھوں میں خون سے رنگین پایا تو ان کے جگر پھٹ گئے ؎

کیا یہی انصاف ہے اک بوند پانی کے عوض حلق اصغر میں عدو کا تیر ہونا چاہیے

امام نے ننھے شہید کو علی اکبر کے پاس لٹا دیا۔ جوں ہی ماں نے اپنی گود میں تڑپنے والے کو خاک کربلا پر سکون سے لیٹا دیکھا تو کہا ؎

اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا بے زباں اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا

ہو سکتا ہے معصوم علی اصغر شدت پیاس سے نہیں شوق شہادت میں بے تاب ہوں اور دوسری طرف وہ بدبخت معصوم علی اصغر کے قتل کو شاید اپنا کارنامہ سمجھ رہے ہوں مگر چھ ماہ کے اس جنتی پھول نے اپنی جان دے کر یہ بتا دیا کہ لشکر یزید میں شامل بدبخت انسانیت سے بھی عاری ہو گئے تھے اور انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی ؎

تیر اصغر معصوم پہ اعدا نے لگایا فریاد خدایا بے دردی و بے رحمی سے ہے خون بہایا فریاد خدایا
کس طرح جگر اس کے مجھوں کا نہ شق ہو کیوں کر نہ قلق ہو تڑپا کیا بے چین رہا پانی نہ پایا فریاد خدایا
بچوں پہ نہ رحم کی نظر ستم جہاں ہے مشہور بیاں ہے افسوس لعینوں نے ذرا ترس نہ کھایا فریاد خدایا
پانی کے لیے پیاسے تڑپتے رہے سادات اور مانگا تو بہیات بے دینوں نے آب دم شمشیر پلایا فریاد خدایا
سچ ہے غم فرزند اٹھائے نہیں اٹھتا یہ سب پہ ہے بالا ٹوٹی ہے کمر ہائے یہ صدمہ جو اٹھایا فریاد خدایا
پھٹتا ہے جگر کیا کریں تدبیر بھلا ہم دارو ہے نہ مرہم یہ زخم تو کاری دل مجروح پہ کھایا فریاد خدایا

کہتے ہیں شقی آپ جو بیعت نہ کریں گے پانی نہ دیں گے
ہے آل محمد کو لعینوں نے ستایا فریاد خدایا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حشر تک چھوڑ گئے اک درخشندہ مثال
حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسانِ حسینؓ

سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الٰہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطب الاقطاب شیخ الاسلام والمسلمین، برہان الشرع والدین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:۔

دراں روز کہ امیر المومنین حسین شہادت خواہد یافت آں شب بزرگے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا را در خواب دید کہ باہمگی زنانِ انبیاءؑ صلوات اللہ علیہم اجمعین آمدہ است دامنِ مبارک در کمر بستہ در دشت کربلا ہماں جا کہ امیر المومنین حسین رضی اللہ عنہ، شہادت خواہد یافت جاروب میدہد و باستین مبارک خود پاک میکند پرسیدند اے خاتونِ قیامت و اے شفیع روز محشر ایں چہ مقام است کہ باستین مبارک پاک میکنی گفت ایں مقامے است کہ حسین غریب ما اینجا سر خواہد داد و شہادت خواہد یافت (راحۃ القلوب ص ۵۹)

جس روز امیر المومنین حضرت حسین نے شہادت پائی اسی رات ایک بزرگ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو خواب میں دیکھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی عورتوں کے ساتھ آئیں اور دامن مبارک کمر سے باندھے ہوئے دشت کربلا جہاں کہ امیر المومنین حضرت حسین رضی اللہ عنہ، نے شہادت پائی تھی جھاڑو دے رہی تھیں اور اپنی آستین مبارک سے پاک وصاف کر رہی ہیں۔ پوچھا گیا کہ اے خاتون قیامت اور اے شفیع روز محشر یہ کون سا مقام ہے جس کو آپ نے اپنی آستین مبارک سے صاف کیا ہے فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارا مسافر حسین سر دے گا اور شہادت پائے گا۔

وہ سبطِ مصطفیٰ کی شہادت کی رات تھی
زہرا و مرتضیٰ پہ قیامت کی رات تھی

تاج دار کربلا سیدنا امام حسین

اب راکب دوش رسول، نور دیدۂ بتول، لخت دل علی مرتضیٰ۔ راحت جان حسن مجتبیٰ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ عاشقوں کے قافلہ سالار۔ آلِ رسول کی آنکھوں کے تارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے۔ پیکرِ صبر و رضا۔ شہید دشت کربلا۔ مومنوں کے دل کے چین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت آگیا ہے۔

اب قیامتِ غم و الم برپا ہونے والی ہے۔ اب کائنات ارضی و سماوی میں صفِ ماتم بچھنے والی ہے۔ اب زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ اب وہ کرب انگیز لمحات آنے والے ہیں جن کے تصور سے دنیائے اسلام لرزہ براندام ہوجائے گی اور ایسا کیوں نہ ہو کہ وہ شہزادۂ کونین جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے مبارک پر سلاتے۔ کندھوں پر بٹھاتے اور اپنی زبان مبارک چوساتے تھے وہ جان جگر نواسا جس کا اپنی مہربان ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی گود میں رو پڑنا نبیوں کے سردار کو بے قرار کردیا کرتا تھا وہ ناز کا پالا جس کے پشت اقدس پر چڑھ جانے کی صورت میں سرورِ کونین سجدوں کو طویل فرمادیا کرتے تھے۔ جس کا پشت مبارک سے گرنا رسولوں کے تاج دار کو گوارا نہیں تھا وہ فرزند رسول جس کی عقیدت و محبت ہر مسلمان پر فرض ہے جس کی تعظیم و توقیر اور ادب و احترام ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ جس کے ساتھ محبت رکھنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا ہے اور جس کو ستانا اور اذیت پہنچانا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا ہے اس کو اس کے اہل و عیال کے سامنے تیروں، تلواروں اور نیزوں سے گھائل کر کے گھوڑے سے نیچے گرایا جائے گا اور اس کی مقدس لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جائے گا۔ خیمے جلائے جائیں گے اور رسول زادیوں کا سب ساز و سامان لوٹ لینے کے بعد ان کو قیدی بنالیا جائے گا۔ ہائے افسوس ؎

جن کے صدقے میں ہوئے آزاد صدیوں کے اسیر — کیا انہیں کو بستۂ زنجیر ہونا چاہیے

چناں چہ تاج دار کربلا اپنا تمام کنبہ قبیلہ عزیز و اقارب اور اعوان و انصار راہ حق میں نثار کرنے کے بعد اب اپنی جان کی نذر اپنے معبود برحق کی بارگاہِ اقدس میں پیش کرنے کا عزم فرماتے ہیں اور خیمۂ اہل بیت میں تشریف لے جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار بیٹا جس نے سخت بخار کی حالت میں کئی دن بستر پر گزارے تھے جس کو سفر کی کوفت۔ بھوک و پیاس

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کی شدّت اور آنکھوں کے سامنے ہونے والے جان کاہ واقعات نے اس قدر کم زور و ناتواں بنا دیا تھا کہ کھڑے ہونے سے بدن مبارک لرزتا تھا۔ باوجود اس کے نیزہ سنبھالے ہوئے عازمِ میدانِ جنگ ہے۔ تاجدارِ کربلا نے اپنے نورِ نظر زین العابدین کو اپنی آغوش محبت میں لیا۔ پیار کیا اور فرمایا بیٹا! ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ابھی تو تم نے اپنی ان ماؤں بہنوں کی نگہداشت کرنی ہے اور ان بے کسان اہلِ بیت کو وطن تک پہنچانا ہے۔ میرے فرزند اللہ تعالےٰ تم ہی سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا۔ دیکھو صبر و ثبات سے رہنا اور راہِ حق میں آنے والی ہر تکلیف و مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا۔ ہر حالت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کی پابندی کرنا۔ بیٹا مصائب و آلام سہتے ہوئے جب کبھی مدینہ منورہ پہنچو تو سب سے پہلے نانا جان کے روضۂ انور پر جانا اور نانا جان کو میرا سلام کہنا، سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا پھر میری اماں جان کی قبر پر جانا انھیں بھی میرا سلام کہنا۔ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو میرا سلام کہنا میرے لختِ جگر میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو۔ امام پاک نے اپنی دستار مبارک اتار کر زین العابدین کے سر پر رکھ دی اور اس صبر و رضا کے پیکر کو فرشِ علالت پر لٹا دیا ؎

شفقت و الفت مری جتنی ہے اہلِ بیت پر — بعد میرے تم بھی رکھیو بلکہ اس سے بیش تر
یہ امانت سونپتا ہوں تم کو اے جانِ حسین — اتباعِ مصطفیٰ ملحوظ رکھیو نورِ عین
بے پدر ہونے کا غم دل پر سکینہ کے نہ ہو — رنجِ تنہائی نہ آئے زینب و کلثوم کو
پنجۂ اعداء سے آخر صبر میں ہے مخلصی — رفتہ رفتہ تا وطن تم لوگ پہنچو گے کبھی
واقعاتِ کربلا کی جو حضور حد بیاں — آئی جب نوبت ہماری اس قدر کہیو وہاں
گو بہ تن از بارگاہت بس کہ دور افتادہ ام — لیکن از جان ہم چناں سر بر درت بہ نہادہ ام

اب امام پاک اپنے خیمہ میں تشریف لائے۔ ساماں کھولا۔ قبائے مصری زیبِ تن فرمائی۔ اپنے نانا جان حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ مبارک سر پر باندھا۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی سپر پشت پر رکھی اپنے برادر اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا پٹکا اپنی کمر پر باندھا۔ اپنے باپ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی تلوار ذوالفقار حمائل

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کی شہیدوں کے آقا جنت کے نوجوانوں کے سردار سب کچھ راہ حق میں قربان کر کے اب اپنے سر کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔

بی بیوں کے خیمہ میں تشریف لائے۔ بی بیوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان پر بے کسی کی انتہا ہو گئی چہروں کے رنگ اڑ گئے حسرت ویاس کی خاموش تصویر بنی ان مقدس خواتین کی آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ ادھر امام پاک فرما رہے تھے تو تم پر میرا سلام ہو۔ درد میں ڈوبی ہوئی جگر سوز آواز میں بہنوں نے کہا پیارے بھیا! ازواج کی صدا آئی سر کے تاج! سکینہ نے کہا بابا! کہاں جا رہے ہو۔ ہمیں اس جنگل میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو جن درندوں نے علی اصغر جیسے معصوم پر بھی ترس نہیں کھایا وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ فرمایا اللہ تمہارا حافظ ونگہبان ہے۔ آپ نے صبر کی تلقین فرمائی اور رضائے الٰہی پر صابر وشاکر رہنے کی وصیت کی اور فرمایا ؎

اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم
لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم
اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا مرا حلقوم
ہے صبر کا اماں کے طریقہ تمہیں معلوم
مجبور ہیں ناچار ہیں مرضی خدا سے
بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے
جس وقت مجھے ذبح کرے لشکرِ ناری
رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری
بے صبروں کا شیوہ ہے بہت گریہ وزاری
جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری
ہوں لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر
اس ظلم کا انصاف ہے اب روزِ جزا پر

آپ کی بہت پیاری بیٹی حضرت سکینہ آکر آپ سے لپٹ گئی اور چلاتے ہوئے کہا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

بابا اگر تم چلے گئے تو میں بابا کہہ کے کس کو پکاروں گی میرے سر پر محبت و شفقت سے کون ہاتھ پھیرا کرے گا۔ امام پاک نے سکینہ کو گود میں اٹھا لیا، پیار کیا اور اپنی بہن حضرت زینب کی گود میں دیتے ہوئے فرمایا زینب یہ میری نازوں کی پالی بہت پیاری بچی ہے اس کو رونے نہ دیا کرنا۔ اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ اس کو میری لاش کے پاس نہ آنے دینا زینب نے کہا میری ماں جائے آج سکینہ ہی یتیم نہیں ہو رہی آج ہم سب بے سہارا اور یتیم ہو رہے ہیں۔ کاش! ہمیں موت آگئی ہوتی اور ہماری آنکھیں اس روح فرسا منظر کو نہ دیکھتیں بھیا آپ کے بغیر اور آپ کے بعد آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو ہم بھی آپ کے دوش بدوش لڑکر اپنی جانیں فدا کریں گی فرمایا میری بہن! تم صابروں کی اولاد ہو قضا و قدر الٰہیہ پر صابر و شاکر رہو اور زبان پر کوئی حرف شکایت نہ آنے دو۔ یہ دنیا ایک سرائے فانی ہے اور دار آخرت ہی باقی اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ دنیا یوم چند آخر کار با خداوند، سنو میری بہن!

ہمارے شفیق نانا اللہ کے رسول تشریف لے گئے۔ پھر اماں جان سیدہ عالم داغ جدائی دے گئیں۔ بابا کے سر کا زخم تین دن آنکھوں سے دیکھا وہ بھی لحد میں جا چھپے۔ بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے تم نے اور ہم نے طشت میں دیکھے اور صبر کیا اب میرے معاملے میں بھی صبر کرو تم نے تو ابھی آنے والے شدید ترین مصائب پر بھی صبر کی مہر لگائی ہے۔ پھر آپ نے ایک ایک بی بی کا نام لے کر سلام کیا اور صبر و ضبط کی وصیت فرمائی۔ دکھے ہوئے مجروح دل جدائی کے تصور سے پاش پاش ہو رہے تھے۔ حسرت بھری نگاہیں پُرنور چہرے کا دیدار کر رہی تھیں آہ صد آہ چند لمحات کے بعد یہ جلوے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہونے والے ہیں امام نے خدا حافظ کہا اور خیمہ سے نکلے ؎

کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمہ کے باہر — اس وقت بپا ہو گیا ہنگامۂ محشر
چلا کے کوئی کہتی تھی ہے ہے مرے سرور — کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر

بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ
روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ　　مرجاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ
صدقے گئی ننھا سا مرا دل نہ دکھاؤ　　بے تاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ
شہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے
اب حشر میں ہووے گی ملاقات پدر سے

مظلوم کربلا نے دائیں بائیں نگاہ کی تو تمام میدان اُن جان نثاروں سے خالی پایا جو ہر وقت رکاب نصرت میں حاضر رہتے تھے اور سواری کے وقت رکاب گردانی کرتے تھے۔ حضرت زینب نے دیکھا کہ بھائی کو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے تو پکاری اے راکب دوش رسول! رکاب داری کی خدمت کو کوئی نہیں تو مایوس نہ ہونا۔ رسول اللہ کی نواسی اس خدمت کے لیے حاضر ہے ؎

زینب نے پکارا مرے ماں جائے برادر　　ناشاد بہن لینے رکاب آئے برادر
اب کوئی مددگار نہیں ہائے برادر　　صدقے ہو بہن گر نہیں پھر پائے برادر
کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا
بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا

تاج دار کربلا سوار ہوئے اور میدان کی طرف رُخ کیا ؎

خیمہ کی طرف مڑ کے یہ کرتے تھے اشارا　　زینب بہن اللہ نگہبان تمہارا
گر روضۂ انور پہ گزر ہووے قضارا　　نانا سے مرا صبر بیاں کیجیو سارا
وہ کہتی تھی اللہ نہ لے جائے وطن میں
ہمشیر کو پہلو ہو نصیب آپ کا رن میں

ہمشیر نے لاشوں کو اٹھانا ترا دیکھا　　مر وہ لیئے معصوم کا آنا تیرا دیکھا
ہونٹوں پہ زباں خشک پھرانا ترا دیکھا　　اکبر کے لیے اشک بہانا ترا دیکھا
ہر چند بہادر مرے بابا بھی بڑے تھے
پیاسے کبھی چوبیس پہر کے نہ لڑے تھے

سیدہ زینب کہہ رہی تھیں ؎

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت　　دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت
یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت　　سمجھو پسر فاطمہ زہرا کو غنیمت
ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا
پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا

امام پاک میدانِ کربلا میں باطل کی تاریکیوں میں حق وصداقت کا آفتاب بن کر چمکے اور اپنے ذاتی ونسبی فضائل پر مشتمل ایک رجز پڑھا ؎

انا ابن علی الخیر من آل هاشم　　کفانی بهذا مفخرا حین افخر
بودہ ام ابن علی از آل ہاشم باوقار　　ایں قدر کافیست مارا اعتبار وافتخار

وجدی رسول الله اکرم من مشی　　ونحن سراج الله فی الناس اذهر
جدّ من باشد رسول اللہ محبوب خدا　　بر سر فرش زمین ہستم چراغ کردگار

وفاطمة امی سلالة احمد　　وعمی یدعی ذا الجناحین جعفر
مادرم زہرا ست بنت مصطفیٰ وعم من　　جعفر طیار ملک مکرمت را تاج دار

وفینا کتاب الله انزل صادقا　　وفینا الهدی والوحی والخبر
درمیان ما کتاب اللہ نازل بودہ است　　ذکر حق وحی ورشد خیر جملہ یادگار

اتمامِ حجّت

پھر فرمایا اے لوگو! تم جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو یہ اسی رسول کا ارشاد ہے کہ حسن وحسین میرے دونوں نواسے جوانانِ اہل بہشت کے سردار ہیں۔ تم میں کون ہے جو اس حدیث کا انکار کرتا ہے۔ بے غیرتو! ذرا شرم کرو اور اگر خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو کہ اس سمیع وبصیر، شاہد وشہید خدا کو کیا جواب دو گے۔ اور محسن اعظم نورِ مجسم، رحمتِ عالم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اپنے رسول کا گھر اجاڑنے والو اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر نظر کرو۔ بے وفاؤ! تم نے مجھے خطوط لکھے میرے پاس قاصد بھیجے اور کہا کہ ہماری

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

راہ نمائی کیجئے ورنہ ہم خدا کے حضور آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے ۔ میں نے تم پر اعتماد کیا اور چلا آیا ۔ بے شرمو ! تمہیں تو چاہیے تھا کہ میری راہ میں آنکھوں کا فرش بچھاتے ۔ میرے پاؤں کی خاک کو آنکھوں کا سرمہ بناتے اور حسب وعدہ سب کچھ مجھ پر نثار کرتے مگر تم نے اس کے بالکل برعکس میرے ساتھ ایسا بُرا سلوک کیا کہ مظالم کی انتہا کر دی ظالمو! تم نے میری آنکھوں کے سامنے چمن زہرا کے لہلہاتے ہوئے پھولوں کو کاٹا ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں کو خاک و خون میں تڑپایا ۔ میرے اعوان و انصار کو قتل کیا اب تم مجھے بھی ذبح کرنا چاہتے ہو اب بھی وقت ہے غیرت و شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو ۔ میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر نہ لو ۔ بولو کیا کہتے ہو ؟ انہوں نے کہا آپ یزید کی اطاعت قبول کرلیں ورنہ بجز جنگ کے کوئی چارہ نہیں ۔ آپ کو معلوم تھا کہ میری باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوگا کیوں کہ اُن کے قلوب پر مہریں لگ چکی ہیں ۔ شقاوت انتہا کو پہنچ چکی ہے لیکن آپ نے یہ باتیں حجت قائم کرنے کے لیے فرمائی تھیں تاکہ اُن کے پاس کوئی بھی عذر باقی نہ رہے ۔

اب آفتاب نبوت کا نورِ نظر ، شہنشاہ ولایت کا لختِ جگر ، مخدومۂ کائنات خاتون جنت کے دل کا چین ، پیکر صبر و رضا سیدنا حسین بھوک و پیاس کی حالت میں دوستوں اور عزیزوں کی جدائی کے زخم دل پر لیے ہوئے ، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بیس ہزار کے لشکر جرار کے سامنے کھڑا یہ فرما رہا تھا کہ اگر تم کسی طرح خون ناحق سے باز آنے والے نہیں ہو تو آؤ اپنی مراد پوری کرو اور میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ اور اپنے بہترین بہادروں اور جنگ جوؤں کو ایک ایک کرکے میرے مقابلہ میں بھیجتے جاؤ اور قوت ربانی اور شجاعت حسینی اور ضربات حیدری کے مظاہرے دیکھتے جاؤ ۔

چناں چہ مشہور جنگ جو اور بہادر افراد جن کو سخت وقت کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا ان میں سے تمیم بن قحطبہ پوری تیاری کے ساتھ اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا اور غرور و تکبر کے کلمے کہتا ہوا آپ کے مقابلہ پر آیا اور خون منہ کو لگے ہوئے چیتے کی مانند آپ پر جھپٹا آپ نے برق خاطف کی طرح تیغ براں چمکا کر اس کا سر مثل خیام خام جسم سے اڑا دیا اور

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اس کے غرور شجاعت کو خاک میں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر جابر ابن قاہر قیمتی بڑے کرو فر اور لاف گزاف کے ساتھ آگے بڑھا اور ایک نعرہ مار کر کہنے لگا کہ بہادران شام و عراق میں میری شجاعت اور بہادری کے چرچے ہیں کسی میں میرے مقابلے کی تاب نہیں جب سپاہ شام کا یہ سرکش گستاخ حضرت کے سامنے آیا تو آپ پر تلوار کا وار کیا۔ آپ نے اس کا وار بچا کر سیف براں کا ایک ایسا وار اس پر کیا کہ اس کا بازو کٹ کر زمین پر جا پڑا پشت پھیر کر بھاگنے لگا ملک الموت نے اس کا راستہ روک لیا اور امام پاک نے دوسری ضرب لگا کر اُس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔

بدر بن سہیل یمنی غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا عمرو بن سعد سے کہنے لگا کن بزدلوں اور شجاعت کا نام بدنام کرنے والوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج رہے ہو جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے۔ میرے چاروں بیٹوں میں سے جسے چاہو اب میدان میں بھیج دو۔ اور پھر دیکھو کہ مجھ سے سیکھے ہوئے میرے یہ فرزند آج کس طرح فن حرب کا مظاہرہ کرتے ہیں عمرو بن سعد نے بدر کے بڑے فرزند کو اشارہ کیا وہ گھوڑا اڑاتا ہوا حضرت کے مقابل آیا۔ حضرت نے فرمایا بہتر ہوتا کہ تیرا باپ میدان میں آتا کہ وہ تیری بدبختی کا تماشا نہ دیکھتا۔ یہ فرما کر تیغ خون آشام سے ایک ہی وار اس پر ایسا کیا کہ اس کا کام تمام کر دیا۔ بدر نے جب اپنے بیٹے کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا اس کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ غیظ و غضب کا پتلا بن کر نیزہ ہلاتے ہوئے میدان میں نکلا اور آپ پر وار کیا آپ نے اپنی ڈھال پر اس خوب صورتی سے اس کے وار کو روکا کہ یک لخت اس کے نیزے کی انی ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی بدنصیب نے خالی ڈنڈے کو غصے سے زمین پر دے مارا اور تلوار سنبھال لی۔ حضرت امام نے فرمایا لاف زنی اور چیز ہے اور شجاعت اور چیز ہوشیار اب تیرا کام بھی تمام ہونے والا ہے یہ کہہ کر صاحب شق القمر کے لخت جگر نے تکبیر کہی اور تلوار آب دار کا ایک ایسا وار کیا کہ جنگ جُو بدر کے دو ٹکڑے کر دیے۔

اسی طرح نئے نئے شمشیر زن، نیزے باز، بہادران شام و عراق کی طرح گرجتے اور ہاتھی کی طرح چنگھاڑتے ہوئے حضرت امام کے مقابل آتے رہے مگر جو بھی سامنے آیا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

زندہ واپس نہیں گیا۔ شیرِ خدا کے لال نے شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ و شام کا کھیت بو دیا۔ نام وران صف شکن کے تازہ تازہ خون سے زمین مقتل کو لالہ زار بنا دیا۔ کشتوں کے پشتے لگا دیے ؎

آئی ندائے غیب کہ شبیر مرحبا اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا
یہ آبرو، یہ جنگ، یہ توقیر مرحبا دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا
غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر
بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر

لشکر اعداء میں شور برپا ہو گیا کہ اگر جنگ کا انداز یہی رہا تو حیدر کا یہ شیر کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ بس مصلحت وقت یہی ہے کہ چاروں طرف سے گھیر کر یک بارگی حملہ کرو ؎

ناگاہ ابن سعد نے لشکر کو دی ندا کیسے جری ہو کچھ بھی ہے یارو تمہیں حیا
نرغے میں لو حسین کو اب دیکھتے ہو کیا اک بار ہر طرف سے پڑیں حربۂ قضا
دم لینے دو نہ فاطمہ کے نور عین کو
سینے پہ نیزے رکھ کے گرا دو حسین کو

یہ سن کے مستعد ہوئے وہ سارے نابکار پہلو میں آئے تان کے نیزوں کو نیزے دار
سینہ کے آگے تیرزنوں نے کیا قرار پتھر لیے یمین و یسار آئے دو ہزار
پیدل سوار، گرد سب اس آن ہو گئے
بے کس کے قتل ہونے کے سامان ہو گئے

چناں چہ زہرا کے چاند پر جور و جفا کی تاریک گھٹا چھا گئی۔ ہزاروں جوان دوڑ پڑے اور حضرت امام کو گھیرے میں لے لیا۔ آپ نے فرمایا ظالمو! اگر تم نے ابن زیاد اور یزید کی خوشنودی کی خاطر اولادِ رسول کا خون بہانا ضروری سمجھ لیا ہے تو اولادِ رسول نے بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی ٹھان لی ہے ؎

یہ کہتے تھے حضرت کہ بڑھے برچھیوں والے اور آئے پس پشت سواروں کے رسالے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

دینے کو پیاد سے گئے تلواریں نکالے | زہرا کے جگر بند پہ چلنے لگے بھالے
غل تھا کہ کرو ٹکڑے محمد کے جگر کو | گھوڑے پہ سنبھلنے نہ دو زہرا کے پسر کو

حضرت امام ان خون خواروں کے انبوہ میں اپنی تیغ خارا شگاف کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جس طرف گھوڑا بڑھاتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے۔ دشمن ہیبت زدہ ہو گئے اور حیرت میں آ گئے۔

عبداللہ بن عمار ایک لشکری کا بیان ہے۔

فواللہ ما رایت مکسورا قط قد	خدا کی قسم! میں نے کسی ایسے بے کس
قتل ولدہ واھل بیتہ و	اور بے بس جس کی اولاد اور اہل بیت اور
اصحابہ اربط جاشا ولا امضیٰ	اصحاب سب قتل ہو چکے ہوں اس جرأت
جنانا منہ ولا اجراء مقدما	دلیری اور بہادری سے نہ کبھی پہلے نہ ان
واللہ ما رایت قبلہٗ ولا بعدہٗ	کے بعد لڑتے ہوئے ہرگز نہیں دیکھا جس
مثلہٗ ان کانت الرجالۃ لتنکشف	طرح حسین کو دیکھا ان کے حملہ سے اُن
من عن یمینہ وشمالہ انکشاف	کے دائیں بائیں کے لوگ اس طرح
المعزی اذا اشد فیھا الذئب	بھاگ گئے جس طرح بھیڑیے کے حملہ سے
(طبری صفحہ ۲۵۹/۶)	بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں۔

حضرت امام لڑتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے میرے قتل کے لیے جمع ہونے والو! خدا کی قسم میرے بعد کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو گے جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا کے غضب کا باعث ہو گا۔ خدا مجھ کو اعزاز بخشے گا اور تمہیں ذلیل کرے گا اور جب تک تم پر سخت عذاب نازل نہ کرے گا راضی نہ ہو گا۔ (طبری صفحہ ۲۶۰/۶)

باوجود اس کے کہ تین دن کے پیاسے اور صدموں سے چُور چُور تھے اپنی شہادت کے بعد مخدرات عصمت وطہارت کی اسیری و بے کسی کا خیال بھی دامن گیر تھا مگر قربان جائیں آپ کے صبر و استقلال کے اور سرشاریٔ شوق شہادت کے کہ باطل کے سامنے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں فرمایا اور ثابت کر دیا کہ میری رگوں میں خونِ رسول ہے اور میرے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

بازوؤں میں قوت حیدر ہے۔ میرے جیسا کوئی شہ سوار نہیں ہے کیوں کہ میں نے دوش رسول پر سواری کی ہوئی ہے۔ میرے جیسا کوئی بہادر نہیں ہے اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شجاعت بخشی ہوئی ہے۔ میں مظہر شجاعت رسول ہوں۔

الغرض ابن سعد اور اس کے مشیروں نے یہ دیکھ کر کہ اکیلے امام نے نامورانِ کوفہ اور بہادرانِ شام کی عزت و شجاعت کو خاک میں ملا دیا ہے یہ تجویز کی کہ دست بدست جنگ کی بجائے امام پر چاروں طرف سے تیروں کا مینہ برسایا جائے اور جب خوب زخمی ہو جائیں تو نیزوں کے حملے سے تن نازنین کو ہدف بنایا جائے۔ چناں چہ ان اشقیا کے حکم سے تیر اندازوں نے ہر چہار طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں قوت و ہمت نہ رہی ناچار حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ اب ہر طرف سے تیر آ رہے تھے اور امام مظلوم کا تن اقدس ہدف بنا ہوا تھا۔ ظالموں نے آپ کے نورانی جسم کو زخموں سے پارہ پارہ اور لہولہان کر دیا۔ ایک مردود ابوالحنوق کا تیر پیشانی مبارک پر لگا وہ پیشانی جو بارگاہِ بے نیاز میں جھکنے والی اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی شگافتہ ہو گئی اس کے خون سے چہرۂ انور سرخ ہو گیا آپ نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بدبختو! تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا بھی خیال نہ کیا۔ گویا اب جنت کے دولہا اور مسندِ شہادت کے شہ نشین نے خونِ رواں کا سہرا باندھ لیا تھا اور زخموں کے ہار گلے میں ڈال لیے تھے اور اُدھر حورانِ بہشتی فردوس بریں کے جھروکوں سے اس جوانانِ جنت کے سردار کو جھانک رہی تھیں۔ حوضِ کوثر نے اپنے ٹھنڈے اور شیریں جام اس تین روز کے پیاسے کے لیے تیار کر رکھے تھے۔ انبیاء، اولیا اور شہدا کی ارواح مقدسہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سید الشہداء کے استقبال کے لیے ہمہ تن تیار تھیں۔ جنت الفردوس کی تزئین و آرائش ہو رہی تھی ؎

بہاروں پر ہیں آج آرائش گلزار جنت کی
سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی

اتنے میں خولی بن یزید اصبحی نے سینۂ بے کینہ پر ایک تیر ایسا مارا کہ قلب اقدس

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

میں پیوست ہوگیا۔ اب راکب دوشِ پیمبر کو گھوڑے پر قرار دشوار ہوگیا۔ ہاتھوں سے لجامِ فرس چھوٹ گئی اور امام عرش نشین صدرِ زین سے فرشِ زمین پر گر گئے۔ شمر لعین نے عارض مبارک پر تلوار ماری اس کے بعد بدبخت سنان بن انس نخعی نے آگے بڑھ کر ایک نیزہ مارا کہ تن اقدس کے پار ہوگیا ؂

تشنہ لب ذرّوں پہ خونِ مشک بو بہنے لگا　　خاک پر اسلام کے دل کا لہو بہنے لگا

اور ریحان روضۂ رسالت، یاسمین گلشنِ ولایت گلدستۂ باغ لافتیٰ، لالۂ شائستۂ چمن ھل اتیٰ، یادگار خاندانِ نبوت سلالۂ دودمان رسالت، شہزادۂ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بارگاہِ ایزدی میں سجدہ ریز ہو کر واصل بحق ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ؂

شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا
کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں

جان نثار بہن سیدہ زینب یہ قیامت خیز منظر دیکھ کر خیمہ سے نکل آئیں اور چلاتی ہوئی دوڑیں آہ! میرے بھائی میرے سید! کاش آسمان زمین پر پھٹ پڑتا۔ اس وقت ابن سعد حضرت امام کے پاس کھڑا ہوا تھا اس سے کہنے لگیں اے عمرو بن سعد ابو عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں اور تو دیکھ رہا ہے گو ابن سعد کی آنکھوں پر جاہ و حشمت کی حرص و طمع نے پردے ڈال دیے تھے پھر بھی قرابت تھی سیدہ زینب کی فریاد سن کر اور حالت دیکھ کر بے اختیار رو دیا کہ رخساروں پر آنسوؤں کی لڑی رواں ہوگئی اور فرطِ خجالت سے سیدہ زینب کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ (طبری ص ۲۵۹/۶)

شقی ازلی خولی بن یزید حضرت امام کے سرِ انور کو جسد اطہر سے جدا کرنے کے لیے بڑھا۔ لیکن ہاتھ کانپ گئے تھرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بھائی شبل بن یزید پلید نے گھوڑے سے اتر سرِ مکرم کو جسد معظم سے جدا کر کے اپنے بھائی خولی کے حوالے کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ شمر لعین کوڑھی تھا اس نے سر مبارک کو کاٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ابلق کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر پچاس برس کے بعد ظاہر ہوئی جب کہ شمر ذی الجوشن ابرص نے حضرت امام کا خون بہایا حضرت محمد بن عمر بن حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں تھے آپ نے شمر کو دیکھ کر فرمایا اللہ اور اس کا رسول سچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک ابلق کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔

سیدہ زینب رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی اپنے پیارے بھائی کی طرف بڑھیں ؎

القصہ گرتی پڑتی گئیں فوج کے قریں ۔۔۔ آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا مہ جبیں
گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کیں ۔۔۔ چلائیں راہ دو مجھے اے دشمنان دیں
یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں
دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں

قاتل تو اس طرف کو سر پاک لے چلا ۔۔۔ تڑپا زمیں پہ یاں بدن شاہ کربلا
طبل ظفر بجانے لگے دشمن خدا ۔۔۔ غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ
کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی
پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی

ناگاہ بہن کو آیا نظر لاشۂ امام ۔۔۔ بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنہ کام
رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام ۔۔۔ اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام
ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بے داد ہو گئی
تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی

تذکرہ سبط ابن الجوزی میں ہے کہ آپ کے جسد اطہر پر تینتیس[۳۳] زخم نیزوں کے اور چالیس زخم تلوار کے تھے اور آپ کے پیراہن شریف میں ایک سو اکیس[۱۲۱] سوراخ تیروں کے تھے۔

آسمان تھا لرزتے ہیں اور تلاطم میں زمین ۔۔۔ اس سے آگے کیا ہوا مجھ سے کہا جاتا نہیں

بے حیا بدبختوں نے جسم مبارک کے تمام کپڑے اتار لیے اور آپ کو برہنہ کر دیا چنانچہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

آپ کا جبہ خزم عصری کا تھا وہ قیس بن محمد بن اشعث نے تن بے سر سے اتار لیا اور بحر بن کعب نے پائجامہ لیا۔ اسود بن خالد نے نعلین اتار لیں۔ عمرو بن یزید نے عمامہ مبارک لے لیا یزید بن شبل نے چادر لے لی۔ سنان بن انس نخعی نے زرہ اور انگوٹھی اتار لی۔ بنی نہشل کے ایک شخص نے تلوار لے لی جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان میں آگئی۔ اس قدر ظلم وستم کرنے کے بعد بھی سنگ دل اور خونی شامیوں اور کوفیوں کا جذبۂ بغض وعناد ختم نہ ہوا۔ بدبختوں نے حضرت امام کے جسد اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر کے ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ اس پیمانۂ شقاوت کے بعد لٹیروں نے پردہ نشینان عفاف کے خیموں میں داخل ہو کر اہل بیت کا سارا سامان لوٹ لیا۔ (طبری)

اس شقاوت وسنگ دلی پر زمین کانپ اٹھی۔ عرش الٰہی تھرا گیا۔ زمین وآسمان خون کے آنسو روئے شجر وحجر سے نالہ وشیون کی صدائیں بلند ہوئیں۔ جن وانس اور ملائکہ آسمانی میں صف ماتم بچھ گئی ؎

اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں
لعنۃ اللہ علیکم دشمنان اہل بیت

کربلا کے بیابان میں ظلم وجفا کی آندھی چلی۔ مصطفائی چمن کے غنچہ وگل باد سموم کی نذر ہو گئے۔ علی کا گھر تاراج ہو گیا۔ زہرا کا لہلہاتا باغ اجڑ گیا۔ ریاض نبوی کا گل سرسبز مسلا گیا۔ اہل بیت غریب الوطنی میں بچے یتیم اور بی بیاں بیوہ ہو گئیں اور ان کو اسیر بنا لیا گیا۔ یہ واقعہ ۱۰ محرم ۶۱ھ جمعہ کے روز ہوا۔

حضرت امام پاک کی عمر شریف اس وقت ۵۶ سال ۵ ماہ اور ۵ دن کی تھی۔ اس صادق جاں باز نے اپنے نانا جان کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کیا۔ دین حق پر قائم رہ کر اپنا کنبہ اور اپنی جان راہ خدا میں ایسی ثابت قدمی کے ساتھ نذر کی جس کی مثال نہیں ملتی ؎

حشر تک چھوڑ گئے اک درخشندہ مثال
حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسان حسین

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

شہادت کے بعد کے واقعات

کربلا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ظلم عظیم ہوا تھا جس پر زمین وآسمان خون کے آنسو روئے اور کائنات پر تاریکی چھا گئی۔ علامہ امام ابن حجر عسقلانی۔ امام بیہقی۔ حافظ ابو نعیم علامہ ابن کثیر۔ علامہ ابن حجر مکی۔ امام سیوطی اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جیسے جلیل القدر محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی معتبر تصانیف میں روایات نقل فرمائی ہیں۔ چناں چہ حضرت بُصرہ ازدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

لمّا قتل الحسین مطرت السماء دما فاصبحنا وحبابنا وجرارنا وکل شیٔ لنا ملاٰن دما۔ (بیہقی ابو نعیم سر الشہادتین ص۳۲، صواعق محرقہ ص۱۹۲)

کہ جب حضرت حسین قتل کیے گئے تو آسمان سے خون برسا صبح کو ہمارے مٹکے گھڑے اور سارے برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔

حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی۔

انہ یوم قتل الحسین لم یقلب حجر من احجار بیت المقدس الا وجد تحتہ دم عبیط۔ (بیہقی، ابو نعیم، سر الشہادتین ص۳۲ تہذیب التہذیب ص۳۵۴/۲ صواعق محرقہ ص۱۹۲)

کہ جس دن حضرت حسین شہید کیے گئے اس دن بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا۔

حضرت ام حبان فرماتی ہیں۔

یوم قتل الحسین اظلمت علینا ثلاثا ولم یمس منا احد من زعفرانہم شیئا یجعلہ علی وجہہ الا احترق ولم یقلب حجر بیت المقدس الاوجد تحتہ دم عبیط۔ (بیہقی۔ سر الشہادتین ص۳۲)

جس دن حضرت حسین شہید کیے گئے اس دن سے ہم پر تین روز تک اندھیرا رہا اور جس شخص نے منہ پر زعفران (غازہ) ملا اس کا منہ جل گیا اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔

خلف بن خلیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

لمّا قتل الحسين اسودت السمآء و ظهرت الكواكب نهارًا (تهذيب التهذيب ص ۳۵۴/۲، صواعق محرقہ ص۱۹۲)

کہ جب حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو سورج کو گہن ہوگیا اور آسمان سیاہ ہوگیا۔ اور دن میں ستارے نظر آنے لگے اور

وان السمآء احمرت لقتله وانكسفت الشمس حتّى بدت الكواكب نصف لنهار وظن الناس ان القيامة قد قامت ولم يرفع حجر فى الشام الا روى تحته دم عبيط۔ (صواعق محرقہ ص۱۹۲)

حضرت حسین کے قتل پر آسمان سرخ ہوگیا اور سورج کو گہن ہوگیا یہاں تک کہ دن کے وقت تارے نظر آنے لگے اور لوگوں نے گمان کرلیا کہ قیامت قائم ہوگئی ہے اور شام میں کوئی پتھر نہیں اٹھایا جاتا تھا مگر اس کے نیچے تازہ خون دیکھا جاتا تھا۔

امام ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ان الدنيا اظلمت ثلاثة ايام لم ظهرت الحمرة فى السمآء۔ (صواعق محرقہ ص۱۹۲)

بے شک دنیا پر تین روز تک تاریکی چھائی رہی پھر آسمان پر سرخی ظاہر ہوئی۔

ولقد مطرت السمآء وما بقى اثرة فى الثياب مدة حتّى تقطعت۔ (صواعق محرقہ ص۱۹۲)

بے شک آسمان نے خون برسایا اور اس خون کی بارش کی سرخی کپڑوں سے پرزے پرزے ہونے تک نہ گئی۔

حضرت علی بن مسہر اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں۔

كنت ايام قتل الحسين جارية شابة فكانت السمآء ايامًا تبكى له۔ (بیہقی سر الشہادتین ص۳۳)

کہ میں حضرت حسین کی شہادت کے ایام میں جوان لڑکی تھی پس کئی روز تک آسمان ان پر رویا تھا۔

بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سات روز تک آسمان خون کے آنسو رویا۔ اس کے اثر سے دیواریں اور عمارتیں رنگین ہوگئیں اور جو کپڑا اس سے رنگین ہوا اس کی سرخی پرزے پرزے ہونے تک نہ گئی۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

امام سیوطی فرماتے ہیں۔

ولما قتل الحسین مکثت الدنیا سبعة ایام والشمس علی الحیطان کالملاحف المعصفرة والکواکب یضرب بعضها بعضا وکان قتله یوم عاشوراء و کسف الشمس ذلك الیوم واحمرت آفاق السماء ستة اشهر بعد قتله ثم لا زالت الحمرة تری فیها بعد ذلك ولم تکن تری فیها قبله۔ (تاریخ الخلفاء ص۲۰۸، صواعق محرقہ ص۱۹۲)

جب حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو سات دن تک دنیا تاریک رہی دیواروں پر دھوپ کا رنگ زعفرانی رہا اور ستارے ایک دوسرے پر ٹوٹ کر گرتے رہے اور آپ کی شہادت یوم عاشورہ میں ہوئی اس دن سورج کو گہن لگ گیا چھ ماہ تک برابر آسمان کے کنارے سرخ رہے پھر وہ سرخی تو جاتی رہی مگر افق کی سرخی اب تک برابر موجود ہے جو اس واقعہ سے پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی۔

علامہ ابن جوزی فتح ملیہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان کو سرخ کرنا اور خون کی بارش برسانا اس کے بہت زیادہ ناراض اور غضب ناک ہونے کی علامت ہے کیوں کہ جب کوئی غصہ وغضب میں آتا ہے تو اس کا خون جوش کرتا ہے اور چہرہ سرخ ہوجاتا ہے اللہ تعالیٰ بلاشبہ جملہ عوارض جسمانی سے پاک اور منزّہ ہے لیکن اس نے اپنی ناراضی اور غضب کا اظہار اس طرح کیا کہ آسمان کو سرخ کر دیا اور اس سے خون برسایا اور اس علامت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ چنانچہ امام ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:۔

ان الحمرة التی مع الشفق لم تکن قبل قتل الحسین (صواعق محرقہ ص۱۹۲)

کہ بے شک آسمان پر شفق کے ساتھ جو سرخی ہوتی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔

حضرت ابن عیینہ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں:۔

لقد رایت الورس عادت رمادا ولقد رایت اللحم کان فیہ النار حسین قتل

کہ حضرت حسین کی شہادت کے وقت ورس (کسم) راکھ ہوگئی اور گوشت ایسا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

الحسین۔ (تہذیب التہذیب ص۳۵۴ ج۲، ابونعیم، سر الشہادتین ص۳۳)

ہوگیا کہ گویا اس میں آگ بھری ہے۔

جمیل بن مرہ سے روایت ہے کہ

اصابوا ابلا فی عسکر الحسین یوم قتل فنحروها وطبخوها فصارت مثل العلقم فما استطاعوا ان یسیغوا منها شیئا۔ (بیہقی۔ تہذیب التہذیب ص۳۵۴، سر الشہادتین ص۳۳)

یزید کے لشکریوں نے لشکر امام حسین کے اونٹ آپ کی شہادت کے روز پکڑ لیے پھر ان کو ذبح کیا اور پکایا تو وہ اندرائن کے پھل کی طرح کڑوے ہو گئے اور ان کو کوئی نہ کھا سکا۔

زمین میں اور فلک میں رنج و غم تھا شور ماتم تھا — زمین روئی فلک رویا کہ ان دونوں سے خوں برسا
اٹھے جب صبح کو تو خون سے برتن بھرے دیکھے — سبھی پُر ہو گئے اس خون سے مٹکے گھڑے ان کے
کسی پتھر کو جب بیت المقدس میں اٹھاتے تھے — تو اس کے نیچے سے تازہ اور بہتا خون پاتے تھے
چھپا سورج، اندھیرا ہو گیا یوم شہادت میں — رہا پھر یہ اندھیرا تین دن شکل مصیبت میں
بہ وقت دوپہر دن میں نظر آنے لگے تارے — برابر سات دن تک خون روئے آسماں سارے
ملا غازہ کو جس نے منہ پر اس کا منہ جلا سارا — ہوا ورس تو راکھ اور ہوا تھا گوشت انگارا
مکانوں کے در و دیوار خوں سے ہو گئے رنگین — رنگے کپڑے اور ان کی رنگتیں ڈھل کر نہیں بدلیں
یزیدی فوج نے جب سیدوں کے اونٹ کو کاٹا — تو اس کا گوشت مثل اندرائن ہو گیا کڑوا

تمام عالم میں اجل اس شہادت پر ہوا ماتم
سنی جنات سے بھی نوحہ خوانی داستان غم

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔

رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم ذات یوم بنصف النهار اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فیها دم فقلت بابی انت وامی ما هذا قال هذا دم الحسین واصحابه ولم ازل

میں نے ایک روز دوپہر کے وقت خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے گرد آلود ہیں دست مبارک میں خون بھرا شیشہ ہے میں نے عرض کی میرے ماں باپ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

التقطه منذ اليوم فاحصى ذلك الوقت فاجد قتل ذلك الوقت

(بیہقی۔ احمد۔ حاکم۔ مشکوٰۃ ص۵۷۲۔ تہذیب التہذیب ص۳۵۵ ج۲)

آپ پر قربان ہوں یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حسین اور اس کے رفیقوں کا خون ہے میں اسے آج صبح سے اٹھا رہا ہوں ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس تاریخ اور وقت کو یاد رکھا جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت حسین اسی وقت شہید کیے گئے تھے۔

حجۃ الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم کے آخر میں باب مناجات میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک روز نیند سے بیدار ہوئے تو کہا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ خدا کی قسم! حسین قتل کر دیے گئے لوگوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا کیسے؟ ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ کے ہاتھ میں خون سے بھرا ہوا ایک شیشہ ہے اور فرما رہے ہیں اے ابن عباس تمہیں نہیں معلوم کہ میری امت نے میرے بعد کیا برا کام کیا ہے؟ میرے بیٹے حسین کو قتل کر دیا ہے یہ ان کا اور ان کے دوستوں کا خون ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ اس خواب کے چند روز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی۔ (البدایہ والنہایہ ص۲۳۱۔ احیاء العلوم)

حضرت سلمیٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی۔

وهي تبكي فقلت ما يبكيك قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يبكي وعلى راسه ولحيته التراب فقلت مالك يا رسول الله قال شهدت قتل الحسين

تو وہ رو رہی تھیں میں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ کے سر مبارک اور ریش اقدس پر گرد و غبار ہے میں نے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

انفا۔ (المستدرک ص۱۹ج۴، مشکوٰۃ ص۔، تہذیب التہذیب ص۳۵۶ج۲، البدایہ والنہایہ ص۲۰۰ج۸) عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا۔

جب غزوۂ بدر کے کفار اسیروں کے ہاتھ باندھ کر ان کو ایک جگہ بند کر دیا گیا تھا تو اُن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے وہ بوجہ اسیری اور اہل وعیال کی جدائی کے روتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے رونے کی آواز سُنی تو بسبب قرابت کے اس قدر بے چین ہو گئے کہ آپ کو رات بھر نیند نہ آئی، صبح ہوتے ہی فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ مقام غور ہے کہ جب حضرت عباس کے صرف رونے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بے چین کر دیا اور آنکھوں سے خواب راحت چھین لیا تھا تو اپنے جگر پارے حسین کے مصائب سے کیا حالت ہوئی ہوگی۔

نیز جب وحشی قاتل سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لایا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر اور نہ مجھے اپنا منہ دکھایا کر۔ یہ مجھے ناگوار ہے حالانکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا اور حدیث شریف میں ہے کہ اسلام ماقبل کے جملہ گناہوں اور کفر کو مٹا دیتا ہے تو غور کرنا چاہیے کہ جب کہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہ مٹ گئے تھے اور کفر دور ہو گیا تھا اس کو دیکھنا ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہے تو جنہوں نے اولاد اقدس پر مظالم کی انتہا کر دی بھوکا پیاسا ذبح کیا۔ لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے بے گور و کفن پڑا رہنے دیا اور پھر اہل بیت کو لوٹا۔ اور مقدس خواتین کو بے پردہ اونٹوں پر بٹھا کے گلیوں، بازاروں میں پھرایا اُن سے رحمت عالم کے قلب مبارک کو کس قدر رنج وغم ہوا ہوگا اور آپ کس قدر غضب ناک ہوئے ہوں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کا الم ناک سانحہ اور جانکاہ حادثہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کسی نبی کی اولاد کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ پھر اگر زمین وآسمان خون کے آنسو روئیں اور جن وانس تڑپ اٹھیں اور جہان تیرہ وتار ہو جائے تو کون سی تعجب کی بات ہے۔

چناں چہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ

سمعت الجن یبکین علی الحسین و میں نے جنوں کو حضرت حسین پر روتے اور

سمعت الجن تنوح علی الحسین وھی یقلن نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے وہ کہتے تھے ؎

ایھا القاتلون جھلا حسینا ابشروا بالعذاب والتنکیل

اے حسین کے نادان قاتلو تمہارے لیے سخت عبرت ناک عذاب کی بشارت ہے۔

کل اھل السماء یدعوا علیکم ونبی مرسل وقبیل

تمام اہل آسمان (ملائکہ) تم پر بد دعائیں کرتے ہیں اور سب نبی و مرسل وغیرہ بھی۔

قد لعنتم علی لسان داؤد وموسیٰ وصاحب الانجیل

بے شک لعنت کیے گئے ہو تم (حضرت) داؤد و موسیٰ اور صاحب انجیل یعنی عیسیٰ (علیہم السلام)
کی زبانوں پر۔ (صواعق محرقہ ص۱۹۱ البدایہ والنہایہ ص۲۰۰/۸)

نیز انہی سے روایت ہے کہ یا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جنوں کو نوحہ کرتے ہوئے سنا تھا یا حضرت حسین کی شہادت کے موقعہ پر سُنا وہ روتے ہوئے کہتے تھے ؎

الا یا عین فابتھلی بجھد ومن یبکی علی الشھداء بعدی
ہو سکے جتنا تو روے اے چشم کون روئے گا پھر شہیدوں کو
علی رھط تقودھم المنایا الیٰ متجبر فی ملک عھدی
پاس ظالم کے کھینچ کر لائی موت ان بے کسوں غریبوں کو

(ابو نعیم۔ سر الشہادتین ص۳۴)

اعتراض! اشعۃ اللمعات میں ہے کہ حضرت ام سلمہ نے ۵۹ھ میں وفات پائی اور یہی صحیح تر ہے۔ اور واقعہ کربلا ۱۰ محرم ۶۱ھ میں ہوا۔ ثابت ہوا کہ حضرت ام سلمہ کے متعلق روایات کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور جنوں کے نوحے وغیرہ سُنے غلط ہے کیوں کہ اس وقت زندہ ہی نہ تھیں۔

جواب! اشعۃ اللمعات میں یہ بھی تو ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ان کی وفات ۶۲ھ میں ہوئی ہے اور صاحب اشعۃ اللمعات حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دوسری مشہور تصنیف مدارج النبوت میں اسی دوسرے قول کی تائید فرمائی

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ہے چناں چہ فرماتے ہیں۔

ولیکن موید قول ثانی ست کہ روایت کردہ است ترمذی از سلمی امرءۃ انصار گفت در آمدم برام سلمہ دیدم اورا میگرید گفتم چہ چیز در گریہ آورد ترا یا ام سلمہ گفت دیدم الآن رسول خدا را درمنام وبرسر ولحیہ شریف وے خاک ست ومیگرید گفتم چہ شدہ است ترا یا رسول اللہ گفت حاضر شدم قتل حسین راکہ واقع شدا ست وظاہر ایں حدیث آنست کہ وی در قتل امام حسین زندہ بود ونیز گویند کہ چوں خبر قتل حسین بوی رسید لعنت کرد اہل عراق راکہ کشتند اورا (مدارج النبوت ص۴۷۶)

ولیکن دوسرے قول کی تائید ترمذی شریف کی اس حدیث سے ہوتی ہے حضرت سلمی انصاریہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے اُن کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا میں نے ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے سر مبارک و داڑھی شریف پر خاک پڑی ہوئی ہے اور آپ رو رہے ہیں یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا میں حسین کے (مقام) قتل پر گیا تھا جو واقع ہو چکا ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ام سلمہ امام حسین کے قتل کے وقت زندہ تھیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان کو حضرت حسین کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے ان عراقیوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا۔

الحمد للہ! خود حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے نزدیک بھی صحیح یہی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت زندہ تھیں۔

سنہ ۵۹ھ میں وفات ہوئی یہ واقدی کا قول ہے جو صحیح نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ حضرت ام المومنین کی وفات سنہ ۶۳ھ میں ہوئی ہے جیسا کہ صحیح روایات سے ثابت ہے چناں چہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں:۔

قال الواقدی توفیت سنۃ تسع وخمسین وصلی علیہا ابو ھریرۃ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

وقال ابن ابی خیثمۃ توفیت فی ایام یزید بن معاویۃ قلت والاحادیث المتقدمۃ فی مقتل الحسین تدل علی انہا عاشت الی ما بعد مقتلہ۔ واللہ اعلم ورضی اللہ عنہا۔ (البدایۃ والنہایۃ ص۲۱۵/۸)

واقدی نے کہا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے ۵۹ھ میں وفات پائی اور ابوہریرہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ابن ابی خثیمہ کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کی حکومت کے ایام میں ان کی وفات ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ وہ احادیث جو ذکرِ شہادت حسین میں بیان ہوئی ہیں وہ سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد تک زندہ رہیں واللہ اعلم ورضی اللہ عنہا۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

مات فی ایام یزید من الاعلام سوی الذین قتلوا مع الحسین وفی وقعۃ الحرۃ ام سلمہ ام المؤمنین۔ (تاریخ الخلفاء ص۸۹)

یزید کے ایام حکومت میں جن نام وروں نے وفات پائی علاوہ ان کے جو حضرت حسین کے ساتھ شہید ہوئے اور حضرت ام المومنین ام سلمہ نے وفات پائی واقعہ حرّہ میں (آگے ان نام وروں کے نام لکھے ہیں) اور واقعہ حرّہ ۶۳ھ میں ہوا ہے۔

علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں۔

اس اختلاف روایت کی حالت میں سنہ وفات کی تعیین مشکل ہے تاہم یہ یقینی ہے کہ واقعہ حرّہ تک زندہ تھیں۔ مسلم میں ہے کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس لشکر کا حال پوچھا جو زمین میں دھنس جائے گا یہ سوال اس وقت کیا گیا تھا۔ جب یزید نے مسلم بن عقبہ کو لشکر شام کے ساتھ مدینہ کی طرف بھیجا تھا اور واقعہ حرّہ پیش آیا تھا۔ واقعہ حرّہ ۶۳ھ میں پیش آیا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے ان کی وفات کی تمام روائتیں صحیح نہیں۔ (سیرۃ النبی ص۲/۴۰۲)

چناں چہ صحیح مسلم شریف کی وہ روایت یہ ہے حضرت عبیداللہ بن قبطیہ فرماتے ہیں۔

دخل الحارث بن ابی ربیعۃ کہ حارث بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

وعبد الله بن صفوان	اور میں بھی ان کے ساتھ تھا ام المومنین ام
وانا معهما على ام سلمة	سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حارث
ام المؤمنين فسألاها عن	اور صفوان) دونوں نے ام المومنین سے اس
الجيش الذی يخسف به	لشکر کے متعلق پوچھا جو زمین میں دھنس جائے
وكان ذالك فی ايام ابن	گا اور یہ سوال عبداللہ بن زبیر کے ایام (خلافت)
الزبير۔	میں اس وقت کیا گیا جب کہ لوگ یزید سے
(بقدر الضرورة)	منحرف ہو کر ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے
(مسلم شریف ص ۳۸۸/۲)	تھے اور یزید نے ایک لشکر ان کی تباہی کے
	لیے مدینہ منورہ بھیجا تھا)

حضرت حبیب ابن ثابت فرماتے ہیں ۔ میں نے حضرت حسین پر جنوں کو روتے اور کہتے ہوئے سُنا ۔

مسح النبی جبینه — فله بريق فی الخدود

ابواه فی عليا قريش — وجده خير الجدود

اس جبین کو نبی نے چوما تھا — تھی چمک کیا ہی اس کے چہرے پر

اس کے ماں باپ برترین قریش — اس کا نانا جہان سے بہتر

(ابو نعیم ۔ سر الشہادتین ص ۳۴ البدایہ والنہایہ ص ۲۰۰/۸)

خرجوا به وفدا اليه — فهم له شر الوفود

قتلوا ابن بنت نبيهم — سكنوا به نار الخلود

یعنی پہلے تو یہ لوگ اس (امام) کی طرف وفود لے کر گئے تو وہ کتنے بدترین وفود تھے پھر انہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا اور اس کے سبب ان کا ٹھکانا جہنم ہوا

(البدایہ ص ۲۰۰/۸)

حضرت احمد بن محمد المصقلی رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ ، شہید ہوئے تو انہوں نے رات کے وقت ایک ندا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کرنے والے کی ندا کو سُنا جس کی صورت کو انھوں نے نہیں دیکھا اس منادی نے کہا ؂

عقرت ثمود ناقة فاستوصلوا — وجرت سوانحهم بغير الاسعد

قوم ثمود نے (حضرت صالح علیہ السلام کی) اونٹنی کی کونچیں کاٹیں پس ان کی جڑیں کٹ گئیں اور وہ سعادتوں سے محروم ہو گئے

فبنو رسول الله اعظم حرمة — واجل من ام الفصيل المقعد

اور اللہ تعالیٰ نے حرمت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حرمت ناقہ صالح علیہ السلام سے اعظم وبزرگ تر بنایا ہے۔

عجبا لهم لما اتوا لم يمسخوا — والله يملي للطغاة الجحد

پھر تعجب ہے کہ وہ ایسے ظلم کے مرتکب ہوئے اور مسخ نہ ہوئے قاتلین ناقۃ اللہ کی طرح ہاں اللہ مہلت دیتا ہے باغیوں منکروں کو۔ (تہذیب التہذیب ص ۳۰۶/۲)

جب حضرت امام نے شہادت پائی تو ایک کوا آیا اس نے اپنی چونچ آپ کے خون مبارک میں ڈبوئی اور اڑا یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت امام کی بیٹی سیدہ فاطمہ صغریٰ کے گھر کی دیوار پر جا بیٹھا اور کہنے لگا ان الحسين يقتل بكربلا، سیدہ نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا اور روتے ہوئے کہا ؂

نعق الغراب فقلت من — تنعيه ويحك يا غراب

آواز دی کوتے نے تو میں نے کہا اے کوتے تجھ پر افسوس تو کیا خبر دے رہا ہے۔

قال الامام فقلت من — قال الموفق للصواب

اس نے کہا حضرت امام کی میں نے کہا کون امام؟ اس نے کہا وہ جو توفیق دیئے گئے حق و صداقت کی۔

قلت الحسين فقال لی — بمقال محزون اجاب

میں نے کہا حضرت حسین؟ تو اس نے مغموم آواز میں کہا ہاں۔

ان الحسين بكربلاء — بين الاسنة والظراب

بے شک حضرت حسین کربلا میں ریت اور ٹیلوں کے درمیان پڑے ہیں۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ابکی الحسین بعبرۃ ترضی الالٰہ مع الثواب

میں حسین پر روتا ہوں ایسے غم کے ساتھ جو اللہ کو راضی رکھے مع حصول ثواب کے

ثم استقل بہ الجناح فلم یطق ردّ الجواب

پھر اس کے بازو ایسے جم گئے کہ اس کو جواب دینے کی طاقت نہ رہی۔

فبکیت مما حلّ بی بعد الرضی المستجاب

پھر روئی ہیں ان مصیبتوں کی وجہ سے جو پسندیدہ اور مقبول حضرت کے بعد مجھ پر نازل ہوئیں۔ (درر الاصداف۔ نور الابصار ص۲۰۶)

اللہ اللہ! انقلاب زمانہ کا کیسا عجیب اور کتنا عبرت ناک منظر ہے! ایک وقت وہ تھا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں جان نثاروں کے ساتھ فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت دشمنانِ دین کی ساری قوتیں پاش پاش ہو چکی تھیں۔ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عفو و کرم کے علاوہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ باقی نہ رہی تھی اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ابوسفیان کو جن کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی سخت دشمنی اور عداوت میں گزری تھی۔ جب انتہائی بے بس و لاچار حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کیا گیا تو رحمۃ للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجرم سے جس کے جرائم کی فہرست بہت طویل تھی جو رحمت و کرم اور شفقت و عنایت کا سلوک کیا تھا وہ تاریخ کے صفحات پر زریں نقش ہے۔ کوئی سزا تجویز نہیں فرمائی بلکہ فرمایا من دخل دار ابی سفیان فھو آمن جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے۔ اس کی جان و مال محفوظ ہے۔ سبحان اللہ! نہ صرف ابوسفیان کی جان بخشی فرمائی بلکہ اس کے گھر کو جس میں ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنتے رہے تھے دار الامن بنا کر اپنی شان رحمت کا مظاہرہ فرمایا تھا اب اسی ابوسفیان کی ذریت نے اسی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ وہ ظالمانہ سلوک کیا تھا جس پر زمین و آسمان اور جن و انس خون کے آنسو روئے چناں چہ

حضرت شیخ نصر اللہ بن یحییٰ جو ثقات معتبرین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا اے امیر المومنین آپ نے تو فتح مکہ کے روز

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

فرمایا تھا کہ جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہے اب سفیانوں نے آپ کے بیٹے حسین کے ساتھ کربلا میں ایسا برا سلوک کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا ہوگا آپ نے فرمایا کیا تو ابن صیفی کے وہ اشعار جانتا ہے جو اس نے اس معاملے میں کہے ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں! فرمایا اس کے پاس جا کر اس سے وہ اشعار سُن؟ میں بڑی حیرانی کے ساتھ بیدار ہوا اور پھر اس کے دروازہ پر پہنچ کر آواز دی وہ باہر نکلا اور میں نے اس کو اپنا خواب سنایا تو وہ سُن کر اتنا رویا کہ اس کی ہچکی بندھ گئی اور کہنے لگا خدا کی قسم یہ اشعار میں نے آج رات ہی کہے ہیں اور ابھی تک ان کو مجھ سے کسی نے نہیں سنا وہ اشعار یہ ہیں ؎

ملکنا فکان العفو منا سجیۃً　　　فلما ملکتم سال بالدم ابطح

جب ہم مالک اور با اختیار تھے تو معاف کر دینا ہی ہمارا طریقہ و شیوہ رہا اور جب تم مالک و با اختیار ہوئے تو تم نے خون کی ندیاں بہا دیں۔

وحللتم قتل الاساری وطالما　　　غدونا علی الاسری فنعفو ونصفح

تم نے قیدیوں کا قتل حلال جانا اور اکثر ہم جو گزرے قیدیوں پر تو ہم معاف کرتے اور رگزر کرتے رہے۔

وحسبکم ھٰذا التفاوت بیننا　　　وکل اناء بالذی فیہ ینضح

ہمارے اور تمہارے درمیان یہ تفاوت کافی ہے اور بے شک ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے (نور الابصار ص ۱۴۶)

حضرت عامر بن سعد بجلی فرماتے ہیں کہ میں نے امام کی شہادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اے عامر حضرت براء بن عازب (صحابی) کے پاس جا اور ان کو میرا سلام کہہ اور خبر دے کہ جن لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے وہ دوزخی ہیں۔ پس میں نے براء بن عازب کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب سنایا تو انہوں نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔

علامہ حافظ ابن حجر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

قاتل الحسین فی تابوت من نار علیہ نصف العذاب اھل النار۔ (نور الابصار ص۱۵۲ اسعاف الراغبین ص۲۱۱)

حسین کا قاتل آگ کے تابوت میں ہے اس پر آدھے جہنمیوں کے برابر عذاب ہے۔

علامہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی حضرت صالح شحام سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حلب میں خواب دیکھا کہ ایک کالا کتا پیاس کے مارے زبان نکالتا ہے میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پانی پلاؤں تو ہاتف غیبی نے آواز دی خبردار اس کو پانی نہ پلا یہ حسین کا قاتل ہے۔ اس کی یہی سزا ہے کہ یہ قیامت تک یوں ہی پیاسا رہے۔ (تسوید القوس فی تلخیص مسند الفردوس)

شام کربلا

ابن سعد نے اپنے مُردوں کی نماز جنازہ پڑھی اور اُن کو دفن کیا لیکن حضرت امام اور آپ کے رفقاء جن کی تعداد بہتّر[۷۲] تھی اور ان میں بیس[۲۰] خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے ان سب شہیدوں کو بے گور و کفن پڑا رہنے دیا اور ان کے سروں کو ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ تیرہ[۱۳] سر بنو کندہ کے پاس تھے اور ان کا سردار قیس ابن اشعث تھا۔ بیس[۲۰] سر بنو ہوازن کے پاس تھے اور ان کے ساتھ شمر ذی الجوشن تھا۔ سترہ[۱۷] سر بنو تمیم اور سولہ[۱۶] سر بنو اسد اور سات[۷] بنو مذحج کے پاس تھے۔ (ابن اثیر)

کربلا کے میدان میں شام ہو گئی تھی۔ ظلم و جفا کا لشکر منتشر ٹولیوں کی صورت میں اِدھر اُدھر اپنے طعام وغیرہ میں مشغول تھا۔ وہ بدبخت ایک دوسرے کو داد شجاعت دے رہے تھے اپنے ظلم پر خوش ہو رہے تھے اور اِدھر اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد جو چند عورتوں شیر خوار بچوں اور ایک بیمار حضرت علی اوسط زین العابدین پر مشتمل تھے۔ رضائے الٰہی پر صابر و شاکر گریہ زاری کر رہے تھے ؎

راہ تسلیم و رضا میں اہل بیت مصطفیٰ
صبر کا کرتے تھے باہم امتحان بیٹھے ہوئے

ذرا فطرت کے تقاضوں کے پیش نظر اندازہ کیجئے کہ ان سوگ واروں کی کیا حالت

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ہو گی جن کی آنکھوں کے سامنے بھرے ہوئے خیمے خالی ہو گئے۔ ان کے عزیز قتل کیے گئے۔ خیمے جلائے گئے۔ ساز و سامان لوٹ لیا گیا۔ مقدس لاشیں بے گور و کفن پڑی تھیں اور خود دشمن کی قید میں تھے۔ یہ کیسے عزّ و شان اور فضل اور مرتبے والے لوگ ہیں۔ ان کے گھرانے کی عظمت کا یہ حال ہے کہ جبریل امین بھی اُن کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کا طالب ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت و خوشی خدا اور رسول کی محبت و خوشی اور ان کی اذیت و ناراضی خدا اور رسول کی اذیت و ناراضی کا موجب ہے۔ یہی وہ گھرانہ ہے جس سے اُمت کو دین، ایمان اور قرآن ملا ہے۔ جن پر سلام کہنا ہر نماز میں ضروری ہے۔ ہر خطیب جمعہ کے خطبے میں ان کے نام لیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا واسطہ و وسیلہ اجابت دعا کے لیے ضمانت ہے یہ چمن رسالت کے لہلہاتے ہوئے پھول اور کلیاں ہیں ان کی پاکیزگی اور عظمت کا ذکر قرآن میں خود خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ آج کربلا کے میدان میں ان پر غم کی شام کا بسیرا ہے۔ یہ شام کیسی اندوہ ناک شام ہے آل رسول کے خون سے رنگین۔ یہ ایسے دن کی شام ہے جو شاید کبھی اس طرح طلوع نہ ہو گا۔ یہ شام اسلام ہی کی نہیں انسانیت کی تاریخ میں بھی رہتی دنیا تک وہ شام کہلائے گی جو ظلم و جفا اور صبر و رضا کی دونوں مثالوں کی یاد دلاتی رہے گی یزیدیت کی تاریکی میں حسینیت کا اجالا کرنے والی یہ شام صفحۂ دہر پر کبھی نہ مٹنے والا وہ نقش اور ایسی ساعت ہے جو صدیوں تک دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کے لیے حق و باطل اور اندھیرے اور اجالے میں فرق کرتی رہے گی۔ یہ شام ایک طرف انسان نما درندوں کی خباثت و ذلت اور شیطنیت کی پہچان کرواتی ہے، جور و جفا اور ظلم و ستم کی بدترین سیاہیوں سے اشرف المخلوقات انسان کو شرمندہ کرتی ہے اور دوسری طرف یہ شام خانوادہ رسول کی مظلومیت کے ساتھ ساتھ ان کی عظمت و مرتبت، ان کے عفو و عطا، جود و سخا، ایثار و وفا، صبر و رضا اور عزم و استقلال اور استقامت جیسے معطر، مطہر اور منور محاسن سے انسانیت کو ہمیشہ سربلند کرتی رہے گی کیوں کہ نامِ حسین عظمتوں، رفعتوں، رحمتوں اور برکتوں کا امین ہے اور کربلا کی دھندلاتی شام میں یہی نام حسین جگ مگا رہا ہے اور قیامت تک جگ مگاتا رہے گا۔ شام کربلا آلِ رسول کی حقانیت، ایمان، اسلام، حق و صداقت، جرأت و شجاعت، عزت و مرتبت

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

عزیمت واستقامت، امن وحریت اور سیادت وسعادت کا باقی رہنے والا عنوان ہے۔
رات ہوگئی یہ رات ان غم زدہ مظلوم پس ماندگان امام کے لیے قیامت کی رات تھی۔
رات کا دوسرا پہر شروع ہوا، یزید کے لشکری اونگھنے لگے۔ اسیران کربلا کی قافلہ سالار سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنے عزیزوں کی مقدس لاشوں کے پاس آئیں اور انتہائی دردمندانہ انداز میں اپنے جذبات اور اپنی بے بسی کا اظہار کیا جب اپنے ماں جائے پیارے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کٹی پھٹی اور کچلی ہوئی مقدس لاش کے پاس آئیں تو خود پر قابو نہ رکھ سکیں۔ اپنے بھائی کے سینے پر منہ رکھ کے اس درد سے روئیں کہ سب کی ہچکیاں بندھ گئیں، سیدہ فرما رہی تھیں ؎

سر میرے کوئی دوس نہ دیویں بہن تیری مجبور اے
کھوں لیا واں کفن میں تیرا ایتھوں شہر مدینہ دور اے

تم سا کوئی غریب نہیں خستہ تن نہیں　　شہادت کے بعد گور نہیں اور کفن نہیں
ہائے ہائے پرائی بستی ہے اپنا وطن نہیں　　واقف یہاں کسی سے یہ بے کس بہن نہیں
لاکر کفن پہناتی میں مظلوم بھائی کو　　ہوتا اگر وطن تو میں دفناتی بھائی کو

ان درندوں نے خانوادۂ نبوت کے آخری چشم وچراغ حضرت امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ عنہ کو بھی جو بیمار تھے قتل کرنا چاہا لیکن ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈال دیا اس نے ان درندوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ کم سن بچہ ہے اور بیمار ہے۔ اس کو قتل نہ کرو۔ ابھی حمید سپاہیوں کو یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ابن سعد بھی آگیا اس نے کہا خبردار کوئی شخص ان لوگوں کے خیموں میں نہ جائے اور نہ ہی کوئی اس بیمار لڑکے سے مزاحم ہو اور جس کسی نے ان کے مال واسباب وغیرہ میں سے جو کچھ لوٹا ہے واپس کردے اس کے کہنے پر سپاہیوں نے بیمار عابد سے تو ہاتھ روک لیا لیکن لوٹا ہوا مال کسی نے واپس نہ کیا۔ (طبری ص ۲۶/۶ ابن اثیر ص ۳۲/۴)

یزیدی تو سو گئے کچھ پہرے دار جاگتے رہے مگر اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کی آنکھوں میں نیند نہیں، صدمے اور غم کے آنسو تھے۔ یہ کیسے صبر والے لوگ تھے ان کی زبانوں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

پر حرف شکایت نہیں ان کی جبنیں شکن آلود نہیں۔ انہوں نے واویلا نہیں کیا۔ گریبان نہیں پھاڑے۔ قضاء الٰہی پر صبر کیا کیوں کہ یہی اُن کے نانا جان کی تعلیم تھی اور یہی امام پاک کی وصیت تھی۔ یزیدی سمجھ رہے تھے کہ قتل حسین سے وہ کامیاب ہو گئے ہیں لیکن امام پاک نے میدانِ کربلا میں فتح و شکست کے عنوان ہی بدل دیے تھے اور تاریخ کے صفحات پر یہ نقش کر دیا تھا کہ حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے سب کچھ قربان کر دینا اور اپنی جان دے دینا شکست نہیں بلکہ عظیم الشان فتح و کامیابی ہے۔ انہوں نے ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دی اور عزیمت و استقامت کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک ایک بامقصد اور زندہ یادگار اور آنے والی نسلوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ انہوں نے اپنے مقدس خون سے گلشن اسلام کی آبیاری کی اسلام کی حق و صداقت کی گواہی دی اور دین کو اس کی اصل پر باقی رکھا ہر امتحان میں پورے اترے۔ خود تو نہ رہے مگر اپنی وہ یادیں چھوڑ گئے جو تابندہ و پائندہ رہیں گی۔

اُولٰٓئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ۔

آں امامِ عاشقاں پورِ بتول — سروِ آزادے ز بستانِ رسول
اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر — معنئ ذبحِ عظیم آمد پسر
بہرِ آں شہزادۂ خیر الملل — دوشِ ختم المرسلیں نعم الجمل
بر زمینِ کربلا بارید و رفت — لالہ در ویرانہ ہا کارید و رفت
تا قیامت قطع استبداد کرد — موجِ خونِ او چمن ایجاد کرد
بہرِ حق در خاک و خوں غلطیدہ است — پس بنائے لا الہ گردیدہ است
سرِ ابراہیم و اسمٰعیل بود — یعنی آں اجمال را تفصیل بود
عزمِ او چوں کوہ ساراں استوار — پائدار و تند سیر و کامگار
تیغ بہرِ عزتِ دین است و بس — مقصدِ او حفظِ آئین است و بس
ما سوا اللہ را مسلماں بندہ نیست — پیشِ فرعونے سرش افگندہ نیست
خونِ او تفسیرِ ایں اسرار کرد — ملتِ خوابیدہ را بیدار کرد
تیغِ لا چوں از میاں بیروں کشید — از رگِ اربابِ باطل خوں کشید

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

نقش الا اللہ بر صحرا نوشت　　　سطرِ عنوانِ نجاتِ ما نوشت

اے صبا اے پیکِ دُور افتادگاں
اشکِ ما بر خاکِ پاکِ او رساں

(اسرار و رموز۔ اقبالؔ)

کوفہ روانگی

صبح کے وقت اہل بیت نبوّت کے یہ ستم رسیدہ افراد بہ حالت اسیری جب لشکر یزید کے ساتھ کوفہ کی جانب چلے تو امام پاک کی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کے سامنے بے گور و کفن ان کے پیاروں کی مقدس لاشیں تھیں وہ سب ایک ایک لاش کے قریب جا کر الوداع کہہ رہی تھیں۔ان کے رونے میں اتنا درد تھا کہ کلیجے پھٹے جاتے تھے، حشر برپا ہو گیا تھا سیّدہ زینب نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ روتے ہوئے کہا۔

یا محمّداہ، یا محمّداہ، صلی علیك الله، وملك السماء، هذا حسين بالعراء، مذمل بالدماء، مقطع الاعضا یا محمّداہ، وبناتك سبایا و ذریتك مقتله، تسفی علیها الصبا، قال فابکت والله کل عدو وصدیق

(البدایہ والنہایہ ص ۱۹۳/۸ طبری ص ۲۶۲/۶)

یا محمداہ، یا محمداہ! آپ پر اللہ اور ملائکہ آسمانی کا درود و سلام ہو۔دیکھیے یہ حسین چٹیل میدان میں اعضا بریدہ خاک و خون میں آلودہ پڑے ہیں یا محمداہ! آپ کی لڑکیاں قید میں ہیں آپ کی اولاد مقتول پڑی ہوئی ہے۔ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے یہ دل دوز فریاد سُن کر دوست دشمن سب رو دیے ؎

اے محمد گر قیامت سر بروں آری زخاک　　　سر بروں آرد قیامت درمیان خلق بین

شہدا کی تدفین

جب لشکر یزید کربلا سے کچھ دُور چلا گیا تو شہادت کے دوسرے اور بقول بعض تیسرے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

روز قبیلۂ بنو اسد جو قریۂ غاضریہ کہ کنارۂ فرات پر واقع تھا کے لوگ آئے اور انہوں نے امام عالی مقام کے تن بے سر کو ایک جگہ اور باقی شہداء کو جن کی تعداد بہتر تھی ایک جگہ دفن کیا۔ (ابن اثیر صہ ۳۴/۴ طبری صہ ۲۶۱/۲)

سرانور پر نور اور سفید پرندے

اہل بیت نبوّت کے لُٹے ہوئے قافلہ کے بقیہ افراد ۱۱ محرم کو کوفہ پہنچے جب کہ شہداء کے سر اُن سے پہلے پہنچ چکے تھے امام عالی مقام کا سرانور خولی بن یزید کے پاس تھا یہ رات کے وقت کوفہ پہنچا۔ قصر امارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر کو لے کر اپنے گھر آگیا۔ ظالم نے سرانور کو فرش پر ایک بڑے برتن کے نیچے ڈھانک کر رکھ دیا اور اپنی بیوی "نوار" کے پاس جا کر کہا میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں وہ دیکھ حسین بن علی کا سر تیرے گھر میں پڑا ہے۔ اس نے کہا تجھ پر خدا کی مار لوگ تو سونا چاندی لائیں اور تو فرزند رسول کا سر لایا ہے۔ خدا کی قسم! اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی نوار کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جہاں سرانور رکھا تھا وہاں آکر بیٹھ گئی۔

قالت فوالله ما زلت انظر الی نور یسطع مثل العمود من السمآء الی الاجانة ورایت طیرا بیضاء ترفرف حولها فلمّا اصبح غدا بالراس الی عبید الله ابن زیاد ۔(طبری صہ ۲۶۱/۴ ابن اثیر صہ ۳۳/۴ ، البدایہ والنہایہ صہ ۱۹۰/۸)

وہ کہتی ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ سفید سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو وہ سر کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔

سرانور اور ابن زیاد

الغرض ابن زیاد بدنہاد کا دربار لگا اور لوگوں کے لیے اذن عام ہوا۔ بھرے دربار میں اس کے سامنے امام عالی مقام کا سرانور ایک طشت میں رکھ کر پیش کیا گیا اس ظالم

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے وہ آہستہ آہستہ آپ کے لبوں اور دانتوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے ایسا حسین وجمیل نہیں دیکھا۔ اس مردود کی گستاخی اور بے ادبی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے صحابی زید بن ارقم جو اس وقت وہاں موجود تھے تڑپ اُٹھے اور درد و کرب کے ساتھ روتے ہوئے فرمایا او ابن مرجانہ یہ لکڑی امام پاک کے لب ہائے مبارک اور دندان شریف سے ہٹا اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا خدا تجھے بہت رلائے اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل زائل نہ ہوگئی ہوتی تو میں ضرور تیری گردن سے تیرا سر جدا کر دیتا[1] حضرت زید نے فرمایا۔ میں اس سے بھی زیادہ تجھے غصہ دلانے والی بات سناتا ہوں، سُن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے دائیں زانو پر حسن اور بائیں زانو پر حسین تھے آپ ان دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ میں ان دونوں کو تیرے مومنین صالحین کے پاس بطور امانت سپرد کرتا ہوں۔ تو اے بدنہاد تو نے امانتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیسا سلوک کیا ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے کوفیو خدا تم سے کبھی خوش نہ ہو تم نے فرزند رسول اللہ کو قتل کیا اور ابنِ مرجانہ کو اپنے اوپر مسلّط کیا اب یہ تمہارے اچھوں کو مارے گا اور تمہارے بروں کو چھوڑے گا یہ کہہ کر حضرت زید روتے ہوئے باہر نکل گئے[2]۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین کا سر انور ایک طشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو اس وقت میں اس کے پاس تھا تو اس نے آپ کے حسن وجمال میں کچھ کلام کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کو وہ آپ کی ناک پر مارتا تھا فقال انس کان اشبہھم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان مخضوبا بالوسمۃ۔ تو حضرت انس نے فرمایا کہ حسین بہت زیادہ مشابہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

---

[1] (طبری صفحہ ۲۶۲/۶ ابن اثیر صفحہ ۳۳/۴ البدایہ صفحہ ۱۹۰/۸) [2] (ابن ابی الدنیا، صواعق محرقہ صفحہ ۱۹۶)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اور آپ نے وسمہ کا خضاب کیا ہوا تھا۔ (ترمذی باب مناقب الحسنین۔ بخاری شریف ص۵۳۰)
روایت ہے کہ جس وقت امام عالی مقام کا سر انور ابن زیاد بدنہاد کے سامنے رکھا گیا تو قاتل نے بڑے فخر کے ساتھ کہا ؎

اوفر رکابی فضۃ وذھبا　　فقد قتلت الملک المحجبا

قتلت خیر الناس أما وأبا　　وخیرھم اذ ینسبون نسبا

میرے اونٹوں کو سونے اور چاندی سے بھر دو۔ کیوں کہ میں نے ایک نامور بلند مرتبہ سردار کو قتل کیا ہے۔ میں نے اس کو قتل کیا ہے جو بہ لحاظ مادر و پدر اور حسب و نسب سب لوگوں سے بہتر تھا۔

ابن زیاد یہ سن کر غضب ناک ہوا اور کہنے لگا اگر تیرے نزدیک وہ ایسے ہی فضائل والے تھے تو پھر تو نے اُن کو قتل کیوں کیا؟ واللہ لانلت منی خیرا و لالحقنک بہ ثم ضرب عنقہ خدا کی قسم تیرے لیے اس کا بہتر صلہ میری طرف سے یہی ہے کہ تجھے بھی انہی کے پاس پہنچا دوں۔ پھر اس کی گردن مار دی۔
(الصواعق المحرقہ ص۱۹۵ (سعادت الکونین ص۱۱۷ نور الابصار ص۱۴۴)

ابن زیاد اور اسیرانِ کربلا

پھر اہل بیت کے بقیہ افراد ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے کنیزوں کا سا پرانا اور میلا سا لباس پہن کر اپنی ہیئت بدل دی تھی آپ کے ارد گرد چند عورتیں تھیں۔ ابن زیاد بدنہاد نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اس نے دوسری تیسری بار پوچھا پھر بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو ایک عورت نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ ہیں۔ یہ سن کر مردود نے کہا۔

الحمد للہ الذی فضحکم وقتلکم واکذب احدوثتکم۔　　خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہاری جدتوں کو جھٹلایا (معاذ اللہ)

شیر خدا کی بیٹی نے فرمایا:۔

الحمد للہ الذی اکرمنا بمحمد (صلی اللہ علیہ وسلم) وطھرنا تطھیرا لا کما تقول وانما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر۔	خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں بوجہ (اولاد محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے) مکرم و معظم بنایا اور ہمیں پاک کیا جیسا کہ حق ہے پاک کرنے کا نہ کہ جیسا تو کہتا ہے بلاشبہ فاسق و فاجر ہی رسوا ہوں گے اور جھٹلائے جائیں گے۔

ظالم کہنے لگا تم نے دیکھا خدا نے تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ سیدہ نے فرمایا ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی اس لیے وہ مقتل میں آئے اور عنقریب وہ اور تم اللہ تعالیٰ کے حضور جمع ہو گے اس وقت وہ اس کے سامنے اس کا انصاف طلب کریں گے۔ یہ دندان شکن جواب سن کر ابن زیاد غضب ناک ہو کر کہنے لگا خدا نے تمہارے اہل بیت کے سرکش اور نافرمان آدمی سے میرے غصہ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ظالم کے ان الفاظ نے سیدہ کو تڑپا دیا وہ انتہائی درد کے ساتھ روئیں اور فرمایا میری عمر کی قسم! تو نے میرے ادھیڑوں کو قتل کیا۔ میرے خاندان کو تباہ کیا۔ میری شاخوں کو کاٹا اور میری جڑ کو اکھاڑا۔ اگر اسی سے تیری تسکین اور تیرا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو بے شک ہو گیا۔ ظالم کہنے لگا یہ جرأت اور یہ شجاعت میری عمر کی قسم! تمہارے باپ بھی تو شاعر اور بڑے شجاع تھے۔ سیدہ نے فرمایا عورت کو شجاعت سے واسطہ۔ (طبری ص ۲۶۲/۶ ابن اثیر ص ۳۳/۴ البدایہ ص ۱۹۳/۸)

اسی اثنا میں اس ظالم کی نظر حضرت امام زین العابدین پر پڑی تو کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علی بن حسین! نام سن کر بولا کیا خدا نے علی بن حسین کو قتل نہیں کیا؟ آپ خاموش رہے! کہنے لگا بولتے کیوں نہیں؟ فرمایا میرے دوسرے بھائی کا نام بھی علی تھا لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔ بولا نہیں بلکہ اسے خدا نے قتل کیا۔ آپ پھر خاموش رہے۔ بولا چپ کیوں ہو گئے جواب دو آپ نے جواب میں یہ آیتیں پڑھیں۔ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ۔

اللہ ہی جانوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت اور کوئی نفس نہیں مرتا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

مگر اللہ کے حکم سے)

یہ سن کر ابن زیاد بولا تم بھی انہی میں سے ہو پھر آپ کے بلوغ کی تصدیق کروا کر آپ کے قتل کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا ان عورتوں کو کس کے سپرد کرو گے؟ ظالم کے اس انتہائی سفاکانہ حکم کو سُن کر سیدہ زینب تڑپ گئیں اور زین العابدین کو اپنی آغوش میں لے کر ان سے چمٹ گئیں اور نہایت درد انگیز انداز میں فرمایا کیا ابھی تک تم ہمارے خون سے سیراب نہیں ہوئے۔ تم نے کس کو باقی چھوڑا ہے۔ کیا یہ ایک آسرا بھی باقی نہ رکھو گے خدا کے لیے جو مصیبتیں ہم پر گزر چکی ہیں ان پر بس کرو۔ جان نثار پھوپھی نے عابد حزیں کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا ابن زیاد میں تجھے خدا کا واسطہ دے کر ایک سوال کرتی ہوں کہ اگر ان کو قتل کرو تو اُن کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دو۔ لیکن زین العابدین پر مطلقاً کوئی خوف و ہراس طاری نہ ہوا انہوں نے نہایت اطمینان اور وقار کے ساتھ فرمایا اگر تم لوگ مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو قرابت داری کا لحاظ اور پاس کرتے ہوئے کسی متقی اور شریف آدمی کو ان عورتوں کے ساتھ کر دو جو ان کو عزت و شرافت کے ساتھ وطن پہنچا دے۔ زین العابدین کی یہ بات سُن کر ابن زیاد دیر تک دونوں پھوپھی بھتیجے کا منہ تکتا رہا۔ آخر اس شقی کا دل پسیج گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو ان عورتوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھوڑ دو۔

(ابن اثیر ص ۳۴/۴ البدایہ ص ۱۹۳/۸ طبری ص ۲۶۳/۶)

مسجد کوفہ میں اعلان فتح اور ابن عفیف کی شہادت

اس کے بعد اعلان ہوا کہ لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو ابن زیاد نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا خدا کا شکر ہے جس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی مدد کی اور ان کو فتح و نصرت سے نوازا اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی اور ان کے رفقاء کو شکست دی اور قتل کیا (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) جب ظالم نے حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو کذاب کہا تو حضرت عبد اللہ بن عفیف ازدی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوستوں میں سے ایک بزرگ تھے اور دونوں آنکھوں سے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

معذور تھے اور سارا دن مسجد میں ذکر و اذکار اور نماز پڑھنے میں گزارتے تھے وہ بہت بے تاب ہو کر اٹھے اور بھرے مجمع میں کہا او ابن مرجانہ تو بھی کذاب ہے تیرا باپ بھی کذاب تھا۔ تم لوگ اولادِ رسول کو قتل کرتے ہو اور باتیں ایسی کرتے ہو جیسے صدیقین ہوتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اس کو پکڑ لو۔ سپاہیوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت تو ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو چھڑا لیا بعد میں ابن زیاد نے ان کو بلوایا اور حکم دیا کہ ان کو قتل کر کے ان کی لاش کو لٹکا دیا جائے۔ چناں چہ ایسا ہی کیا گیا۔

(طبری ص $\frac{263}{6}$ ابن اثیر ص $\frac{34}{4}$ البدایہ ص $\frac{191}{8}$)

پھر ابن زیاد بدنہاد نے حکم دیا کہ اسیران اہل بیت کو قید خانے میں رکھا جائے اور حسین کے سر کو نیزے پر بلند کر کے کوفہ کے گلی کوچوں میں پھرایا جائے چناں چہ امام پاک کے سرِ انور کو پھرایا گیا۔

شیعہ مذہب کی معتبر کتاب جلاء العیون اور مقتل ابن نما میں مذکور ہے جب اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کوفہ پہنچے تو اُن کی حالت زار اور عالم بے کسی کو دیکھ کر اہل کوفہ زور زور سے رونے اور ماتم کرنے لگے۔ ان کے رونے اور ماتم کرنے کو دیکھ کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اور سیدہ زینب اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما نے اُن کے سامنے خطبات ارشاد فرمائے جن کا خلاصہ یہ ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے حمد و صلوٰۃ کے بعد فرمایا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب ہوں، میں ان کا فرزند ہوں جو کنارہ فرات پر بھوکے پیاسے شہید کیے گئے ہیں۔ حالاں کہ ان کے ذمے نہ کسی کا خون تھا نہ انہوں نے کسی کا مال لیا تھا میں اُن کا فرزند ہوں جن کی ہتک عزت کی گئی۔ مال و اسباب بھی لوٹ لیا گیا ان کے عیال قیدی بنائے گئے۔ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں بتاؤ! کیا تم نے میرے والد ماجد کو خطوط لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ اور کیا تم نے ان سے عہد و پیمان نہیں کیے تھے؟ ضرور کیے تھے پھر تم نے ان کو چھوڑ دیا صرف یہی نہیں بلکہ ان سے جنگ کی اور دشمن کو اُن پر مسلط کیا۔ پس تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو تم نے جہنم کی راہ اختیار کی اور اپنے لیے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

بہت برا راستہ لیا۔ پسند کیا۔ بولو! تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح آنکھ ملاؤ گے اور کیا جواب دو گے جب وہ تم سے فرمائیں گے کہ تم نے میری عترت کو قتل کیا اور میری حرمت کی ہتک کی پس تم میری امت میں نہیں ہو۔

اس وقت ہر طرف سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور کوفیوں نے کہا اب ہم ہر طرح آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ آپ نے فرمایا اے گروہِ غدار و مکار! تم یہ چاہتے ہو کہ تم مجھ سے بھی ویسا ہی سلوک کرو جیسا کہ تم نے میرے باپ کے ساتھ کیا ہے؟ میں تمہارے قول و اقرار اور دروغ بے فروغ پر کسی طرح بھی اعتماد نہیں کروں گا۔ حاشا و کلا خدا کی قسم! ابھی وہ زخم نہیں بھرے جو کل ہی ہمارے پدر بزرگوار، ان کے اہل بیت اور ان کے رفقاء کے قتل ہونے سے لگے ہیں اور یہ سب کچھ تمہاری غداری و بے وفائی کی وجہ سے ہوا۔ واللہ میرا جگر کباب ہے پھر آپ نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے۔

تعجب نہیں ہے اگر حضرت حسین قتل کیے گئے اس لیے کہ ان کے بزرگ بھی جو ان سے افضل تھے قتل ہوئے تھے۔ اے کوفہ والو خوش نہ ہو باعث ان ظلموں کے جو حضرت حسین پر کیے گئے یہ امر خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ جو بزرگوار نہر فرات پر قتل ہوئے ہیں ان پر میری روح قربان ہو۔ جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے ان کی سزا جہنم ہے۔

حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے حمد و صلوٰۃ کے بعد فرمایا اے بے وفا اور دغا باز کوفیو! کیا اب تم روتے اور ماتم کرتے ہو خدا تمہیں ہمیشہ رلاتے اور تمہارا رونا اور ماتم کرنا کبھی موقوف نہ ہو۔ تم بہت زیادہ روؤ اور تھوڑا ہنسو۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو کاتتے ہوئے تاگے کو مضبوط ہو جانے کے بعد جھٹکے دے کر توڑ ڈالے۔ تم نے اپنے ایمان کو دھوکے اور فریب کا ذریعہ بنایا ہوا ہے تمہاری مثال اس سبزے کی سی ہے جو نجاست کی ڈھیری پر لگا ہو۔ تم میں بجز خودستائی، شیخی، عیب جوئی، تہمت سرائی اور لونڈیوں کی طرح خوشامد اور چاپلوسی کے کچھ نہیں۔ بلاشبہ تم بہت برے کام کے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

مرتکب ہوئے ہو تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت حاصل کی اور عیب کمایا اور جہنم کے سزاوار ہوئے۔ تمہارے ماتھے پر بے وفائی اور غداری کا داغ جو لگ چکا ہے وہ کسی پانی سے زائل ہونے والا نہیں۔ اے کوفیو! کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کس جگر رسول کو پارہ پارہ کیا اور کس کا خون بہایا ہے تم نے خلاصۂ خاندان نبوت اور سردار جوانان اہل جنت اور مینار دین و شریعت کو قتل کیا ہے۔ تم نے مخدرات عصمت و طہارت دختران خاتون جنت کو بے پردہ کیا ہے۔ اے اہل کوفہ تم نے اپنے لیے آخرت میں بہت برا توشہ بھیجا ہے۔ خدا تعالیٰ تم پر اپنا غضب نازل کرے اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرے۔

حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے حمد و صلوۃ کے بعد فرمایا۔ اے کوفہ والو تمہارا برا حال ہو اور تمہارے منہ سیاہ ہوں تم نے میرے پیارے بھائی کو بلایا پھر ان کو چھوڑ دیا اور ان کی مدد نہ کی۔ تمہاری بے وفائی اور غداری کی وجہ سے وہ قتل ہوئے۔ ان کا مال و اسباب لوٹا گیا اور ان کے اہل بیت قیدی بنے۔ اب تم ان پر روتے ہو خدا تم کو ہمیشہ رلائے کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا ظلم کیا ہے اور کن گناہوں کا انبار اپنی پشت پر لگایا ہے۔ پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے۔

قتلتم اخی صبرا فویل لامکم ستجزون نارا حرها یتوقد

تم نے میرے بھائی کو عالم غربت میں چاروں طرف سے گھیر کر بھوکا پیاسا قتل کیا تمہاری مائیں روئیں۔ عنقریب تم اس کی سزا میں آگ میں جلو گے جو شعلہ ور ہوگی۔

سفکتم دماء حرم الله سفکها وحرمها القرآن ثم محمد

تم نے وہ خون بہایا ہے جس کا بہانا اللہ تعالیٰ نے اور قرآن نے پھر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حرام کیا ہے۔

الا فابشروا بالنار انکم غدا لفی سقر حقا یقینا تخلدوا

آگاہ رہو تم کو بشارت ہے آتش جہنم کی کل قیامت کے دن یقیناً تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہو گے۔

وانی لابکی فی حیاتی علی اخی ۔ علی خیر من بعد النبی سیولد

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اور بے شک میں تمام عمر اپنے بھائی پر غم سے روؤں گی وہ بھائی جو نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد بہتر تھے ان سے جو پیدا ہوں گے ۔

یدمع غزیر مستہل مکفکف　　　علی الخد منی ذائبا لیس یجمد

اور یہ آنسو کبھی بند نہ ہوں گے بلکہ برابر رخساروں پر بہتے رہیں گے اور کبھی خشک نہ ہوں گے ۔ (مقتل ابن نما ص۸۳ جلاء العیون ص ۲۲۳/۲)

اس کے بعد ابن زیاد بدنہاد نے اشقیا کی ایک جماعت کے ساتھ جس میں شمر ذی الجوشن خولی بن یزید ۔ زجر بن قیس وغیرہ بھی ۔ تھے ۔ شہدا کے سروں اور اسیران اہل بیت کو یزید پلید کے پاس اس حالت میں بھیجا کہ زین العابدین کے ہاتھ پاؤں اور گردن میں زنجیریں ڈال دی گئی تھیں اور بی بیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا تھا ۔ ظالم نے اپنے سپاہیوں کو تاکید کر دی تھی کہ راستے میں تشہیر کرتے ہوئے اور سروں کو نیزوں پر چڑھا کر لوگوں کو بتاتے ہوئے جانا کہ دیکھو جنہوں نے حاکم وقت یزید کی مخالفت کی ان کا یہ حشر ہوا ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں اور یزید کی مخالفت سے باز رہیں ۔

قافلے اس طرح دنیا میں بہت کم جاتے ہیں　　　جس طرح آج کے دن اہل حرم جاتے ہیں
قافلہ ہے مدنی لوگ ہیں اولاد علی　　　ہاشمی خیل ہیں اور آل رسول عربی
اہل بیت نبوی ہیں یہ اسیران بلا　　　ا سروساماں ہے یاں بے سروسامانی کا
آستیں اشک سے ترجیب وگریباں سب چاک　　　منہ پہ تھی گرد الم آنکھیں تھیں خوں سے نم ناک
رہرو اند شکستہ دل و خستہ جگرے　　　جز غم و درد ندارد انیسے دگرے
نہ زہم درد و رفیقان وطن ہیچ کسے　　　نہ کسے مونس تنہائی و نے دادرسے
دن کو راحت نہ کسی وقت نہ شب کو آرام　　　ساتھ خیمہ نہیں جس میں کہ ہو راتوں کو مقام
سایہ گستر بجز افلاک دگر ہیچ نبود　　　فرش آرام بجز خاک دگر ہیچ نبود
غم شبیر نہاں دل میں کیے جاتے تھے　　　داغ غم تحفہ احباب لیے جاتے تھے
رنج تازہ بھی جو آتے تھے پیئے جاتے تھے　　　جان غم دیدہ کو گو صبر دیے جاتے تھے
ضبط نالہ کریں تو سینہ پھٹا جاتا تھا　　　نہ کریں گریہ تو دل غم سے جلا جاتا تھا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کیا کہیں آ کے وہ اس دشت میں کیا کھو کے چلے — گھر سے آئے تھے یہاں کیا اور کیا ہو کے چلے

سر و سرمایۂ ایں قافلہ را برد حسین

آہ اینک سفر خلد بفرمود حسین

راستہ میں ایک منزل پر اہل کتاب کا ایک دیر (گرجا) آیا یہ لوگ رات گزارنے کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یشربون النبیذ کہ وہ خرمے کا شیرہ پینے لگے لیکن علامہ ابن کثیر نے جو روایت نقل کی ہے اس میں ہے وھم یشربون الخمر کہ وہ شراب پینے لگے[1] کہ اتنے میں ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا اس نے خون سے یہ شعر لکھا،

اَتَرْجُوْا اُمَّۃٌ قَتَلَتْ حُسَیْنًا — شَفَاعَۃَ جَدِّہٖ یَوْمَ الْحِسَابِ

کیا وہ گروہ بھی یہ امید رکھتا ہے جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کے جدامجد اس گروہ کی شفاعت کریں گے۔

بعض روایات میں ہے کہ یہ شعر پہلے سے دیوار دیر پر لکھا ہوا تھا جب ان بدبختوں نے دیکھا تو دیر کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے
فَقَالَ اِنَّہٗ مَکْتُوْبٌ ھٰھُنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ یُّبْعَثَ نَبِیُّکُمْ بِخَمْسِمِائَۃِ عَامٍ۔
راہب نے کہا یہ شعر تمہارے نبی کے مبعوث ہونے سے پانچ سو برس پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ (تاریخ الخمیس ص۲۹۹/۲ سعادت الکونین ص۱۲۳ حیاۃ الحیوان الکبریٰ ج۱)

علامہ ابن کثیر ابن عساکر سے روایت فرماتے ہیں: اِنَّ طَائِفَۃً مِّنَ النَّاسِ ذَھَبُوْا فِیْ غَزْوَۃٍ اِلٰی بِلَادِ الرُّوْمِ فَوَجَدُوْا فِیْ کَنِیْسَۃٍ مَکْتُوْبًا ؂

اَتَرْجُوْا اُمَّۃٌ قَتَلَتْ حُسَیْنًا — شَفَاعَۃَ جَدِّہٖ یَوْمَ الْحِسَابِ

فَسَأَلُوْھُمْ مَنْ کَتَبَ ھٰذَا؟ فَقَالُوْا اِنَّ ھٰذَا مَکْتُوْبٌ مِنْ قَبْلِ اَنْ یُّبْعَثَ نَبِیُّکُمْ بِثَلَاثِمِائَۃِ سَنَۃٍ۔ (البدایہ والنہایہ ص۲/۸)

---

[1] البدایہ والنہایہ ص۲۰۰/۸ صواعق محرقہ ص۱۹۲ سر الشہادتین ص۱۲۵ نور الابصار ص۱۴۷ سعادت الکونین ص۱۲۳

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کہ لوگوں کا ایک لشکر بسلسلہ جنگ بلاد روم کی طرف گیا انہوں نے وہاں ایک کنیسا میں بھی یہ شعر لکھا ہوا پایا تو ان سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ شعر تمہارے نبی کی بعثت سے تین سو سال پہلے لکھا ہوا ہے۔

دیر کے راہب نے قافلے میں جب شہدا کے سروں کو نیزوں پر اور چندبی بیوں اور بچوں کو بہ حالت اسیری و مظلومیت دیکھا تو اس کے دل پر بہت اثر ہوا اُس نے حالات دریافت کیے جب اس کو سب کچھ معلوم ہوا تو وہ سخت حیران ہو کر بولا تم بہت برے لوگ ہو کیا کوئی اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ بھی ایسا سلوک کر سکتا ہے جیسا تم لوگوں نے کیا ہے۔

پھر اس راہب نے اس گروہِ اشقیا سے کہا کہ اگر ایک رات کے لیے تم اپنے نبی کے نواسے کا سر میرے پاس رہنے دو اور ان بی بیوں کی خدمت کا موقع مجھے دو تو میں تم کو دس ہزار دینار دیتا ہوں۔ وہ درہم و دینار کے بندے اس پر راضی ہو گئے۔ راہب نے ایک صاف ستھرا کمرا بی بیوں کو رات گزارنے کے لیے پیش کیا اور اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میرے دل میں تمہارے خاندان کی بڑی عزت ہے۔ اس نے صبر کی تلقین بھی کی کہ اللہ والوں کو اللہ کی راہ میں بڑی بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں آئی ہیں انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے ان کو صبر کا بدلہ بہت اچھا دیا ہے اب تمہارے لیے بھی سوائے صبر کے چارہ نہیں بی بیوں نے اس کی اس ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور اس کو دعائیں دیں۔

راہب نے رقم ادا کرنے کے بعد حضرت امام کا سر انور لیا اور اپنے خاص کمرے میں جا کر سر اقدس، چہرۂ مبارک اور مقدس زلفوں اور داڑھی مبارک کے بالوں پر جو غبار اور خون وغیرہ جما ہوا تھا اس کو دھو کر صاف کیا اور عطر و کافور لگا کر معطر کیا اور بڑے ادب و تعظیم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا۔ اس کی اس تعظیم و تکریم اور حسنِ سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور اس نے اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اس پر گریہ طاری ہوا اور اس کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے اس نے کیا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

دیکھا کہ سرِ انور سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا۔ جب اُس نے سرِ انور کی کرامت اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو بے ساختہ اس کی زبان پر جاری ہوا اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔ چوں کہ اس نے دنیا کی دولت قربان کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اس نے سرِ انور کا ادب کیا تھا اور ادب کرنے والے بدنصیب و بے ایمان نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے اس کو بانصیب و باایمان بنا دیا۔ اس نے رسول زادیوں کی دعائیں حاصل کی تھیں وہ دعائیں رنگ لائیں اور اس کی تقدیر بدل گئی چناں چہ اس نے دیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور سچے دل سے اہلِ بیت اطہار کا مطیع و خادم بن گیا ؎

دیا راہب نے پہلے غسل پھر خوشبو ملی اس پر — سرِ اقدس انہوں نے دے دیا اس کو رقم لے کر
گزاری رات بھر اس طرح جب وہ دیکھتا روتا — ادب کے ساتھ بیٹھا اس کو اپنے سامنے رکھا
نظر آتا رہا راہب کو ان انوار کا منظر — جو نازل ہو رہے تھے انوارِ رحمت آپ کے سر پر
یہ اخلاص و عقیدت اب مسلماں ہو گیا راہب — اسی باعث سے وہ مذہب سے اپنے ہو گیا تائب

یہاں ایک اور سخت عبرت خیز واقعہ ہوا وہ یہ کہ اس گروہ اشقیا نے لشکر امام عالی مقام اور ان کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے تھے اور دیکھ بھال کے محفوظ کر لیے تھے اور جو راہب سے لیے تھے ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلیوں کے منہ کھولے تو کیا دیکھا کہ وہ سب درہم و دینار ٹھیکریاں بنے ہوئے تھے اور ان کے ایک طرف یہ آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ کہ اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے کردار سے غافل مت سمجھو اور دوسری طرف یہ آیت مکتوب تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ۔ اور ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پر بیٹھتے ہیں۔ (صواعق محرقہ ص۱۹۷ سعادت الکونین ص۱۲۴)

تو دیکھا سارے درہم تھیلیوں کے ٹھیکریاں ہو لیں — پھر اعدا نے درہم بانٹنے کو تھیلیاں کھولیں
عمل سے ظالموں کے حق کو تم غافل نہیں جانو — ہر اک ٹھیکری پہ ایک جانب لکھا تھا لوگو
کہ اب ظالم سمجھ لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹتے ہیں — یہ آیت دوسری جانب لکھی جب غور کرتے ہیں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

یہ قدرت کی طرف سے ایک سبق ایک تنبیہ تھی کہ بدبختو! تم نے اس فانی دنیا کے لیے دین چھوڑا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم وستم کیا۔ یاد رکھو! دین تو تم نے چھوڑ ہی دیا اور جس فانی و بے وفا دنیا کے لیے چھوڑا وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی اور تم خَسِرَ الدُّنیَا وَالْاٰخِرَۃ کا مصداق بنو گے ؎

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم　　نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کے تمہیں　　دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی

تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے جب کبھی بھی دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی اور دین چھوڑ کر دنیا کو اختیار کیا پھر دنیا بھی ان کے پاس نہ رہی اور وہ دارین میں خسران کے سزاوار ہوئے اور جنہوں نے فانی دنیا کو لات ماردی اور دین و ایمان کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنے کردار و عمل سے یہ ثابت کر دیا ؎

سر کٹے، کنبہ مرے، سب کچھ لٹے　　دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھٹے

تو دنیا ان کے پیچھے پیچھے ہو گئی اور وہ دارین میں سرخرو ہوئے۔ انہی لوگوں کو نوید ایزدی سناتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا ؎

کی محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں　　یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

دربار یزید

جب شہدا کے سر اور اسیران کربلا دمشق پہنچے تو یزید نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اس سلسلے میں مختلف روائتیں ہیں ہم ان روائتوں کو نقل کرنے کے بعد نتیجہ پیش کریں گے۔

پہلی روایت

زحر بن قیس یزید کے پاس حاضر ہوا تو یزید نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ زحر نے کہا امیر المومنین آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو فتح و نصرت دی۔ حسین بن

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

علی ہمارے مقابلہ میں اپنے اہل بیت کے اٹھارہ[۱۸] افراد اور اپنے گروہ کے ساٹھ[۶۰] آدمیوں کو لائے تھے۔ ہم ان کے پاس گئے اور ان سے کہا یا تو اطاعت اختیار کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں؟ انہوں نے اطاعت سے انکار کر دیا تو ہم نے صبح ہوتے ہی ان کو ہر طرف سے گھیر کر ان پر حملہ کر دیا۔ جب ہماری تلواریں ان کے سروں تک پہنچ گئیں تو وہ بھاگنے لگے اور ان کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں تھی تو وہ ہم سے اپنی جانیں بچانے کے لیے اس طرح چھپتے پھرتے تھے جیسے کبوتر شاہین سے چھپتے ہیں۔ امیر المومنین! واللہ بس جتنی دیر ایک اونٹ کے ذبح کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر میں ہم نے ان کے سب آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اب ان کی لاشیں برہنہ۔ ان کے پیراہن اور ان کے رخسار خاک وخون میں آلودہ پڑے ہیں۔ آفتاب کی تپش ان کو پگھلا رہی ہے۔ ہوا ان پر خاک ڈال رہی ہے۔ ایک سنسان بیابان میں عقاب اور گدھیں ان پر اتر رہی ہیں کہ یہ سن کر یزید آب دیدہ ہو گیا اور کہا کہ تمہاری اطاعت سے اس وقت خوش ہوتا جب کہ تم نے حسین کو قتل نہ کیا ہوتا خدا ابن سمیہ (ابن زیاد) پر لعنت کرے واللہ اگر میں ہوتا تو میں حسین کو معاف کر دیتا۔ خدا حسین پر رحم کرے اور زحر کو کوئی انعام نہ دیا۔ (ابن اثیر ص ۳۴/۴ طبری ص ۲۶۴/۶ البدایہ والنہایہ ص ۱۹۱/۸)

دوسری روایت

شمر ذی الجوشن اور محفر بن ثعلبہ دونوں حضرت امام کا سر انور لے کر جب یزید کے پاس پہنچے تو محفر بن ثعلبہ نے دروازے میں کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا کہ ہم امیر المومنین کی خدمت میں سب سے زیادہ بے وقوف اور بدترین شخص کا سر لے کر آئے ہیں۔ (معاذ اللہ) یزید نے یہ سن کر کہ محفر کی ماں نے اس سے زیادہ بے وقوف اور بدترین بیٹا نہیں جنا لیکن وہ قاطع اور ظالم ہے پھر وہ اندر داخل ہوئے اور سر انور کو یزید کے آگے رکھ کر سارا واقعہ کربلا بیان کیا۔ یہ سارا واقعہ یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ بن عامر نے بھی سنا وہ چادر اوڑھ کر باہر آئی اور کہا امیر المومنین کیا یہ حسین بن علی ابن فاطمہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے ؟ یزید نے کہا ہاں ! اب تم اس پر رو ؤ۔ اور اس ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالص النسب قریشی پر سوگ کرو جسے ابن زیاد نے جلد بازی میں قتل کر دیا ہے خدا اسے قتل کرے۔ پھر یزید نے دربار لگایا اور عوام و خواص کو اندر آنے کی اجازت دی۔ لوگ اندر داخل ہوئے سر انور یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کو وہ آپ کے لب و دندان مبارک پر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ اب تو ان کی اور ہماری مثال ایسی ہے جیسا کہ حصین ابن الحمام نے کہا ہے ؎

ابی قومنا ان ینصفونا فانصفت   قواضب فی ایماننا تقطر الدما

یفلقن هاما من رجال اعزۃ   علینا وهم کانوا اعق واظلما

یعنی ہماری قوم نے تو انصاف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پس ان تلواروں نے انصاف کر دیا جو ہمارے دائیں ہاتھوں میں تھیں جن سے خون ٹپکتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کی کھوپڑیاں توڑتی ہیں جو ہم پر غالب تھے اور وہ نہایت نافرمان اور ظالم تھے۔

حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے یزید تو اپنی چھڑی حضرت حسین کے دانتوں پر اس جگہ مار رہا ہے جس جگہ کو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوسا کرتے تھے۔ بے شک اے یزید کل قیامت کے دن جب تو آئے تو تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا اور یہ حسین آئیں گے تو ان کے شفیع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ یزید نے امام کے سر انور سے مخاطب ہو کر کہا اے حسین! خدا کی قسم! اگر میں تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہیں قتل نہ کرتا۔ پھر یزید نے حاضرین سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ ان کا یہ انجام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ ان کے باپ علی میرے باپ معاویہ سے اور ان کی ماں فاطمہ میری ماں سے اور ان کے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جد سے بہتر تھے۔ لہذا یہ خلافت کے مجھ سے زیادہ مستحق تھے۔ ان کے اس قول کا جواب کہ ان کے باپ سے بہتر تھے یہ ہے کہ ان کے باپ اور میرے باپ نے خدا سے محاکمہ چاہا اور لوگ جانتے ہیں کہ خدا نے کس کے حق میں فیصلہ دیا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ان کا یہ کہنا کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر تھیں تو مجھے میری ماں کی قسم بلا شبہ وہ میری ماں سے بہتر تھیں اور ان کا یہ قول کہ اُن کے جدامجد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے دادا سے بہتر تھے تو میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہم میں سے کسی کو بھی رسول اللہ کے برابر اور ہمسر نہیں ٹھہرائے گا لیکن ان پر جو یہ مصیبت آئی وہ ان کے نہ سمجھنے کی وجہ سے آئی۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی:- قُلِ اللّٰھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ۔ الآیۃ

اس کے بعد اسیران اہل بیت بھرے دربار میں اس کے سامنے پیش کیے گئے حضرت امام کا سرانور اس کے سامنے ہی رکھا ہوا تھا جب حضرت امام کی بیٹیوں حضرت فاطمہ اور حضرت سکینہ نے سرانور کو دیکھا تو بے ساختہ ان کی چیخیں نکل گئیں (ابن اثیر ص ۳۵/۴)

تیسری روایت

جب سرانور یزید کے پاس لاکر اس کے آگے رکھا گیا۔ تو وہ خوش ہوا اس نے اہل شام کو جمع کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اس سے سرانور کو اُلٹ پلٹ کرتا تھا اور ابن الزبعری کے یہ اشعار پڑھتا تھا ؎

لیت اشیاخی ببدر شھدوا   جزع الخزرج فی وقع الاسل

قد قتلنا الضعف من اشرافھم   وعدلنا میل بدر فاعتدل

اے کاش! آج میرے بزرگ جو غزوۂ بدر میں مارے گئے تھے زندہ و موجود ہوتے تو دیکھتے کہ بے شک میں نے ان سے دوگنے ان کے اشراف کو قتل کر کے بدلہ لیا اور معاملہ برابر کر دیا۔ (صواعق محرقہ ص ۲۱۸ البدایہ والنہایہ ص ۱۹۲/۸۔ ابن عساکر)

علامہ امام ابن حجر مکی شافعی اور شعبی نے فرمایا:-

وزاد فیھا بیتین مشتملین علی صریح الکفر۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

یزید نے دو شعر اس میں اور بڑھائے جو یزید کے صریح کفر پر مشتمل ہیں اور وہ یہ ہیں ؎

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاءه ولا وحی نزل

لست من عتبة ان لم انتقم من بنی احمد ما كان فعل

بنی ہاشم ملک سے کھیلتے رہے تو نہ کوئی خبر اُن کے پاس آئی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی میں عتبہ کی اولاد سے نہ ہوتا اگر میں اولاد احمد سے اس کا بدلہ نہ لیتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ (صواعق محرقہ ص۲۱۸) ؎

انہیں پھیرے کے وہ فوج مخالف شام میں پہنچی یہ سر دربار میں رکھے گئے حاضر وہ سب قیدی

یزید اور اس کے ساتھی خوش ہوئے اس کامیابی پر نہ غم تھا ان کو اجل آلِ اطہر کی تباہی پر

چوتھی روایت

جب یزید کے سامنے حضرت امام اور ان کے اہل بیت و انصار کے سر رکھے گئے تو اس نے حصین ابن الحمام کے وہ شعر پڑھے جو دوسری روایت میں اوپر لکھے جا چکے ہیں تو اس وقت مروان کا بھائی یحییٰ بن حکم یزید کے پاس موجود تھا اس نے یہ دو شعر کہے ؎

لهام بجنب الطف ادنیٰ قرابة من ابن زیاد العبد ذی الحسب الوغل

سمیه امسی نسلها عدد الحصی ولیس لآل المصطفی الیوم من نسل

وہ لشکر جو زمین طف کے پہلو میں (قتل کیا گیا) ہے وہ زیادہ قرابت دار ہیں ابن زیاد جیسے کمینہ غلام اور کھوٹے نسب والے سے۔ سمیہ کی نسل تو سنگ ریزوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہو گئی۔ لیکن آل مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں سے آج کوئی باقی نہیں رہا۔[1]

یزید نے یہ سن کر یحییٰ کے سینہ پر ہاتھ مارا اور کہا خاموش۔

(طبری ص۲۶۵/۶ - البدایہ ص۱۹۲/۸ ابن اثیر ص۳۷/۴)

پھر یزید کے سامنے امام زین العابدین۔ خواتین و اطفال اہل بیت کو بہ حالت اسیری

---

[1] اب سمیہ کی نسل کا نام و نشان تک مٹ گیا ہے اور آلِ مصطفیٰ دنیا بھر میں موجود ہے۔ (المؤلف)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

شکستہ حالی پیش کیا گیا۔ حضرت فاطمہ بنت حسین نے جو حضرت سکینہ سے بڑی تھیں کہا۔ ابنات رسول سبایا یا یزید اے یزید کیا رسول اللہ کی بیٹیاں قیدی ہیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا۔ لو رآنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغلولین لفك عنا قال صدقت و امر بفك غله عنه اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھتے تو ضرور ہماری ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو کھول دیتے۔ یزید نے کہا تم سچ کہتے ہو اور حکم دیا کہ ان کی زنجیریں کھول دو۔ پھر یزید نے حضرت زین العابدین کو مخاطب کر کے کہا تمہارے باپ نے مجھ سے قطع رحم کیا۔ میرے حق کو نہ جانا اور میری سلطنت میں مجھ سے جھگڑا کیا۔ پھر اللہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا ہے۔

حضرت زین العابدین اس کے جواب میں آیت پڑھی۔ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا۔

جو کوئی بھی مصیبت روئے زمین پر اور خود تم پر نازل ہوتی ہے اور اس نوشتہ میں لکھی ہوئی ہے جو پیدائش عالم سے پہلے ہم نے لکھ رکھا ہے۔

یزید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا اس کا جواب دو۔ لیکن اس کی سمجھ میں جواب نہ آیا تو یزید نے خود بتایا تم کہو مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے اور بہت سی خطائیں اللہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ (ابن اثیر ص ۳۵/۴ طبری ص ۲۶۵/۶)

اسی اثنا میں ایک ظالم شامی نے حضرت فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا امیر المومنین یہ لڑکی مجھے دے دو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ ڈر گئیں اور حضرت زینب کا کپڑا پکڑ لیا۔ حضرت زینب نے اس شامی کو ڈانٹا کہ تو جھوٹ بکتا ہے او بدبخت یہ لڑکی (شرعاً) نہ تجھ کو مل سکتی ہے اور نہ یزید کو۔ چوں کہ حضرت سیدہ نے یزید کے متعلق بھی کہہ دیا تھا۔ اس لیے یزید نے غضب ناک ہو کر کہا تم جھوٹ کہتی ہو۔ خدا کی قسم! اگر میں چاہوں تو اس لڑکی کو لے سکتا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا خدا کی قسم تو نہیں لے سکتا۔ اللہ نے تجھے یہ حق نہیں دیا ہاں اگر تم ہماری ملت سے خارج ہو جاؤ اور ہمارے دین اسلام سے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

خارج ہو جاؤ اور ہمارے دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لو۔ تو پھر تم لے سکتے ہو (یعنی جب تک مسلمان کہلاتے ہو مسلمان عورت کو مال غنیمت کے طور پر نہیں لے سکتے ہو) اس پر یزید سخت برہم ہو کر کہنے لگا تم مجھ سے اس طرح کہتی ہو دین سے تو تمہارا باپ اور تمہارا بھائی خارج ہوئے تھے۔ حضرت زینب نے فرمایا اللہ کے اور میرے جدّ امجد اور میرے باپ اور میرے بھائی کے دین ہی سے تو تو نے اور تیرے باپ دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید نے کہا او خدا کی دشمن تو جھوٹ بکتی ہے۔ سیدہ نے فرمایا ہے تو امیر ہے اور اپنی بادشاہی کی وجہ سے ناحق سختی اور بدزبانی کرتا ہے یزید اس پر شرما کر خاموش ہو گیا۔ (ابن اثیر ص ۳۵/۴ طبری ص ۲۶۵/۶ البدایہ ص ۱۹۴/۸ تہذیب التہذیب ص ۳۵۳/۲)

پانچویں روایت

جب حضرت امام کا سر انور یزید کے پاس پہنچا تو وہ خوش ہوا اور اس کے نزدیک ابن زیاد کی قدر و منزلت بہت بڑھ گئی اس لیے اس کو انعام و اکرام سے نوازا مگر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد وہ نادم ہوا کیوں کہ اس کو معلوم ہو گیا کہ لوگوں کے دلوں میں میرا بغض اور عداوت پیدا ہو گئی ہے اور لوگ مجھے لعن و طعن اور سب و شتم کرنے لگے ہیں۔ پھر وہ ابن زیاد کو گالیاں دینے لگا کہ خدا کی مار ہو ابن مرجانہ پر اس نے حسین کو قتل کر کے مسلمانوں کے دلوں میں میرے بغض و عداوت کا بیج بو دیا اور ہر نیک و بد آدمی قتل حسین کی وجہ سے میرا دشمن بن گیا۔ خدا ابن زیاد پر لعنت کرے اور اس پر اپنا غضب نازل کرے (ابن اثیر ص ۳۶/۴) لما قتل ابن زیاد الحسین ومن معهٗ بعث برؤسهم الی یزید فسر بقتله اولاً وحسنت بذالك منزلة ابن زیاد عندهٗ ثم لم یلبث الا قلیلا حتی ندم۔ (البدایہ والنہایہ ص ۲۳۲/۸)

جب ابن زیاد نے حضرت حسین کو مع ان کے رفقاء کے قتل کر دیا تھا اور ان کے سروں کو یزید کے پاس بھیجا تو یزید امام کے قتل سے اولاً تو خوش ہوا اور اس کی وجہ سے ابن زیاد کی قدر و منزلت اس کے نزدیک زیادہ ہو گئی مگر وہ اس خوشی پر زیادہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

دیر تک قائم نہ رہا حتی کہ پھر نادم ہوا۔ وقد لعن ابن زیاد علی فعلہ ذالک و شتمہ فیما یظھر ویبدؤ ولکن لم یعزلہ علیٰ ذالک ولا عاقبہ ولا ارسل یعیب علیہ ذالک (البدایہ والنہایہ ص۲۰۳)

بے شک یزید نے ابن زیاد پر اس کے فعل کی وجہ سے لعنت تو کی اور اس کو برا بھلا بھی کہا اس وجہ سے کہ آئندہ جب حقیقت ظاہر ہو گی اور بات کھلے گی تو پھر کیا ہوگا لیکن نہ تو اس نے ابن زیاد کو اس ناپاک حرکت پر معزول کیا اور نہ بعد میں اسے کچھ کہا اور نہ کسی کو بھیج کر اس کا یہ شرمناک عیب اس کو جتایا یعنی کوئی ملامت نہیں کی۔

نتیجہ

ان روایات میں ادنیٰ سا غور کرنے سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بلاشبہ یزید نے ابن زیاد پر لعنت اور سب و شتم وغیرہ کیا اور قتل امام پر اظہار افسوس بھی کیا لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس کے نزدیک قتل امام ناجائز اور بہت بڑا ظلم تھا ورنہ اس پر لازم تھا کہ وہ ابن زیاد اور قاتلان حسین سے مؤاخذہ کرتا اور ان کو اس ظلم کی سزا دیتا جب کہ اس نے ابن زیاد کو اکرام و انعام سے نوازا۔ اس کے اظہار افسوس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ امام اور اہل بیت نبوت کے دیگر افراد کے ناحق قتل اور ان پر ظلم و ستم کا بدترین سیاہ داغ جو میری پیشانی پر لگ چکا ہے وہ کبھی زائل نہیں ہو گا اور دنیائے اسلام قیامت تک مجھے ملامت کرتی رہے گی۔

چناں چہ اس نے اپنی رسوائی کے خطرات کے پیش نظر صرف زبانی لعنت وغیرہ بھیجی اور ندامت و افسوس کا اظہار بھی کر دیا جس کو رسمی یا سیاسی لعنت و ندامت کہنا چاہیے۔ گزشتہ صفحات میں اس پر کافی بحث گزر چکی ہے نیز صفحہ ص پر خود ابن زیاد کا بیان ملاحظہ فرمائیے جس میں اس نے اقرار کیا ہے کہ مجھے یزید نے قتل حسین کا حکم دیا تھا اور ان مذکورہ روایات میں حضرت زین العابدین اور سیدہ زینب کے ساتھ اس کی گفت گو، سختی، بد زبانی اور دوسری اور تیسری روایت میں اس کے اشعار اس کی قلبی

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

عداوت وکیفیت اور بغض وعناد پر گواہ ہیں۔ بہرحال حقیقت یہی ہے اور روایات معتبرہ سے بھی یہی ثابت ہے کہ یزید پلید کا دامن کسی طرح بھی اس ظلم عظیم سے بری نہیں ہے۔ اس واقعۂ ہائلہ کا وہ محرک اور اس میں برابر کا شریک اور پورا ذمہ دار ہے۔ نیز شہادت کے بعد واقعہ حرہ کی لرزہ خیز داستان نے اس بدبخت کی بدنصیبی اور سیاہ بختی کا پردہ مزید چاک کرکے اس کی خباثت کو بے نقاب کر دیا۔[۱]

اعتراض

بعض لوگوں نے ابن تیمیہ کے حوالہ سے یزید کا چھڑی سے امام پاک کے دندان مبارک کو ٹھونکا دینا بالکل غلط اور جھوٹ بتایا ہے اور لکھا ہے کہ یہ واقعہ ابن زیاد کا ہے غلط فہم راویوں نے اس کو یزید کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

*"**جواب**"۔ اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ علامہ ابن کثیر جو خود مخالفین کے نزدیک نہایت معتبر ثقہ محدث، مفسر اور مورخ ہیں اور ابن تیمیہ ہی کے شاگرد ہیں۔ انھوں نے اس بارے میں تین روائتیں نقل کی ہیں ملاحظہ ہو۔* لما وضع راس الحسین بین یدی یزید بن معاویہ جعل ینکت بقضیب کان فی یدہ فی ثغرہ ثم قال ان ھذا وایانا کما قال الحصین ابن الحمام المری ؎

یفلقن ھاما من رجال اعزۃ ... علینا وھم کانوا اعق واظلما

فقال لہ ابو برزۃ الاسلمی اما واللہ لقد اخذ قضیبک ھذا ماخذا لقد رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرشفہ ثم قال الا ان ھذا سیجئ یوم القیمۃ وشفیعہ محمد، ونجئ وشفیعک ابن زیاد ثم قام فولی۔ (البدایہ والنہایہ ص۱۹۲/۸)

---

[۱] یزید پلید کے بارے میں ایسے تمام اعتراضات کے جواب کے لیے میری کتاب "امام پاک اور یزید پلید" ملاحظہ فرمائیں۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

جب حضرت حسین کا سر یزید بن معاویہ کے آگے رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے سامنے دانتوں میں ٹھونکا دیتا تھا پھر اس نے کہا بے شک اس کی اور ہماری مثال ایسی ہے جیسا کہ حصین ابن الحمام المری نے کہا: کہ ہماری تلواریں ایسے لوگوں کی کھوپڑیاں توڑتی ہیں جو ہم پر غالب تھے اور وہ نہایت نافرمان اور ظالم تھے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی (صحابی) نے فرمایا خدا کی قسم تو اپنی چھڑی ایسی جگہ پر مار رہا ہے جس جگہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوستے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر فرمایا آگاہ ہو جا قیامت کے دن یہ حسین آئیں گے تو ان کے شفیع حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں گے اور تو آئے گا تو تیرا شفیع ابن زیاد ہو گا پھر وہ کھڑے ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔

(۲) اسی روایت کو انہوں نے دوسری سند سے حضرت جعفر سے روایت کیا ہے۔

(۳) اور اسی روایت کو انہوں نے تیسری سند سے حضرت حسن بصری سے روایت کیا ہے یہی روایت تاریخ طبری ص ۲۶۷ اور ابن اثیر ص ۳۵/۴ اور صواعق محرقہ ص ۹۷ میں بھی ہے۔

ف! یاد رہے کہ ابن زیاد نے جب لکڑی دندان مبارک پر ماری تھی اس وقت وہاں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے ابن زیاد کو اس فعل شنیع سے منع فرمایا لیکن یزید نے جب یہ ناپاک حرکت کی تو اس کو خطاب کرنے والے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ تھے۔

علامہ امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں۔ ولما فعل یزید برأس الحسین ما مر کان عندہ رسول قیصر فقال متعجبا ان عندنا فی بعض الجزائر فی دیر حافر حمار عیسٰی فنحن نحج الیہ کل عام من الاقطار وننذر النذور ونعظمہ کما تعظمون کعبتکم فاشہد انکم باطل وقال ذمی آخر بینی داؤد سبعون ابا وان الیہود تعظمنی وتحترمنی وانتم قتلتم ابن نبیکم۔

(صواعق محرقہ ص ۱۹۷ سعادت الکونین ص ۱۲۷)

اور جب یزید نے حضرت حسین (رضی اللہ عنہ) کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کی جیسا کہ گزرا تو اس وقت یزید کے پاس قیصر روم کا سفیر بھی موجود تھا۔ اس نے بہت

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

متعجب ہو کر کہا کہ ہمارے ہاں ایک جزیرہ کے دیر (گرجا) میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے گدھے کے کھُر کا نشان ابھی تک محفوظ ہے سو ہم ہر سال ہدیے نذر لانے اور تحفے لے کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے کعبہ کی کرتے ہو۔ بلاشبہ تم لوگ جھوٹے اور بے ہودہ ہو اسی طرح اس وقت وہاں ایک ذمی (یہودی) بھی موجود تھا اس نے کہا میرے اور (پیغمبر) داؤد (علیہ السلام) کے درمیان ستر پشتیں گزر چکی ہیں (یعنی میں ان کی اولاد میں سے ہوں) لیکن اب تک یہودی میری تعظیم اور میرا احترام کرتے ہیں اور تم نے اپنے نبی کے فرزند کو اس طرح بے دریغ قتل کر دیا۔

اس کے بعد یزید پلید نے حکم دیا کہ سروں کو تین روز تک دمشق میں پھراؤ اور شہر کے دروازوں پر لٹکاؤ۔ چناں چہ منہال بن عمرو فرماتے ہیں۔

واللہ رایت راس الحسین حین حمل وانا بدمشق وبین یدی الراس رجل یقرأ سورۃ الکھف حتّٰی بلغ قولہ تعالٰی امحسبت ان اصحاب الکھف والرقیم کانوا من اٰیتنا عجبا فانطق اللہ الراس بلسان ذرب فقال اعجب من اصحٰب الکھف قتلی وحملی۔

خدا کی قسم! جب حضرت حسین کے سر کو نیزے کے اوپر چڑھائے گلیوں بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا تو میں اس وقت دمشق میں تھا میں نے بچشم خود دیکھا کہ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا جب وہ اس آیت پر پہنچا اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْکَھْفِ کیا تو نے جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے سر مبارک کو گویائی دی اس نے بہ زبان فصیح کہا اصحاب کہف کے واقعہ سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے۔

(شرح الصدور ص ۸۸ سر الشہادتین ص ۳۵ نور الابصار ص ۱۴۹)

بلاشبہ عجیب تر ہے اس لیے کہ اصحاب کہف جن کے خوف سے گھر بار ساز و سامان وغیرہ چھوڑ کر نکلے اور غار میں چھپے تھے وہ لوگ کافر تھے۔ لیکن حضرت امام اور آپ کے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اہل بیت اور انصار کے ساتھ ظلم وستم اور انتہائی بے حرمتی کرنے والے ایمان و اسلام کے دعوے دار تھے۔ اصحاب کہف ولی اللہ تھے اور یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے تھے۔ اصحاب کہف کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جیسا کہ اُن کے ساتھ ہوا۔ اصحاب کہف سال ہا سال کی طویل نیند کے بعد اٹھے اور بولے تو آخر وہ زندہ تھے لیکن حضرت امام کے سر انور کا جسم سے جدا ہونے کے کئی روز بعد نیزے کی نوک پر بولنا یقیناً اس واقعہ سے عجیب تر ہے۔

فَاعْتَبِرُوْا يَآ اُولِی الْاَبْصَارِ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عُجَابٌ۔

لیے جاتے تھے ظالم سر اقدس کو نیزہ پر　　پڑھی قاری نے سورۂ کہف کی یہ آیت اطہر
ہماری آیتوں میں سے عجب یہ کہف والے تھے　　سر اقدس نے فرمایا یہ سن کر حق کی قدرت سے
وَاَعْجَبُ مِنْهُ قَتْلِیْ ثُمَّ حَمْلِیْ پر نظر کرنا　　کہ اس سے ہے عجب تر میرا قتل اور سر لیے پھرنا
کیے جور و جفا کفار نے ان کہف والوں پر　　ادھر شہ پر مظالم ڈھائے خود امت نے بلوا کر
رفیق احباب بیٹے جو تھے سب کو قتل کر ڈالا　　شہید آخر میں غم کو کر کے اپنا منہ کیا کالا
رہے بیوہ یتیم ان کے بنایا ان کو بھی قیدی　　پھرائے اُن کے سر نیزوں پہ یہ کی سخت بے دردی
عجب ہے بولنا بعد فنا جب کہف والوں کا　　عجیب اس سے زیادہ کیوں نہ ہو اس سر کا فرمانا

علامہ حافظ امام ابی الخطاب ابن وجیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جب یزید پلید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور دمشق میں لٹکوایا تو حضرت خالد بن عفزار رضی اللہ عنہ کہ افاضل تابعین سے تھے انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا اور ایک ماہ تک باہر نہ نکلے ایک ماہ کے بعد جب باہر نکلے تو لوگوں نے اُن سے اس عزلت کا سبب پوچھا۔ انہوں نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو یہ کیسا دور ابتلا ہے؟ پھر یہ اشعار پڑھے ؎

جاؤا براسك يا ابن بنت محمد　　مترملا بدمائه ترميلا

اے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پاک بیٹی کے پاک فرزند (آہ) یہ لوگ تمہارے سر انور کو خون آلودہ لائے۔

وكانما بك يا ابن بنت محمد　　قتلوا جهارا عامدين رسولا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اے نواسہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) انہوں نے آپ کو قتل کر کے گویا علانیہ طور پر رسول اللہ کو قتل کیا۔

قتلوك عطشانا ولم يتدبروا — فی قتلك القرآن والتنزيلا

ان ظالموں نے آپ کو سخت پیاس کی حالت میں قتل کیا اور یہ تدبّر نہیں کیا کہ آپ کے قتل سے قرآن اور اس کے علوم جاتے رہیں گے۔

ويكبرون بان قتلت وانما — قتلوا بك التكبير والتهليلا

یہ بدبخت آپ کو قتل کر کے فخر و غرور میں مبتلا ہیں حالاں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ تکبیر و تہلیل کا خاتمہ کر دیا۔ یعنی سرمایۂ اسلام ختم ہو گیا۔ (مرج البحرین فی فوائد المشرقین والمغربین (والبدایہ والنہایہ ص ۱۹۸ ج ۸ مختصراً)

یزید کے گھر ماتم

اس کے بعد یزید کے حکم سے پہلے تو ان ستم رسیدہ افراد کو ایک الگ مکان میں رکھا گیا بعد میں یزید نے اہل بیت کی عورتوں کو خاص اپنے گھر میں بلا لیا اور اپنے گھر کی عورتوں سے کہا کہ ان سے افسوس اور اظہار ہمدردی کرو چناں چہ جب اہل بیت کی بی بیاں نہایت ابتر حالت میں یزید کے گھر آئیں تو یزید کے گھرانے کی کوئی عورت ایسی نہ تھی جو ان سے ملنے نہ آئی ہو اور اس نے ان کی حالتِ زار پر ماتم نہ کیا ہو چناں چہ تین دن تک یزید کے گھر میں نوحہ اور ماتم بپا رہا۔

یزید کا سلوک

کوفی و شامی وحشیوں نے اہل بیت اطہار کا سب ساز و سامان لوٹ لیا تھا، اوڑھنے کی چادریں تک اتار لی تھیں اور ابن سعد کے حکم کے باوجود کسی نے کوئی چیز بھی واپس نہ کی تھی۔ یزید نے اس کی پوری پوری تلافی کی اور تمام عورتوں کا جس قدر مال و متاع لوٹ لیا گیا تھا اس سے دگنا ان کو بہ صد اصرار دیا۔ یزید کے اس سلوک پر حضرت سکینہ بنت حسین کہا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کرتی تھیں۔

مارایت رجلا کافرا باللہ خیرا من یزید۔

میں نے کسی کافر باللہ کو یزید سے بہتر نہیں دیکھا۔

یزید صبح و شام کھانے کے وقت حضرت زین العابدین کو بلا لیا کرتا تھا۔ ایک دن اُن کے ساتھ عمرو بن حسین بھی تھے جو بہت کم سن تھے یزید نے ان سے کہا کیا تم اس جوان یعنی میرے بیٹے خالد سے لڑو گے؟ ابن حسین نے کہا یوں نہیں! ہاں ایک چھری مجھے دے دو اور ایک چھری اس کو دے دو پھر میں اس سے لڑوں گا۔ یزید نے اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ چمٹا لیا اور کہا آخر طینت کیسے بدل سکتی ہے سانپ کا بچہ سنپولیے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ (ابن اثیر صفحہ ۳۶ طبری صفحہ ۲۶۵)

اہل بیت کی مدینہ منورہ واپسی

پھر یزید نے اہل بیت رسول کے بقیہ افراد کو مدینہ منورہ بھجوانے سے پہلے حضرت زین العابدین کو بلایا اور کہا خدا ابن زیاد پر لعنت کرے واللہ اگر میں ہوتا تو حسین جو کچھ کہتے مان لیتا خواہ اس میں میرا نقصان ہی ہوتا لیکن خدا کو یہی منظور تھا جو تم نے دیکھا۔ بہرحال تمہیں کسی قسم کی ضرورت پیش آئے تو مجھے لکھ دینا۔ پھر یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کو بلا کر کہا کہ اُن کو ضروری سامانِ سفر اور شریف قسم کے حفاظتی دستہ کے ساتھ بہ حفاظتِ تمام مدینہ پہنچا دو۔ انہوں نے اس خدمت کو بہ طیب خاطر قبول کیا اور بڑے ادب و احترام اور انتہائی راحت و آرام کے ساتھ مدینہ پہنچایا۔

مخدرات اہل بیت کے پاکیزہ قلوب ان کے اس شریفانہ سلوک اور حسنِ خدمت سے بہت متاثر ہوئے اور چاہا کہ حسن سلوک کا ان کو کچھ صلہ دیا جائے چناں چہ حضرت زینب اور حضرت فاطمہ نے سونے کے وہ زیورات جو ان کو یزید نے ان کے زیورات کے بدلے میں دیئے تھے ان کے پاس بھیجے اور زبانی کہلا بھیجا کہ اس وقت ہم معذور ہیں ہمارے پاس ان کے سوا اور کچھ نہیں یہ تمہارے حسنِ سلوک کا شکرانہ اور صلہ ہے اس کو

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

قبول کر لو۔ حضرت نعمان بن بشیر نے زیورات ان کو واپس کر دیے اور کہا خدا کی قسم ہم نے دنیاوی منفعت کے لیے یہ خدمت نہیں کی بلکہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے کی ہے۔ (طبری ص ۲۶۶/۶ ابن اثیر ص ۳۶/۴)

کربلا سے گزر

علامہ ابو اسحاق اسفرائینی اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین میں نقل فرماتے ہیں کہ جب قافلہ دمشق سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا تو راستہ میں اہل بیت رسول نے حضرت نعمان سے کہا کہ ہماری یہ آرزو ہے کہ ہمیں براستہ کربلا لے چلیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے عزیزوں کی لاشیں اسی طرح بے گور و کفن پڑی ہیں یا کسی نے دفن کر دیں۔ انہوں نے یہ بات مان لی۔ چناں چہ یہ قافلہ ماہ صفر کی بیس تاریخ کو کربلا پہنچا اس دن حضرت امام کی شہادت کو چالیس روز گزر چکے تھے۔ جب ان بی بیوں نے پھر اسی مقام کو دیکھا جہاں ان کو پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترسایا گیا تھا۔ جہاں چمن زہرا کو اجاڑا گیا تھا۔ جہاں گلشن رسالت کے لہلہاتے ہوئے پھولوں کو تیروں سے چھلنی کیا گیا تھا۔ جہاں راکب دوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخموں سے چور چور کر کے گھوڑے سے گرا کر خاک و خون میں تڑپایا گیا تھا۔ فرزند رسول کو برہنہ کر کے ان کے مقدس جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا تھا اہل بیت رسول کے خیمے جلائے گئے تھے ان پاک بی بیوں کا ساز و سامان لوٹا گیا تھا انہیں قیدی بنایا گیا تھا ایک ایک کر کے وہ جاں گسل اور روح فرسا مناظر آنکھوں کے سامنے آ گئے اور بے اختیار سب کی ہچکیاں بندھ گئیں، سیدہ زینب فرما رہی تھیں۔ یہاں ہمارے خیمے تھے، یہاں ہمارے جانور باندھے گئے تھے۔ یہاں ہمارے جانوروں کے کجاوے رکھے گئے تھے پھر بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا یہاں بھائی عباس کٹے پھٹے لیٹے تھے۔ یہاں میرا علی اکبر خاک و خون میں آلودہ سو گیا تھا۔ یہاں میرا معصوم اصغر میرا جوان قاسم میرے عون و محمد کے بے سر جسم پڑے تھے اور پھر اپنے پیارے بھائی سیدنا امام حسین کا نام لیتے ہی ان کی چیخیں نکل گئیں امام کی قبر انور پر اپنا منہ رکھ کے سیدہ نے سلام کہا اور اس درد سے روئیں کہ روتے روتے بے حال ہو گئیں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

سب قافلے والوں کے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں۔ایک قیامت قائم ہوگئی تھی بی بیوں نے اپنے عزیزوں اور سیدالشہداء کی قبروں پر جن الفاظ میں اپنے قلبی جذبات کا اظہار کیا ہوگا وہ کون بیان کرسکتا ہے۔ایک رات ان سب نے وہاں فاتحہ خوانی اور ذکر و تلاوت میں گزاری۔بوقت رخصت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنے بھائی کو ایک بار پھر الوداع کہنے ان کی قبر پر آئیں روتے ہوئے جو کچھ فرمایا،شاعر نے ترجمانی کی ہے

بولیں زینب یہ تربت پہ آ کر | کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی
ہجر میں تیرے ہوں سخت مضطر | کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی
خون آلودہ تیرا بدن تھا | اور میسر نہ گور و کفن تھا
ہائے کیسا یہ رنج و محن تھا | کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی
کوئی سر پر ہمارے نہیں ہے | ہے جو عابد وہ زار و حزیں ہے
سخت کلثوم اندوہ گیں ہے | کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی
ہائے کس کس کو تسکین دوں گی | جا کے صغرا سے میں کیا کہوں گی
ہجر میں کیسے زندہ رہوں گی | کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی

جب یہ ستم رسیدہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا اور حضرت ام کلثوم نے جوں ہی مدینے کے در و دیوار دیکھے تو روتے ہوئے یہ اشعار کہے ہے

مدینۃ جدنا لا تقبلینا | فبالحسرات والکسرات جینا
خرجنا منک بالاھل جمیعا | رجعنا لا رجال ولا بنینا
وکنا فی الخروج علی المطایا | رجعنا خائبین آئسینا
وکنا فی امان اللہ جھرا | رجعنا بالقطیفۃ خائبینا
ومولانا الحسین لنا انیسا | رجعنا لا حسین ولا معینا

لہ تذکروں میں ہے کہ کربلا کے قرب وجوار سے بہت سے لوگ اس دن مرقد امام پر جمع تھے کیوں کہ یہ چہلم کی فاتحہ کا موقع تھا ان لوگوں نے وہاں مثل حلیم کھانا تیار کرکے سب کو کھلایا اور اہل بیت رسول سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

فلا عيش يدوم لنا دواما   وزين الخلق مدفون حزينا
ونحن الباكيات على حسين   ونحن النادبات الساكتينا
ونحن السائرون على المطايا   لساق على الجبال المغضبينا
ونحن بنات يٰس وطٰهٰ   ونحن الباكيات على ابينا
ونحن الصارون على البلايا   ونحن الباكيات القاعدينا
الا يا جدّنا قتلوا حسينا   ولم يرعوا جنابك يا ابينا
وقد هتكوا القوم وحمّلونا   على الاقتاب جهرا جمعينا
وزينب اخرجوها من خباها   وفاطمة مالها احد معينا
سكينة تشتكى من حر ناد   تنادى يا اخى جاروا علينا
وزين العابدين قيد وه   ورامو قتله اضحٰى حزينا
وقد طافوا البلاد بنا جميعا   وبين الخلق جمعا قد خزينا
آہ اے مدینہ خلد فضا وامصیبتاہ   اب سامنے ہمارے نہ آ وامصیبتاہ
آتے ہیں مبتلائے بلا وامصیبتاہ   کیا کیا اٹھائے جور وجفا وامصیبتاہ
نکلے تھے جب تو ساتھ تھے سب لوگ لٹے اب   کوئی نہ ساتھ باقی رہا وامصیبتاہ
نکلے تھے جب سوار تھے باشوکت وحشم   اب دل ہے شق جگر ہے پھٹا وامصیبتاہ
نکلے تھے جب ہراس نہ قلب حزیں کو تھا   ہر دم تھا حافظ اپنا خدا وامصیبتاہ
لوٹے ہیں اس طرح کہ چادر ہے ایک پاس   محروم ہیں اور بے نوا وامصیبتاہ
نکلے تھے جب تو ساتھ تھے غمخوار ما حسین   سران کا کربلا میں کٹا وامصیبتاہ
ہے نیزہ کے اوپر سر بے تن حسین کا   ہے مثل بدر جلوہ نما وامصیبتاہ
اب عمر بھر ہے عیش کہاں بے قرار دل   وہ زینت جہاں زمیں میں گیا وامصیبتاہ
ہم ہیں تباہ حال نہیں کوئی اپنے ساتھ   چھائی ہے دل پر غم کی گھٹا وامصیبتاہ
روتا ہے دل ہمارا فراق حسین میں   ہے دل کے پار تیر جفا وامصیبتاہ
بے پردہ سفر کیا ہے اونٹوں پہ بیٹھ کر   ہر ہر جگہ پہ دکھ تھا نیا وامصیبتاہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اے وائے ہم ہیں آل نبی فخر کائنات　　ہوں اس طرح سے وقف بلا وامصیبتاہ
جنت میں ہیں رسول مصیبت زدہ ہیں ہم　　ہو ان پر اپنی جان فدا وامصیبتاہ
صبر و شکیب کرتے ہیں کرب و بلا میں ہم　　گھٹتی ہے روح غم ہے بڑا وامصیبتاہ
افسوس کیسے کیسے حسین خاک میں ملے　　کس کس کا ہائے خون بہا وامصیبتاہ
ہیں خستہ و ستم زدہ باقی نہیں ہے اب　　جز مرگ کوئی حرص و ہوا وامصیبتاہ
نانا تمہارے بعد تمہارے حسین کو　　اُمت نے ہائے قتل کیا وامصیبتاہ
کی آپ کی ہتک نہ کیا آہ کچھ خیال　　آفت یہ کیسی کی ہے بپا وامصیبتاہ
بے پردہ ہم کو اونٹوں کے اوپر کیا سوار　　کچھ بھی نہ آئی شرم و حیا وامصیبتاہ
زینب کو بے حجاب نکالا ہے خیمے سے　　اور فاطمہ کا کوئی نہ رہا وامصیبتاہ
بھوکی پیاسی آہ سکینہ تڑپ تڑپ　　چلاتی تھی کہ آہ اخا وامصیبتاہ
عابد کو قید کر کے دیے لاکھ لاکھ دُکھ　　اس پر بھی عزم قتل کیا وامصیبتاہ
بے یار اور بے کس و بے برگ و بے نوا　　شہروں میں اپنا گشت ہوا وامصیبتاہ

مدینہ منورہ میں واقعۂ ہائلۂ کربلا کی خبریں پہنچ چکیں تھیں اور جب یہ ستم رسیدہ قافلہ شہر میں داخل ہوا تو اس قافلہ کو دیکھنے کے لیے تمام اہل مدینہ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ اور حضرت محمد بن حنفیہ اپنے گھروں سے نکل پڑے حضرت ام لقمان بنت عقیل بن ابی طالب اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ روتی ہوئی نکلیں اور کہتی تھیں ؎

ماذا تقولون ان قال النبی لکم　　ماذا فعلتم وانتم اٰخر الامم

لوگو کیا جواب دو گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھیں گے تم نے نبی آخر الزماں کی آخری امت ہو کر

بعترتی وباھلی بعد مفتقدی　　منھم اساری ومنھم خرجوا بدم

میری عترت اور میرے اہل بیت کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کیا ان میں سے کچھ قیدی بنائے اور کچھ خاک و خون میں تڑپائے۔

ماکان ھذا اخبراتی اذ نصحت لکم　　ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحم

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کیا میرے وعظ و نصیحت کی یہ جزا تھی کہ میری قرابت کے ساتھ برائی کرو۔
(البدایہ ص۱۹۸ ج۸ طبری ص۲۶۸ ج۶ نور الابصار ص۲۰۲)

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے فرمایا جن لوگوں نے اولادِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے اور ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ام المومنین سیدہ زینب اور دوسری عورتوں سے مل کر اس قدر روئیں کہ بیہوش ہوگئیں۔ سب نے گھروں میں جانے کو کہا، سیدنا زین العابدین نے فرمایا اباجان کی وصیت تھی کہ جب کبھی مدینہ پہنچو سب سے پہلے نانا جان کے روضۂ اقدس پر جانا چنانچہ یہ قافلہ سیدھا روضۂ رسول اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوا۔ حضرت زین العابدین جو ابھی تک صبر و ضبط کا پیکر بنے ہوئے خاموش تھے۔ جوں ہی ان کی نظر قبر انور پر پڑی اور ابھی اتنا ہی کہا تھا نانا جان اپنے نواسے حسین کا سلام قبول کیجئے کہ ان کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ اس درد کے ساتھ روئے اور آنکھوں دیکھے حالات بیان کرنے شروع کیے کہ کہرام برپا ہوگیا اور قیامت قائم ہوگئی۔ انہوں نے کہا نانا جان جسے کندھوں پر بٹھاتے تھے جسے پھولوں طرح سونگھتے تھے جسے چوما کرتے تھے ظالم یزیدیوں نے اسے تلواروں، نیزوں اور تیروں سے چھلنی کیا۔ اس کا سر جسم سے جدا کیا نانا! آپ کی امت نے آپ کی اولاد کو انتہائی بے کسی کی حالت میں بھوکا پیاسا شہید کیا۔ ہمارے خیموں کو جلایا۔ ہمارا مال و اسباب سب لوٹ لیا۔ آپ کی بیٹیوں کو بے پردہ کیا۔ ان کی چادریں تک اتار لیں اور پھر قیدی بنا کے اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا اور شہروں بازاروں میں در بدر پھرا کے ان کی تذلیل و توہین کی مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ کی نسل منقطع ہو جائے۔ میرے ہاتھوں، پیروں اور گردن میں طوق ڈالے شہداء کے سروں کو نیزوں کے اوپر چڑھا کر گلی کوچوں میں پھرایا۔ ہمیں ابن مرجانہ اور یزید کے سامنے بھرے دربار میں کھڑا کیا۔ آپ کی آل و اولاد کی سخت ہتک اور تذلیل کی گئی۔ اب ہم بے یار و مددگار شکستہ و غم زدہ حالت میں سب کچھ لٹا کے آئے ہیں ؎

نانا تمہارے پاس کریں کیا بیان ہم — اعدا کے ہاتھ سے ہوئے ہم پر ہیں کیا ستم
کیسے ذلیل و خوار کئے آلِ مصطفیٰ — رسوا کیا جہاں میں ہمیں وامصیبتاہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

وہاں سے یہ لوگ خاتون جنت دختر رسول مادر امام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی قبر اطہر پر بقیع شریف میں گئے اور وہاں بھی حال غم کہا۔

پھر یہ لوگ اپنے گھروں میں آئے تو زنان بنی ہاشم نے وہ گریہ و نوحہ کیا کہ عبدالملک بن ابی الحارث السلمی کہتا ہے :۔ فلم اسمع واللہ واعیۃ قط مثل واعیۃ نساء بنی ھاشم فی دورھن علی الحسین۔

خدا کی قسم! میں نے ہرگز ایسا رونا چلانا نہیں سُنا جیسا اس دن بنی ہاشم کی عورتیں اپنے گھروں میں حسین پر روئیں۔ (طبری ص ۲۶۸/۶)

سیدہ زینب کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر کو جب ان کے دونوں فرزندوں کی شہادت کی خبر ملی تو اُن کے بعض غلام اور احباب تعزیت کے لیے آئے ان کے ایک آزاد غلام ابوالسلاس نے کہا یہ مصیبت ہم پر حسین نے ڈالی۔ حضرت عبداللہ نے ایک جوتا کھینچ کر اس کو مارا اور کہا او بدذات کے بچے! تو حسین کی نسبت ایسا کلمہ کہتا ہے؟ خدا کی قسم! اگر میں بھی وہاں ہوتا تو میں بھی اپنی جان ان پر فدا کرتا۔ اپنے دونوں فرزندوں کی مصیبت کو میں مصیبت نہیں سمجھتا انہوں نے میرے بھائی، میرے ابن عم کی رفاقت میں صبر و رضا کے ساتھ اپنی جانیں قربان کیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے شہادت حسین اور غم حسین میں ہمیں بھی شریک کیا اگر ان کی نصرت و حمایت میرے ہاتھ سے نہ ہوئی تو میرے بچوں سے تو ہوئی۔ (طبری ص ۲۶۸/۶ ابن اثیر ص ۳۷/۴)

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کی واقعہ کربلا کے بعد یہی کیفیت و حالت رہی کہ آپ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت کرتے جب افطار کے وقت کھانا پانی سامنے آتا تو فرماتے کہ میرے باپ اور بھائی بھوکے پیاسے شہید ہوئے افسوس! یہ کھانا پانی ان کو نہ ملا اور رونے لگتے یہاں تک کہ بہ مشکل چند لقمے کھاتے اور چند گھونٹ پانی پیتے ان میں بھی آپ کے آنسو مل جاتے آنکھوں سے کربلا کا تصور اور دل سے باپ بھائیوں کی یاد کبھی محو نہ ہوئی عمر بھر آنکھیں اشک بار رہیں اگر کوئی صبر کرنے کو کہتا تو فرماتے ؎

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

شدہ ہم چو ابر باراں ہمہ گریہ خندہ من
نہ تواں غم وطرب را زہم امتیاز کردن

حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کسی نبی کے فرزند نے حضرت امام حسین اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہما کا سا صدمہ نہیں اٹھایا ہو گا یہ انہیں کا صبر و استقلال تھا جو خاص عطائے الٰہی تھا، کسی باہمت کا ذکر ہی کیا۔ اس واقعۂ جاں کاہ اور صدمۂ جاں فرسا کے پوری طرح بیان کی زبان و قلم میں بھی تاب نہیں ؎

آہ ایں چہ حالت ست کہ عالم خراب شد — بحر زلال آل محمد سراب شد
از یاد کربلا دل ما بے قرار گشت — وز داغ ابتلا جگر ما کباب شد
روئے کہ بود بوسہ گہ حضرت رسولؐ — در خاک شد فتادہ زخونش خضاب شد

تعداد شہدائے اہل بیت اطہار اور اعوان وانصار

حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے اعزا و اقربا اور اعوان وانصار جو آپ کے ساتھ کربلا میں کشتۂ تیغ ظلم و جفا ہوئے۔ ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض نے ستر، بہتر[۲]، اناسی[۹] اور بیاسی[۸۲] اور بعض نے اس سے بھی زیادہ تبلائے ہیں ان میں اہل بیت اطہار کی تعداد اور اسمائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں:۔

تاج دار کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ،

ابو الفضل حضرت عباس علم دار، حضرت ابوبکر، ان کو عبداللہ بھی کہتے تھے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم حضرت امام کے اخیافی بھائی۔ بعض نے حضرت محمد بن علی کا نام بھی لکھا ہے۔

حضرت قاسم۔ حضرت عبداللہ۔ حضرت ابوبکر۔ حضرت عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم۔ حضرت امام کے بھتیجے اور بعض نے حضرت عثمان بن حسن کو بھی لکھا ہے۔

حضرت محمد۔ حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہم حضرت امام کے بھانجے۔

حضرت عبداللہ۔ حضرت عبدالرحمٰن۔ حضرت جعفر بن عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہم

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اور حضرت مسلم جو پہلے کوفہ میں اپنے دونوں فرزندوں محمد و ابراہیم کے ساتھ شہید ہوئے۔
حضرت امام کے چچازاد بھائی اور ان کے فرزند۔ بعض نے حضرت مسلم اور عون کو بھی
لکھا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہم (ابن چچازاد)
حضرت علی اکبر۔ حضرت علی اصغر بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم (بیٹے) سلام ہو
کربلا کے ان عظیم شہیدوں پر جن کا مقدس خون شجر اسلام کی تازگی اور ملت اسلامیہ
کی کتاب حیات کا عنوان بنا ؂

شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے

تعدادِ اسیران کربلا

حضرت امام زین العابدین علی اوسط۔ حضرت عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی
اللہ عنہم حضرت امام کے فرزند۔ بعض نے حضرت عمرو بن حسن لکھا ہے جو درست
نہیں معلوم ہوتا۔

حضرت محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم (بھتیجے)
حضرت زینب و حضرت ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم (بہنیں)
حضرت فاطمہ و حضرت سکینہ بنت حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم (بیٹیاں)
حضرت شہربانو بنت یزدجرد بن شہریار جو شاہ فارس کسریٰ کی پوتی تھیں۔ (بیوی)
حضرت رباب بنت امراء القیس بن عدی۔ (بیوی)

حضرت امام رضی اللہ عنہ کی زوجۂ محترمہ حضرت رباب جو حضرت سکینہ کی والدہ ہیں حضرت
امام ان سے بہت محبت رکھتے تھے۔ چناں چہ حضرت سکینہ فرمایا کرتی تھیں کہ ایک مرتبہ
میرے چچا حضرت امام حسن میری والدہ کے معاملے میں میرے والد حضرت حسین پر خفا ہوئے
تو میرے والد نے ان سے کہا ؂

لعمرك انني لاحب دارا　　　تکون بها سكينة والرباب

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

تمہاری جان کی قسم! میں اس گھر کو بھی محبوب رکھتا ہوں جس میں سکینہ اور رباب ہوں۔

احبھما و ابذل جل مالی ولیس لعاتب عندی عتاب

میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں اور ان پر اپنا سارا مال خرچ کرتا ہوں اور کسی ملامت و عتاب کرنے والے کا عتاب و ملامت میرے نزدیک عتاب نہیں ہے۔

حضرت امام رضی اللہ عنہ کی یہ زوجۂ محترمہ حضرت رباب نہایت نیک اور صالحہ تھیں حضرت امام کی شہادت کے بعد کچھ لوگوں نے ان کو پیغام نکاح بھیجا تو انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بننے کے بعد کسی اور کی بہو نہیں بننا چاہتی۔ حضرت امام کی شہادت کا ان کو بہت صدمہ ہوا چنانچہ انہوں نے آپ کی شہادت کے بعد چند اشعار بطور مرثیہ کہے ۔

ان الذی کان نورا یستضاء بہ بکربلاء قتیل غیر مدفون

بے شک وہ حضرت امام جو سراپا نور تھے اور ان سے روشنی حاصل کی جاتی تھی وہ کربلا میں قتل ہو کر بے گور و کفن پڑے تھے۔

سبط النبی جزاک اللہ صالحۃ عنا وجنبت خسران الموازین

اے فرزند نبی اللہ آپ کو بہت اچھی جزا دے ہماری طرف سے اور میزان کے نقصان سے دور رکھے۔

قد کنت لی جبلا صعبا الوذ بہ وکنت تصحبنا بالرحم والدین

بے شک میرے لیے آپ کی ذات ایک ایسے پہاڑ کی مانند تھی جس میں میں پناہ حاصل کرتی تھی اور آپ بڑی بھلائی اور رحمت و محبّت کے ساتھ ہمارے ساتھ صحبت رکھتے تھے۔

من للیتامی ومن للسائلین ومن یعنی ویاوی الیہ کل مسکین

اب یتیموں اور سائلوں کے لیے کون ہے جس کے پاس ہر مسکین و غریب کو پناہ ملے گی۔

واللہ لا ابتغی صھرا بصھرکم حتّٰی اغیب بین الرمل والطین

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

خدا کی قسم! آپ کی قرابت کے بعد اب میں کوئی قرابت نہ ڈھونڈوں گی یعنی دوسرا شوہر نہ کروں گی یہاں تک کہ ریت اور مٹی میں غائب کر دی جاؤں یعنی مرجاؤں۔

واقعۂ کربلا کے بعد حضرت سیدہ رباب ایک برس زندہ رہیں اور اس مدت میں کبھی سایہ میں نہیں بیٹھیں۔ (نور الابصار ص ۱۹۲)

اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سال بھر کربلا میں رہیں اور پھر مدینہ منورہ تشریف لائیں اور اپنے شوہر حضرت امام حسین کے غم اور فراق میں وفات پا گئیں رضی اللہ عنہا۔

یزیدی مقتولین کی تعداد

اگرچہ طبری اور ابن اثیر میں ان کی تعداد اٹھاسی ۸۸ لکھی ہے مگر یہ روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ اس لیے کہ مختصر طبری میں نہایت وثوق کے ساتھ لکھا ہے کہ مخالفین کے سیکڑوں قتل ہوئے۔ ایک حضرت حُر ہی نے پہلے حملہ میں چالیس یزیدیوں کو مارا اسی طرح دوسرے ہاشمی جوانوں اور فاتح خیبر کے شیر دل بہادروں اور مظہر ہمت و جرأت رسول، راکب دوش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین نے سیکڑوں ملعونوں کو واصل بہ جہنم کیا۔ واللہ اعلم۔

مدفن سرِ انور

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کے مدفن میں اختلاف ہے علامہ قرطبی اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ طیبہ روانہ کیا اور مدینہ طیبہ میں سر انور کی تجہیز و تکفین کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ زہرا یا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ امامیہ کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے چالیس روز کے بعد کربلا میں آکر جسد مبارک سے ملا کر دفن کیا۔

بعض کہتے ہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ "حسین کے سر کو شہروں میں پھراؤ" پھرانے والے جب عسقلان پہنچے تو وہاں کے امیر نے اُن سے لے کر دفن کر دیا۔ جب عسقلان پر فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو طلائع بن رزیک جس کو صالح کہتے ہیں نائب مصر نے تیس ہزار دینار دے کر فرنگیوں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

سے سر انور لینے کی اجازت حاصل کی اور ننگے پیر وہاں سے مع اپنے سپاہ و خدام کے مورخہ ۸ رجمادی الآخر ۵۴۸ھ بروز اتوار مصر میں لایا اس وقت بھی سر انور کا خون تازہ تھا اور اس سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی۔ پھر اس نے سبز حریر کی تھیلی میں آبنوس کی کرسی پر رکھ کر اس کے ہم وزن مشک و عنبر اور خوشبو اس کے نیچے اور ارد گرد رکھوا کر اس پر مشہد حسینی بنوایا چنانچہ قریب خان خلیلی کے مشہد حسینی مشہور ہے۔ شیخ شہاب الدین بن الطلبی حنفی فرماتے ہیں کہ میں نے مشہد میں سر مبارک کی زیارت کی مگر میں اس میں متردد اور متوقف تھا کہ مبارک اس مقام پر ہے یا نہیں؟ اچانک مجھ کو نیند آگئی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بہ صورت نقیب سر مبارک کے پاس سے نکلا اور حضور پرنور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرہ نبویہ میں گیا اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ احمد بن حلبی اور عبدالوہاب نے آپ کے بیٹے حسین کے سر مبارک کے مدفن کی زیارت کی ہے آپ نے فرمایا اللّٰھم تقبل منھما واغفرلھما اے اللہ ان دونوں کی زیارت کو قبول فرما اور ان دونوں کو بخش دے۔ شیخ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ اس دن سے میرا یقین ہو گیا کہ حضرت امام کا سر انور یہیں ہے پھر میں نے مرتے دم تک سر مکرم کی زیارت نہیں چھوڑی۔ (طبقات الاولیاء للشعرانی)

شیخ عبدالفتاح بن ابی بکر بن احمد شافعی خلوتی اپنے رسالہ نور العین میں فرماتے ہیں۔ کہ خاتمۃ الحفاظ والمحدثین شیخ الاسلام والمسلمین نجم الدین غیطی رضی اللہ عنہ نے شیخ الاسلام شمس الدین لقانی سے جو اپنے وقت کے شیخ الشیوخ مالکیہ تھے نقل فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ مشہد مبارک میں سر انور کی زیارت کو حاضر ہوتے اور فرماتے کہ حضرت امام کا سر انور اسی مقام پر ہے۔

حضرت شیخ خلیل ابی الحسن تمارسی رحمۃ اللہ علیہ سر انور کی زیارت کو تشریف لایا کرتے تھے جب ضریح مبارک کے پاس آتے تو کہتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ جواب سنتے وعلیك السلام یا ابا الحسن۔ ایک دن سلام کا جواب نہ پایا۔ حیران ہوئے اور زیارت کر کے واپس آگئے دوسرے روز پھر حاضر ہو کر سلام کیا تو جواب پایا۔ عرض کیا یا سیدی کل جواب سے مشرف نہ ہوا کیا وجہ تھی؟ فرمایا اے ابوالحسن کل اس وقت میں اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اور باتوں میں مشغول تھا۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ اکابر صوفیا، اہل کشف صوفیا اسی کے قائل ہیں کہ حضرت امام کا سر انور اسی مقام پر ہے۔ شیخ کریم الدین خلوتی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اس مقام کی زیارت کی ہے۔

کرامت سرِ انور

سلطان ملک ناصر کو اس کے چند ماتحتوں نے ایک شخص کے متعلق اطلاع دی کہ یہ شخص جانتا ہے کہ اس محل میں مال وزر کہاں دفن ہے مگر یہ بتاتا نہیں سلطان نے اس کی تعذیب کا حکم دیا متولیِ تعذیب نے اس کو پکڑا اور اس کے سر پر خنافس لگائی اور اس پر قرمز باندھا۔[1] یہ سخت ترین عقوبت اور سزا ہے اس کو چند منٹ بھی انسان برداشت نہیں کرسکتا۔ دماغ پھٹنے لگتا ہے اور کچھ دیر کے بعد آدمی مرجاتا ہے۔ یہ سزا اس کو کئی مرتبہ دی گئی مگر اس کو کچھ اثر نہ ہوا بلکہ ہر مرتبہ خنافس مرجاتے تھے۔ لوگوں نے اس سے اس کا سبب پوچھا اس نے بتایا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک یہاں مصر میں آیا تھا میں نے اس کو عقیدت سے اپنے سر پر اٹھایا تھا یہ اسی کی برکت اور کرامت ہے۔

(خطط والآثار للمقریزی)

---

[1] خنافس، خنفساء کی جمع ہے اور وہ سیاہ رنگ کا ایک کیڑا ہوتا ہے گوبر اور نجاست میں پیدا ہوتا ہے اردو میں اس کو گبریلا کہتے ہیں اس کے دو سینگ بھی ہوتے ہیں۔ قرمز چھوٹے چھوٹے چنے کے برابر سرخ رنگ کے ریشم کے مانند کیڑے ہوتے ہیں بعض جنگلوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو سوکھا کر رکھ چھوڑتے ہیں اور ضرورت کے وقت جوش دے کر سرخ رنگ بنا لیتے ہیں اور اس سے ریشم کو رنگتے ہیں اس کی دوا بھی بنتی ہے اور اس سے تیل بھی نکالتے ہیں اردو میں اس کو بیر بہوٹی کہتے ہیں اس زمانے میں چوروں، مجرموں اور ملزموں کو اعتراف جرم کے لیے یہ سزا دیتے تھے کہ سر پر نیچے وہ سیاہ رنگ کے کیڑے اور اوپر قرمز ڈال کر باندھ دیتے تھے۔ کیڑے سر کی جلد میں کاٹ کاٹ کر سوراخ کردیتے تھے۔ ان سوراخوں میں قرمز کے ٹکڑے اور ان کا تیل جاتا ہے جس سے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی تھیں یہ ایسی سخت ترین سزا ہوتی تھی کہ مجرم برداشت نہیں کرسکتا تھا اور فوراً اعتراف جرم کرلیتا تھا۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ایک روایت یہ ہے کہ سر انور یزید کے خزانہ ہی میں رہا۔ جب سلیمان بن عبدالملک کا دورِ حکومت آیا اور اس کو معلوم ہوا تو اُس نے سر انور کو منگوا کر دیکھا اس وقت اس کی ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھیں اس نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرایا۔ (تہذیب التہذیب ص ۳۵۷ ج ۲)

چناں چہ علامہ ابن حجر ہیتمی مکی روایت فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبدالملک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ ملاطفت فرمارہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ صبح اس نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے اُس کی تعبیر پوچھی انہوں نے فرمایا شاید تو نے حضرت کی آل کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے؟

قال نعم وجدت راس الحسین فی خزانۃ یزید فکسوتہ خمسۃ اثواب وصلیت علیہ مع جماعۃ من اصحابی وقبرتہ فقال لہ الحسن ہو ذلک سبب رضاہ صلی اللہ علیہ وسلم (صواعق محرقہ ص ۱۹۷)

اس نے کہا ہاں! میں نے حسین کے سر کو خزانہ یزید میں پایا تو میں نے اس کو پانچ کپڑوں کا کفن دے کر اپنے دوستوں کے ساتھ اس پر نماز پڑھ کر اس کو دفن کیا ہے۔ حضرت حسن نے اس سے کہا یہی تیرا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا سبب ہوا ہے۔

ناچیز مؤلف عرض کرتا ہے کہ سر انور کے متعلق مختلف روایات ہیں اور مختلف مقامات پر مشاہد بنے ہوئے ہیں تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان روایات اور مشاہد کا تعلق چند سروں سے ہو کیوں کہ یزید کے پاس سب شہدائے اہل بیت کے سر بھیجے گئے تھے تو کوئی سر کہیں اور کوئی کہیں دفن ہوا ہو اور نسبت حسن عقیدت کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے صرف حضرت امام حسین کی طرف کردی گئی ہو۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

واقعۂ کربلا کے بعد یزید کا کردار

حضرت امام کی شہادت کے بعد بھی یزید نے کوئی اچھا کام نہیں کیا بلکہ اس کی

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

شقاوت و بدبختی اور قساوت قلبی اس قدر زیادہ ہوگئی اور اس نے وہ گل کھلائے اور سیاہ کارنامے انجام دیے جس سے انسانیت شرم سے پسینہ پسینہ ہوجاتی ہے۔ اس کے عہد میں اعلانیہ طور پر بدکاریاں ہونے لگیں۔ چناں چہ حرام کاری یعنی زنا و لواطت، محرمات سے نکاح۔ سود اور شراب خوری عام ہوگئی العیاذ باللہ اسی وجہ سے لوگ خصوصاً اہل حجاز اس کے سخت مخالف ہوگئے اور انہوں نے اس کی بدکاریوں کی وجہ سے اس کی بیعت توڑ دی۔

چناں چہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی بالحجارۃ من السماء انہ رجل ینکح امہات الاولاد والبنات والاخوات ویشرب الخمر ویدع الصلوۃ۔ (تاریخ الخلفاء، صواعق محرقہ)

خدا کی قسم ہم لوگوں نے یزید کی بیعت اس وقت توڑ دی جب کہ ہمیں یہ خوف ہوا کہ (کہیں اس کی بدکاریوں کی وجہ سے) ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں بلاشبہ وہ ماؤں بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرتا شراب پیتا اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔

جب یزید نے دیکھا کہ اہل حرمین میرے سخت خلاف ہوگئے اور میری بیعت سے خارج ہوگئے ہیں اور ان کا خروج دوسرے علاقوں کے لوگوں کے خروج کا باعث بنے گا کیوں کہ حرمین اسلام کا مرکز اور دل ہیں اور اس طرح میرا اقتدار خطرے میں پڑجائے گا تو اس نے مسلم بن عقبہ کو بیس ہزار کا لشکر گراں دے کر مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بدبخت لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا جس کے تصور سے روح تڑپ اٹھتی ہے۔ ساکنین مدینہ منورہ ہمسایہ گان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کی انتہا کردی۔ قتل و غارت، لوٹ مار اور آبروریزی کی وہ گرم بازاری ہوئی کہ توبہ توبہ۔ اہل حرم سے یزید کی غلامی پر بہ جبر بیعت لی کہ چاہے بیچے چاہے آزاد کرے جو کہتا کہ میں خدا و رسول کے حکم پر اور کتاب و سنت کی اطاعت پر بیعت کرتا ہوں اس کو شہید کرتے چناں چہ بہت سے لوگ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور جو نہیں بھاگے ان میں سے سترہ سو مہاجرین و انصار صحابۂ کبار تابعین اور سات سو حافظ قرآن اور چھوٹے بڑے اور مستورات سب ملا کر دس ہزار کے قریب

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

شہید ہوئے ان کے گھر لوٹ لیے ظالموں نے تین روز کے لیے مدینہ طیبہ کو مباح قرار دے کر ان میں تین روز میں جس بربریت اور درندگی کا مظاہرہ کیا اس کا تفصیلاً ذکر کرنا سخت ناگوار ہے۔ مدینہ طیبہ کی رہنے والی پاک دامن عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں ان کی داڑھی کے سب بال اکھاڑ دیے اور ان کی سخت بے عزتی کی۔ اس فوج اشقیاء نے مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے گھوڑے باندھے۔ ان تین دنوں میں کوئی مسجد پاک میں نماز کے لیے نہیں آیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کبار تابعین میں سے تھے وہ مجنوں بن کر مسجد پاک میں ہی حاضر رہے۔ ظالموں نے ان کو بھی پکڑا اور مسلم بن عقبہ کے پاس لے گئے مسلم بن عقبہ نے کہا اس کی بھی گردن مارو حضرت سعید دیوانوں کی سی حرکتیں کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا یہ تو مجنوں ہے۔ اس وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا۔

انہی سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان تین دنوں میں مسجد شریف میں میرے سوا کوئی نہ تھا۔ اہل شام مسجد میں آتے اور مجھے دیکھ کر کہتے یہ بوڑھا دیوانہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نماز کے وقت روضۂ مقدسہ سے برابر اذان و اقامت اور جماعت کے ہونے کی آواز سنتا تھا۔ چناں چہ میں نے تین دن کی نمازیں اسی جماعت کی اقتدا میں ادا کیں اور کوئی میرے ساتھ نہ ہوتا تھا۔ ایک نوجوان کو اس لشکر شریر نے پکڑ لیا۔ اس کی ماں نے مسلم بن عقبہ کے پاس آکر فریاد کی اور اس کی رہائی کے لیے بہت منت سماجت کی۔ مسلم نے حکم دیا اس کے لڑکے کو لاؤ جب وہ آیا تو مسلم نے اس کی گردن مار کر اس کا سر اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ تو اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی کہ بیٹے کو لینے آئی ہے۔

جب مسلم بن عقبہ بدکردار نے اہل مدینہ کو یزید پلید کی بیعت کی بطریق مذکور دعوت دی تو کچھ لوگوں نے جان و مال کے خوف سے بیعت کر لی۔ ایک شخص قبیلۂ قریش سے تھا اُس نے بوقت بیعت یہ کہا کہ میں نے بیعت کی مگر اطاعت پر، معصیت پر نہیں۔ مسلم نے اُس کے قتل کا حکم دیا۔ جب اس کو قتل کر دیا گیا تو اس مقتول کی ماں ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ نے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

قسم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤں گی تو اس ظالم مسلم کو ضرور زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ چناں چہ جب اس ظالم نے مدینہ منورہ میں قتل وغارت کے بعد اپنا روئے بد مکہ معظمہ کی طرف کیا تاکہ وہاں جاکر عبداللہ بن زبیر اور وہاں کے ان لوگوں کا بھی کام تمام کرے جو یزید کے خلاف ہیں تو اتفاقاً راستہ میں اس پر فالج گرا اور وہ مرگیا۔ اس کی جگہ یزید پلید کے حکم کے مطابق حصین بن نمیر سکونی قائد لشکر بنا۔ مسلم کو انھوں نے وہیں دفن کر دیا۔ جب یہ لشکر بد آگے بڑھ گیا تو اس عورت کو مسلم کے مرنے کا پتہ چلا وہ چند آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی قبر پر آئی تاکہ اس کو قبر سے نکال کر جلائے اور اپنی قسم پوری کرے۔ جوں ہی قبر کھودی تو کیا دیکھا کہ ایک اژدھا اس کی گردن سے لپٹا ہوا اس کی ناک کی ہڈی پکڑے چوس رہا ہے یہ دیکھ کر سب کے سب ڈر گئے اور اس عورت سے کہنے لگے کہ خدا تعالیٰ خود ہی اس کے اعمال کی سزا اس کو دے رہا ہے اور اس نے عذاب کا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا ہے اب تو اس کو رہنے دے۔ اس عورت نے کہا نہیں خدا کی قسم میں اپنے عہد اور قسم کو ضرور پورا کروں گی اور اس کو جلا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گی۔ مجبور ہو کر سب نے کہا اچھا پھر اس کو پیروں کی طرف سے نکالنا چاہیے جب ادھر سے مٹی ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اسی طرح پیروں کی طرف بھی ایک اژدھا لپٹا ہوا ہے پھر سب نے اس عورت سے کہا اب اس کو چھوڑ دے اس کے لیے یہی عذاب کافی ہے مگر اس عورت نے نہ مانا اور وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ الٰہی تو خوب جانتا ہے کہ اس ظالم پر میرا غصہ تیری رضا کے لیے ہے مجھے یہ قدرت دے کہ میں اپنی قسم پوری کروں اور اس کو جلاؤں یہ دعا کر کے اس نے ایک لکڑی سانپ کی دم پر ماری۔ وہ گردن سے اتر کر چلا گیا پھر دوسرے سانپ کو ماری وہ بھی چلا گیا۔ چناں چہ انھوں نے مسلم کی لاش کو قبر سے نکالا اور جلا دیا۔

اس مردود مسلم بن عقبہ نے قتل وغارت اور ہتک حرمت مدینہ میں اس قدر زیادتی اور اسراف کیا کہ اس کے بعد اس کا نام ہی مُسرِف ہوگیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

من اذی مسلما فقد اذانی — جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی تو حقیقت

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ومن اذانی فقد اذی اللہ۔ (سراج منیر شرح جامع صغیر ص ۲۸/۸)

ہیں اس نے مجھے اذیت پہنچائی اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے درحقیقت اللہ کو اذیت پہنچائی۔

امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

من اذی شعرة منی فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی اللہ زاد ابو نعیم فعلیہ لعنة اللہ۔ (سراج منیر شرح جامع صغیر ص ۲۷۹/۳)

جس نے میرے ایک بال کو بھی اذیت پہنچائی اس نے حقیقت میں مجھے اذیت پہنچائی اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ ابو نعیم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

من اراد اهل المدينة بسوء اذابه الله كما يذوب الملح فی الماء (مسلم شریف ص ۴۴۵/۱)

جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پگھلائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

لا یرید احد اهل المدينة بسوء الا اذابه الله فی النار ذوب الرصاص (مسلم شریف ص ۴۴۱/۱)

جو شخص بھی اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اس کو دوزخ کی آگ میں رانگ کی طرح پگھلا دے گا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

من اخاف اهل المدينة اخافه الله زاد فی رواية يوم القيامة وفی اخرى وعليه لعنة الله وغضبه (صحیح ابن حبان سراج منیر ص ۲۸۸/۳)

جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ اس کو قیامت کے دن ڈرائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے۔

حضرت عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

من اخاف اهل المدينة ظلما اخافه الله

جو اہل مدینہ کو ظلم سے خوف زدہ کر دے اللہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لایقبل اللہ منہ یوم القیمۃ صرفا ولا عدلا (وفاء الوفاء ص۳۲ جذب القلوب ص۳۳)

اس کو خوف زدہ کردے گا اور اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے قیامت کے دن اس کی فرضی عبادت قبول ہوگی نہ نفلی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

من آذی اہل المدینۃ آذاہ اللہ وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لایقبل صرف ولا عدل۔ (سراج منیر ص۲۸۰)

جو اہل مدینہ کو اذیت دے گا اللہ اس کو اذیت دے گا اور اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے نہ اس کا فرض قبول ہوگا اور نہ نفل۔

ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جو کسی مسلمان کو اذیت پہنچائے اس نے درحقیقت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی خصوصاً اہل مدینہ کو ڈرائے اذیت پہنچائے بلکہ ان سے برائی کا ارادہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نار دوزخ میں پگھلا دے گا اور اس پر اللہ تعالے اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اور اس کی کوئی عبادت اور نیکی قبول نہیں۔ گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے کہ یزید پلید اور اس کے اعوان و انصار نے اہل بیت نبوت اور اہل مدینہ منورہ کی وہ توہین تذلیل کی اور ان کو ایسی تکلیف و اذیت پہنچائی کہ اس کے تصور ہی سے روح تڑپ اٹھتی ہے لہٰذا بلاشبہ یزید اور اس کے اعوان و نصار مستحق لعنت ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔

اِنَّ الَّذِیۡنَ یُؤۡذُوۡنَ اللّٰہَ وَرَسُوۡلَہٗ لَعَنَہُمُ اللّٰہُ فِی الدُّنۡیَا وَالۡاٰخِرَۃِ وَاَعَدَّ لَہُمۡ عَذَابًا مُّہِیۡنًا۔ (القران احزاب)

بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

انزلت فی عبداللہ بن ابی اناس معہ

یہ آیت عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

قذفوا عائشة رضی اللہ عنہا فخطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال من یعذرنی فی رجل یؤذینی (درمنثور ص۲۲ ج۵)

کے بارے میں نازل ہوئی جب کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا۔

کون میری مدد کرتا ہے اس شخص کے بارے میں جس نے (میری بیوی پر تہمت لگا کر) مجھے اذیت پہنچائی مقام غور ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجۂ محترمہ کو ستایا اُس نے اللہ و رسول کو اذیت پہنچائی اور مستحق لعنت ہوا تو یزید پلید اور اس کے اعوان و انصار نے اہل بیت نبوت اور صحابہ اور تابعین اور اہل مدینہ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ تو اس کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں جو کچھ ہوا وہ ملاحظہ فرمائیں[1]

مکہ مکرمہ پر حملہ

گزشتہ صفحات میں ذکر ہو چکا ہے کہ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کے ذریعے حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سے بیعت طلب کی تھی۔ حضرت امام حسین تو گورنر مدینہ کے بلانے پر اس کے پاس تشریف لے گئے تھے مگر حضرت عبداللہ بن زبیر گورنر کے پاس نہیں گئے تھے اور اسی رات وہاں سے ہجرت

---

[1] افسوس کہ آج کل کچھ لوگ یزید کی حمایت اور فرزند رسول امام حسین کی مخالفت کرتے ہوئے زبان و قلم دراز کرتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ الحمد للہ کہ رحمت و عنایت مصطفوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے اس ناچیز گدائے اہل بیت رسول نے اپنی کتاب "امام پاک اور یزید پلید" میں ایسے تمام اعتراضات کے مدلل و مسکت اور دندان شکن جوابات پیش کیے ہیں اور حامیان یزید کے سامنے یزید پلید کو بے نقاب کر دیا ہے۔ انشاء اللہ اس کتاب کے مطالعے سے حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے گی اور امام پاک کی عظمت و مرتبت، عزیمت و استقامت اور حق و صداقت پر یقین غیر متزلزل اور مستحکم ہو جائے گا۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

فرما کر مکہ مکرمہ میں آگئے۔ مکہ مکرمہ ہجرت کے بعد سے اب تک وہ حرم کی پناہ میں ہی سکون و طمینان کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اہل حجاز کی حرکات بد کی وجہ سے اس سے سخت متنفر ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اہل مکہ کو جمع ہونے کی دعوت دی اور ان کے سامنے ایک موثر تقریر فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

اہل عراق خصوصاً اہل کوفہ ایسے غدار و بدکار اور بدترین ہیں کہ انہوں نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ اُن کی نصرت و امداد کریں گے اور ان کو اپنا فرمانروا بنائیں گے مگر اُن غداروں نے ایسا نہ کیا بلکہ وہ حکومت یزید کے ساتھ مل گئے اور پھر خود فرزند رسول سے لڑنے کے لیے میدان میں آگئے حضرت حسین نے ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دی اور دشمن کے انبوہ کثیر کے سامنے گردن اطاعت نہ جھکائی خدا تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور اُن کے قاتلوں کو ذلیل کرے۔ حضرت حسین کے ساتھ جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہم ان لوگوں سے کسی طرح مطمئن ہو سکتے ہیں؟ اور ان کی اطاعت قبول کر سکتے ہیں ہرگز نہیں؟ خدا کی قسم! بلاشبہ انہوں نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو قائم اللیل اور صائم النہار تھا جو ان سے ان امور (حکومت) کا زیادہ حق دار تھا اور اپنے دین اور فضیلت و بزرگی میں اُن سے بہت زیادہ بہتر تھا۔ خدا کی قسم! وہ قرآن کے بدلے گمراہی پھیلانے والا نہ تھا۔ اللہ تعالےٰ کے خوف سے اس کے گریہ و بکا کی کوئی انتہا نہ تھی وہ روزوں کو شراب کے پینے سے نہیں بدلا کرتا تھا اور نہ اس کی مجلس میں ذکر الٰہی کی بجائے شکاری کتوں کا ذکر ہوتا تھا۔ (یہ باتیں ابن زبیر نے یزید کے متعلق کہیں تھیں۔) پس عنقریب یہ (یزیدی) لوگ جہنم کی وادی غی میں جائیں گے۔ (ابن اثیر ص ۴۴/۴۔ طبری ص ۲۶۳/۶)

اس تقریر کے بعد لوگ ان کی طرف دوڑے اور کہا کہ آپ اپنی بیعت کا اعلان کریں۔ چناں چہ انہوں نے اعلان کر دیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سب لوگوں نے سوائے حضرت ابن عباس اور محمد بن حنفیہ کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ انہوں نے یزید کے تمام عاملوں کو مکہ و مدینہ سے نکال دیا اور حجاز مقدس سے یزید کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یزید کو ان حالات کی خبر ہوئی تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا اس

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

لشکر نے مدینہ منورہ میں جو کچھ کیا وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔
اب اس لشکر شریر نے حصین بن نمیر کی قیادت میں مکہ مکرمہ پہنچ کر حملہ کیا اور چونسٹھ[۶۴] روز تک برابر مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر کے لوگوں کو قتل کرتے رہے اور منجنیقوں سے اس قدر سنگ باری کی کہ صحن کعبہ معظمہ کو پتھروں سے بھر دیا۔

نصبوا المجانیق علی الکعبۃ ورموھا حتّٰی بالنار فاحترق جدار البیت

انہوں نے کعبۃ اللہ پر منجنیقیں نصب کر دیں اور کعبہ پر سنگ باری کی یہاں تک کہ آگ لگ گئی اور کعبۃ اللہ کا غلاف اور دیواریں جل گئیں۔ سنگ باری کرتے وقت وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے ؎

خطارہ مثل الفنیق المزبد نرمی بھا جدار ان ھذا المسجد

یہ منجنیق مثل موٹے کف دار اونٹ کے ہے جس سے ہم اس مسجد کی دیواروں پر سنگ باری کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس سنگ باری سے مسجد الحرام کے ستون ٹوٹ گئے اور دیواریں شکستہ ہو گئیں۔

عمرو بن حوطۃ السدوسی یہ شعر پڑھتا تھا ؎

کیف تری صنیع ام فروہ تاخذھم بین الصفا والمروہ

ذرا ام فروہ یعنی منجنیق کو دیکھو کہ وہ کیسے صفا و مروہ کے درمیان لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ (البدایہ والنھایہ ص ۲۲۵/۸ - طبری ص ۱۴/۷ - ابن اثیر ص ۴۹/۴)

غرض ان بے دینوں لعینوں نے انتہائی بربریت اور درندگی کا مظاہرہ کیا۔ حرم شریف کے باشندے ڈھائی ماہ تک سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ کعبہ معظمہ کئی روز تک بے لباس رہا۔ اس کی چھت جل گئی۔ دیواریں شکستہ ہو گئیں۔ یہ انتہائی شرمناک و المناک اور دل سوز واقعات ربیع الاول ۶۴ھ کے شروع میں ہوئے اور اسی ماہ کے آخر میں جب کہ ابھی کعبہ میں جنگ جاری تھی۔ بدبخت و بدنصیب یزید پلید کے مرنے کی خبر آئی۔ جوں ہی اس کی ہلاکت کی خبر آئی حضرت عبد اللہ بن زبیر نے بآواز پکارا۔
اے شامیو! تمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا ہے۔ یزید کی موت کی خبر سے اہل شام کی ہمتیں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

چھوٹ گئیں اور حوصلے پست ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے انصار کے حوصلے بلند ہو گئے تھے چناں چہ وہ شامیوں پر ٹوٹ پڑے اور شامی لشکر خائب و خاسر ہو کر بھاگا اور اہل مکہ کو اس لشکر شریر کے ظلم و شر سے نجات ملی۔

بدبخت یزید پلید نے تقریباً ساڑھے تین برس تک حکومت کی اور اڑتیس [۳۸] یا انتالیس [۳۹] برس کی عمر میں قریہ حُوارین میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی موت پر ابن عراوہ نے یہ اشعار کہے ؎

ابنی امیۃ ان اخر ملککم جسدا بحوارین ثم مقیم

اے بنی امیہ تمہارے آخری بادشاہ کی لاش حوارین میں پڑی ہوئی ہے۔

طرقت منیتہ وعند وسادہ کوب وزق راعف مرثوم

اس کی موت نے ایسے وقت آکر اس کو مارا جب کہ اس کے تکیہ کے پاس کورہ اور سربہ مہر لبالب مشکیزۂ شراب بھرا رکھا ہوا تھا۔

ومرفۃ تبکی علی نشوانہ بالضبح تقعد تارۃ و تقوم

اور ایک مغنیہ سارنگی لیے ہوئے اس نشہ سے مست ہونے والے پر رو رہی تھی وہ کبھی بیٹھ جاتی اور کبھی کھڑی ہو جاتی تھی۔ (طبری ص ۴۳ ج ۷ ابن اثیر ص ۶۱ ج ۴)

قریۂ حوارین سے یزید کی لاش کو دمشق میں لایا گیا۔ اس کے بیٹے خالد یا معاویہ نے س کی نماز جنازہ پڑھائی اور مقبرہ باب الصغیر میں دفن کیا اور اس کی قبر مزبلہ شہر ہے ؎

جب سرِ محشر وہ پوچھیں گے بُلا کے سامنے
کیا جوابِ جرم دو گے تم خدا کے سامنے

معاویۂ اصغر

یزید کی ہلاکت کے بعد لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ نوجوان فطرتاً نرم دل، نیک سیرت اور دین و مذہب کا پابند تھا۔ چوں کہ یہ بنی امیہ کی بدعنوانیوں سے بیزار اور بد دل تھا اس لیے اس نے لوگوں کے درمیان ایک خطبہ دیا کہ "میں حکومت

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

سنبھالنے کی قوت اور اہلیت نہیں رکھتا اور مجھے تم میں کوئی حضرت عمر بن خطاب سا نظر نہیں آتا جس کو تم پر خلیفہ مقرر کردوں اور نہ ہی اہل شوریٰ نظر آتے ہیں کہ یہ معاملہ ان پر چھوڑ دوں لہٰذا تم اپنے معاملات کو خود بہتر سمجھتے ہو جسے چاہو اپنے لیے منتخب کرلو یہ کہہ کر وہ خلافت سے دست بردار ہوگیا اور اپنے مکان میں چلا گیا اور بیمار ہوگیا۔ چالیس روز کے بعد اس مکان سے اس کی لاش ہی نکلی بعض کہتے ہیں اس کو زہر دے دیا گیا۔

(طبری صہ ۲۴/۷ ابن اثیر صہ ۵۱/۴)

قارئین کرام

فرزند رسول دل بند بتول سید الشہدا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے عزیزوں دوستوں کی المناک لرزہ خیز مظلومانہ شہادت اور بدبخت و نامراد یزید پلید اور اس کے خبیث و شریر لشکر کے جور و جفا ظلم و ستم اور سیاہ کاریوں کے واقعات معتبر کتب کے حوالہ جات اور صحیح روایات کے ساتھ اب تک کے صفحات میں ذکر کیے گئے۔ چشم حقیقت بیں نے دیکھ لیا اور ہر ذی عقل و شعور نے جان لیا ہوگا کہ تاریخ انسانیت میں یہ واحد ایسا واقعہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ خود کو مسلمان کہلانے والوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے صرف پچاس برس گزر جانے پر ہی نبی کی خاص اولاد سے جس طرح بہیمانہ اور سفاکانہ سلوک کیا اور ظلم و جفا کی جو انتہا کی شاید ظلم کی پیشانی بھی اس سے عرق آلود ہوگی کوفی اور شامی یزیدیوں نے رہتی دنیا تک لعنت و ملامت اور مذمت ہی اپنے لیے جمع کی۔ یہاں تک کہ لفظ یزید داخل دشنام ہوگیا اور یزیدیت سرکشی و نافرمانی اور ظلم و استبداد کا عنوان ہوگئی۔ آج یزید کے کسی حامی کی بھی یہ جرأت نہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کا نام یزید و زیاد یا شمر رکھے۔ اس کے برعکس قرآن و حدیث اور تاریخ و سیر کی روشنی میں پیارے مصطفیٰ کے نور نظر، مرتضیٰ کے لخت جگر، مجتبیٰ کے دل بر، سیدہ زہرا کے پسر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے علم و عمل اخلاق و کردار، سیرت و تعلیمات کے ہر پہلو کو دیکھیے، محاسن ہی محاسن نظر آتے ہیں اور کیوں نہ ہوں جبکہ مرتبت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا "حسین مجھ سے ہے اور

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

میں حسین سے ہوں "یعنی حسین میرے اہل بیت سے ہے میرے خون سے ہے میرے حوالے اور نسبت سے ہے اور میں جمال و کمال، علم و فضل اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے حسین سے ظاہر ہوں گویا حسین مظہر رسول ہیں۔ امام پاک نے میدان کربلا میں اپنی حیثیت و شان اور عظمت و مرتبت ہی کے شایان کردار کا مظاہرہ کیا۔ وہ دین کے پاسبان تھے۔ ناموس رسالت کے نگہ بان تھے۔ وہ کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتے یا مرد میدان نہ بنتے تو دین کے اصول مٹ جاتے۔ عظمت و شوکتِ اسلام ختم ہو جاتی، عزیمت و استقامت کی مثال قائم نہ ہوتی۔ وہی دین جس کے لیے نبی آخرالزمان نے شدید ترین تکالیف و مصائب و آلام برداشت کیے، صحابہ کرام خلفائے راشدین نے اپنی زندگیاں جس دین کے لیے وقف کیں اب اس دین کو بدلا اور مٹایا جا رہا تھا۔ یہ دین رسول اللہ کے گھرانے سے امت کو عطا ہوا، اس گھرانے پر اس دین کے تحفظ کی ذمہ داری دوسروں کی نسبت زیادہ عائد ہوتی تھی چناں چہ حضرت امام نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ وہ کربلا میں حق و صداقت اور دین کے لیے سینہ سپر ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان کی مدد کی، انہیں ثابت قدمی اور استقامت و استقلال سے نوازا۔ ظلم و جفا کی آندھیاں بھی آپ کے پائے ثبات میں جنبش پیدا نہیں کر سکیں صرف اس لیے کہ امام پاک کے قلب و لسان میں ہم آہنگی تھی۔ حق پر ان کا ایمان مستحکم تھا وہ ظاہر باطنی آلائشوں اور رذائل دنیوی سے پاک اور مبرا تھے پھر وہ کیسے باطل کے سامنے جھک سکتے تھے۔ کیوں کہ مردان حق کے سر کٹ تو سکتے ہیں باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ حضرت امام نے رضائے الٰہی کا بلند مرتبہ و مقام حاصل کیا۔ ایثار و وفا اور صبر و رضا کا وہ مظاہرہ کیا کہ حسینیت سربلندیوں اور سرفرازیوں کا عنوان ہو گئی اور نام حسین ہر کسی کے لیے قرار جان ہو گیا اور محبتِ حسین جان ایمان ہو گئی۔ آج لاکھوں محبان حسین ہیں۔ عاشقان امام ہیں، غلامانِ آلِ رسول ہیں۔ امام نے شہید ہو کر جو فتح و کامیابی حاصل کی اور حق کا جو بول بالا کیا اس نے صرف یزید ہی کے نہیں قیامت تک ہر فاسق و فاجر اور ظالم و جابر کے فسق و فجور، ظلم و جبر اور سرکشی و نافرمانی کی راہیں مسدود کر دیں اور پرچم حق کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا اور امت مسلمہ کو باطل کے خلاف ڈٹ جانے اور سب کچھ قربان کر دینے کا وہ بے مثال لازوال جذبہ عطا کر

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

دیا جو اہل حق کا امتیاز اور افتخار ہے۔ اسی لیے دنیا میں ہر طرف امام پاک کو خراجِ محبت پیش کیا جا رہا ہے، ان کی یاد منائی جاتی ہے اور ان کی بارگاہ میں سلام و رحمت کے پھول ہدیہ کیے جاتے ہیں ؎

تو وہ امام، امامت کی آبرو تجھ سے　　حسین تجھ کو امامت سلام کہتی ہے

حشر تک زندہ ہے تیرا نام اے ابن رسول
کر گیا ہے تو، وہ احسان نوعِ انسانی کے ساتھ

سلطانِ کربلا کو ہمارا سلام ہو　　جانانِ مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو
وہ بھوک و پیاس وہ فرض جہاد حق　　سرچشمۂ رضا کو ہمارا سلام ہو
امت کے واسطے جو اٹھائی ہنسی خوشی　　اس لذت جفا کو ہمارا سلام ہو
عباس نام دار ہیں زخموں سے چور چور　　اس پیکر رضا کو ہمارا سلام ہو
اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہیں شہید　　ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو
اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہوں　　معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو
بھائی بھتیجے بھانجے سب گئے شہید　　ہر لعل بے بہا کو ہمارا سلام ہو
تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی کی　　برہان اولیاء کو ہمارا سلام ہو
ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے　　امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو

ناصر ولائے شاہ میں کہتے ہیں بار بار
امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

قاتلین کا انجام

علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آکر قاتلین کے شریک ہوئے یا اس واقعہ شہادت سے راضی وخوش ہوئے عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی وہ اپنے اعمال بد کی سزا کو پہنچے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے دنیا ہی میں عذاب الٰہی نہ دیکھا اور سزا نہ پائی ہو۔ ان میں سے بعض تو بری طرح مارے گئے بعض اندھے اور روسیاہ ہو گئے۔ بعض مبروص اور کوڑھے ہو گئے اور بعض سخت عبرتناک بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔

حضرت عامر بن سعد البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے فرمایا اے عامر، میرے صحابی براء ابن عازب کے پاس جا کر میرا سلام کہہ اور خبر دے کہ جنہوں نے میرے بیٹے حسین کو قتل کیا ہے وہ دوزخی ہیں۔ پس میں نے براء ابن عازب کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب بیان کیا انہوں نے سن کر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ (مفتاح النجا۔ سعادت الکونین ص ۱۵۴)

علامہ امام حافظ ابن حجر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قاتل الحسین فی تابوت من نار علیہ نصف عذاب اهل الدنیا۔	حسین کا قاتل ایک آگ کے تابوت میں ہوگا اس پر اہل دنیا کے نصف کا عذاب ہوگا"
(نور الابصار ص ۱۵۲ اسعاف الراغبین ص ۲۱۰)	

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:۔

اوحی اللہ تعالی الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی قتلت بیحیی	اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن ذکریا کے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

بن زکریا سبعین الفا وانی قاتل بابن ابنتك سبعین الفا وسبعین الفا۔

عوض ستر ہزار افراد مارے اور اے حبیب تیرے نواسے کے عوض ستر ہزار اور ستر ہزار مارنے والا ہوں۔

(المستدرک ص ۱۷۸/۳، تہذیب التہذیب ص ۳۵۴/۲، البدایہ والنہایہ ص ۲۰۱/۸، صواعق محرقہ ص ۱۹۰)

حضرت ابو الشیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں چند آدمی بیٹھے ہوئے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت حسین کے قتل میں جس کسی نے بھی قاتلوں کی اعانت کی وہ مرنے سے پہلے ضرور کسی نہ کسی آفت و بلا میں مبتلا ہوا۔

فقال شیخ انا اعنت وما اصابنی شئ فقام لیصلح السراج فاخذته النار فجعل ینادی النار النار وانغمس فی الفرات ومع ذلك فلو یزل به حتّٰی مات۔

(صواعق محرقہ ص ۱۹۳)

تو ایک بوڑھا بولا میں نے بھی قاتلوں کی اعانت کی تھی مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا یہ کہہ کر وہ چراغ کی بتی درست کرنے کے لیے اٹھا تو اس کو آگ لگ گئی وہ زور زور سے پکارنے لگا آگ آگ مگر کسی نے نہ سنی یہاں تک کہ اس نے فرات میں غوطہ لگایا پھر بھی آگ نہ بجھی اور وہ اسی آگ میں جل کر مر گیا۔

اسی قسم کی ایک اور روایت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی اور سبط ابن الجوزی نے بھی سُدی سے نقل فرمائی ہے۔

انہی سبط ابن الجوزی نے امام واقدی سے روایت فرمائی ہے کہ ایک بوڑھا جو لشکر یزید میں تھا مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا وہ اندھا ہو گیا اس سے اس کا سبب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔

حاسرا عن ذراعیه وبیده سیف وبین یدیه نطع وعلیه عشرة ممن قتل الحسین

کہ آپ غضب ناک حالت میں آستین چڑھائے ہوئے شمشیر بکف کھڑے ہیں اور آپ کے آگے فرش چرمی بچھا ہوا ہے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

من يوحين ثم لعنني وسبني ثم اكحلني بمرود من دم الحسين فاصبحت اعمىٰ۔
(الصواعق المحرقہ ص۱۹۳، نور الابصار ص۱۲۷، اسعاف الراغبین ص۲۱۳)

جس پر امام حسین کے دس قاتل ذبح ہوئے پڑے تھے پھر آپ نے مجھے لعنت و ملامت کی، پھر آپ نے خونِ حسین سے آلودہ ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی اسی وقت سے میں اندھا ہوگیا۔

یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سرِ انور کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا چند روز کے بعد لوگوں نے اس کو سخت سیاہ رُو دیکھا تو پوچھا کہ:۔

انك كنت انضر العرب وجها فقال ما مرت على ليلة من حين حملت تلك الراس الا واثنان ياخذان بضبعي ثم ينتهيان بي الى نار تاجج فيدفعاني فيها وانا انكص فتسفعني كما ترى ثم مات على اقبح حالة۔
الصواعق المحرقہ ص۱۹۴
نور الابصار ص۱۲۷
اسعاف الراغبین ص۲۱۳

تو تو بہت خوب صورت اور خوش رنگ تھا تجھے کیا ہوا اس نے کہا جس دن سے میں نے حضرت حسین کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن سے باندھ کر لٹکایا اس دن سے ہر روز رات کو دو آدمی میرے پاس آتے ہیں اور میرے دونوں بازو پکڑ کر مجھے ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں بہت سی آگ ہوتی ہے اس آگ میں مجھے منہ کے بل ڈال کر پھر نکال لیتے ہیں اس وجہ سے میرا منہ سیاہ ہوگیا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو راوی کہتے ہیں کہ وہ نہایت بری حالت میں مرا۔

علامہ امام ابن حجر ہیتمی مکی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں۔

ان شيخا راى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وبين يديه

تحقیق ایک بوڑھے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے آگے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

طشت فيها دم والناس يعرضون
عليه فيلطخهم حتى انتهت
اليه فقلت ما حضرت فقال
لى هويت فاوما الى باصبعه
فاصبحت اعمى -

(الصواعق المحرقه)
ص ۱۹۴

ایک طشت رکھا ہے جس میں خون تھا۔
اور لوگ آپ کے سامنے پیش کیے جا
رہے تھے آپ ان کی آنکھوں میں اس
خون سے لگا رہے تھے یہاں تک کہ
میں بھی پیش ہوا اور میں نے عرض کیا میں
مقابلے میں نہیں گیا تھا۔ آپ نے فرمایا
تو اس کی خواہش تو رکھتا تھا پھر آپ نے
انگلی سے میری طرف اشارہ کیا پس میں
اس وقت سے اندھا ہو گیا۔

حضرت احمد ابو رجاء العطاردی نے فرمایا لوگو! اہل بیت نبوت میں سے کسی کو برا نہ کہو

فانه كان لنا جار من بلهجيم
قدم علينا من الكوفة قال اما
ترون الى هذا الفاسق ابن الفاسق
قتله الله فرماه الله بكوكبين
فى عينيه فذهب بصره -

(تهذيب التهذيب)
ص ۳۵۵/۲

کیوں کہ ہمارا ایک پڑوسی تھا جو بلہجیم میں
سے تھا اور کوفہ سے آیا تھا اس نے کہا
تم نے اس فاسق ابن فاسق (حسین بن علی)
کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس کو قتل کر ڈالا۔
(معاذ اللہ) پس اسی وقت اللہ نے آسمان
سے دو تارے اس کی آنکھوں میں مارے
تو اس کی بصارت جاتی رہی۔

علامہ البارزی حضرت منصور سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے شام میں ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ خنزیر جیسا تھا۔ انہوں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا۔

انه كان يلعن عليا كل
يوم الف مرة وفى الجمعة اربعة
آلاف مرة واولاده معه فرايت
النبى صلى الله عليه وسلم و

کہ وہ ہر روز حضرت علی (رضی اللہ عنہ) پر ایک
ہزار مرتبہ اور جمعہ کے روز چار ہزار مرتبہ ان پر
اور ان کی اولاد پر لعنت کیا کرتا تھا (معاذ اللہ)
تو ایک رات اس نے خواب میں نبی صلی اللہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ذکر مناما طویلا من جملۃ	علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے طویل خواب کا ذکر
ان الحسن شکاہ الیہ فلعنہ	کیا اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت حسن (رضی اللہ عنہ)
ثم بصق فی وجھہ فصار	نے اس کی حضور کی بارگاہ میں یہ شکایت کی
موضع بصاقۃ خنزیرا وصار	تو حضور نے اس پر لعنت کی اور اس کے
ایۃ للناس۔	منہ پر تھوک دیا تو اس کا منہ خنزیر جیسا ہو گیا
(الصواعق المحرقہ)	اور وہ لوگوں کے لیے ایک درس
ص ۱۹۴	عبرت بن گیا۔

جب معرکۂ کربلا میں بے دین اشقیاء نے اہل بیت نبوت پر پانی بند کر دیا اور سب شدتِ پیاس سے بہت بے تاب ہوئے تو ایک بدبخت نے امام پاک کو مخاطب کر کے کہا۔

انظر الیہ کانّہٗ کبد	اس کو دیکھو یہ شخص اپنے آپ کو گویا جگر گوشۂ
السماء لا تذوق منہ	آسمان سمجھتا ہے مگر یہ ایک قطرہ بھی اس
قطرۃ حتّٰی تموت عطشا	کے پانی سے نہیں چکھے گا یہاں تک کہ
فقال لہ الحسین اللّٰھم	پیاسا ہی مرے گا امام حسین نے اس
اقتلہ عطشا فلم یروِ مع	کے متعلق دعا فرمائی اے اللہ اس کو پیاسا
کثرۃ شربہ للماء حتّٰی مات	ہی مارنا اس کے بعد اس کی یہ حالت ہو
عطشا۔	گئی کہ بہت زیادہ پانی پینے کے باوجود
(الصواعق المحرقہ ص ۱۹۵)	بھی سیراب نہ ہوتا یہاں تک کہ پیاس کی
(ابن اثیر ص ۲۲/۴)	حالت ہی میں مر گیا۔

جس بدبخت نے معصوم علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست کیا تھا وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ اس کے منہ اور پیٹ میں سخت حدت اور گرمی پیدا ہو گئی گویا کہ آگ سی لگی رہتی اور پشت کی طرف بہت برودت یعنی سردی پیدا ہو گئی۔ چناں چہ اس کے منہ اور پیٹ پر تو پانی چھڑکتے برف رکھتے اور پنکھا ہلاتے اور اس کی پشت کی طرف آگ جلاتے مگر کسی طرح بھی چین نہ پڑتا۔

وھو یصیح العطش فیوتی	اور وہ چیخ چیخ کر کہتا پیاس پیاس تو اس کے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

بسويق وماء ولبن لو شربه خمسة
لكفاهم فيشربه ثم يصيح
فيسقى كذلك الى ان انقد بطنه
(الصواعق المحرقہ ص۱۹۵)

یعنی ستو۔ پانی اور دودھ لایا جاتا اگر اس کو پانچ گھڑے بھی پلائے جاتے تو وہ پی جاتا اور پھر بھی پیاس کہہ کے چیختا آخر اسی طرح پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا۔

حضرت ابو محمد سلیمان الاعمش کوفی تابعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کے لیے گیا دوران طواف میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ "اے اللہ مجھے بخش دے اور میں گمان کرتا ہوں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا" میں اس کی بات پر بہت متعجب ہوا کہ سبحان اللہ العظیم اس کا کیسا گناہ ہے کہ جس کی بخشش کا اس کو گمان نہیں خیر میں خاموش رہا اور طواف میں مصروف رہا دوسرے پھیرے میں سنا وہ پھر یہی کہہ رہا تھا۔ میری حیرانی میں اضافہ ہوا میں نے طواف سے فارغ ہو کر اس سے کہا کہ تو ایسے عظیم مقام پر ہے جہاں بڑے سے بڑا گناہ بھی بخشا جاتا ہے تو اگر تو اللہ عزَّ وجلَّ سے مغفرت اور رحمت مانگتا ہے تو اس سے امید بھی رکھ کیوں کہ وہ بڑا رحیم وکریم ہے اس شخص نے کہا اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ میں نے کہا میں سلیمان الاعمش ہوں! اس نے کہا اے سلیمان تم مانگو اور امید بھی رکھو میں بھی کبھی تمہارے ہی جیسا خیال رکھتا تھا لیکن اب نہیں یہ کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک طرف لے گیا اور کہا میرا گناہ بہت بڑا ہے میں نے کہا کیا تیرا گناہ پہاڑوں۔ آسمانوں۔ زمینوں اور عرش سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں میرا گناہ بڑا ہی ہے، سنو میں تمہیں بتاتا ہوں وہ بڑی عجیب بات ہے جو میں نے دیکھی ہے میں نے کہا سناؤ اللہ تم پر رحم کرے۔ اس نے کہا اے سلیمان میں ان ستر آدمیوں میں سے ہوں جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے سر کو یزید کے پاس لائے تھے۔ پھر یزید نے اس سر کو شہر کے باہر لٹکانے کا حکم دیا۔ پھر اس کے حکم سے اتارا گیا اور سونے کے طشت میں رکھ کر اس کے سونے (نیند) کی جگہ رکھا گیا۔ آدھی رات کے وقت یزید کی بیوی اٹھی تو اچانک اس نے دیکھا کہ ایک نورانی شعاع امام کے سر سے لے کر آسمان تک چمک رہی ہے وہ یہ دیکھ کر سخت خوف زدہ ہوئی اور اس نے یزید کو جگایا اور کہا اٹھ کر دیکھو میں ایک عجیب منظر دیکھ رہی ہوں، یزید نے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ھی اس روشنی کو دیکھ کر کہا چپ رہو میں بھی دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ رہی ہو۔ جب صبح ہوئی س نے سر مبارک نکال لینے کا حکم دیا۔ چناں چہ وہ نکالا گیا اور خیمہ دیبائے سبز میں رکھا گیا راس کی نگرانی کے لیے ستر آدمی مقرر ہوئے میں بھی ان میں تھا۔ پھر ہمیں حکم ہوا جاؤ کھانا کھا آؤ۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور کافی رات گزر گئی تو ہم سو گئے۔ اچانک میں جاگ پڑا اور دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا بادل چھایا ہوا ہے اور اس میں سے پہاڑ کی سی گرج اور پروں کے ہلنے کی سی آواز آ رہی ہے پھر وہ بادل قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ زمین سے مل گیا اور اس میں سے ایک مرد نمودار ہوا جس پر جنت کے حلّوں میں سے دو حلّے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک فرش اور کرسیاں تھیں اس نے وہ فرش بچھایا اور اس پر کرسیاں رکھ دیں اور پکارنے لگا اے ابوالبشر اے آدم صلی اللہ علیک تشریف لائیے پس ایک بڑے بزرگ نہایت حسین و جمیل تشریف لائے اور سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر کہا:۔

السلام علیك یا ولی الله السلام علیك یا بقیة الصالحین عشت سعیدا وقتلت طریدا ولم تزل عطشان حتی الحقك الله بنا رحمك الله ولا غفر لقاتلك الویل لقاتلك غدا من النار ثم زال وقعد علی الکرسی من تلك الکراسی۔

سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے ولی سلام ہو تجھ پر اے بقیۃ الصالحین زندہ رہے تم سعید ہو کر اور قتل ہوئے تم طرید یعنی خلف ہو کر پیاسے رہے حتیٰ کہ اللہ نے تمہیں ہم سے ملا دیا۔ اللہ تم پر رحم فرمائے اور تمہارے قاتل کے لیے بخشش نہیں تمہارے قاتل کے لیے کل قیامت کے دن دوزخ کا بہت برا ٹھکانا ہے۔

یہ فرما کر وہ وہاں سے ہٹے اور ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بادل آیا وہ اسی طرح زمین سے مل گیا اور میں نے سنا کہ ایک منادی نے ندا کی اے نبی اللہ اے نوح تشریف لائیے ناگاہ ایک صاحب وجاہت زردی مائل چہرہ جنت کے حلوں میں دو حلے پہنے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے بھی وہی الفاظ کہے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے پھر ایک اور بڑا بادل آیا اور اس میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

نمودار ہوئے انہوں نے بھی وہی کلمات فرمائے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تشریف لائے اور اسی طرح کے کلمات فرما کر کرسیوں پر جا بیٹھے پھر ایک بہت ہی بڑا بادل آیا اس میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما اور ملائکہ نمودار ہوئے۔ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کے پاس تشریف لے گئے اور سر کو سینے سے لگایا اور بہت روئے۔ پھر حضرت فاطمہ کو دیا انہوں نے بھی سینے سے لگایا اور بہت روئیں پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر یوں تعزیت کی۔

السلام علی الولد الطیب السلام علی الخلق الطیب اعظم اللہ اجرك واحسن عزاءك فی ابنك الحسین۔

سلام ہو پاکیزہ فطرت وخصلت والے پاک فرزند پر اللہ آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے اور آپ کے فرزند حسین کے (اس امتحان) میں احسن صبر دے۔

اسی طرح حضرت نوح۔ حضرت ابراہیم۔ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہم السلام نے بھی تعزیت فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کرام علیہم السلام سے فرمایا کہ آپ گواہ ہیں خود اللہ ہی کافی گواہ ہے۔ میری امت کے ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میری کو اس طرح قتل کر کے مجھے یہ بدلہ دیا ہے۔ پھر ایک فرشتے نے آپ کے قریب آکر عرض کیا اے ابو القاسم (اس واقعہ سے) ہمارے دل پاش پاش ہو گئے ہیں۔ میں آسمان دنیا کا موکل ہوں۔ اللہ تعالےٰ نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان لوگوں پر آسمان ڈھا دوں اور ان کو تباہ کر دوں۔ پھر ایک اور فرشتہ نے آکر عرض کیا اے ابو القاسم! میں دریاؤں کا موکل ہوں اللہ تعالےٰ نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے اگر آپ فرمائیں تو میں ان پر طوفان برپا کر کے ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ آپ نے فرمایا اے فرشتو ایسا کرنے سے باز رہو۔

فقال الحسن یا جداہ ھٰؤلاء	تو حضرت حسن نے کہا نانا جان! یہ جو سوئے
الرقود ھم الذین یحرسون اخی د	ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

هم الذين اتوا براسه فقال
النبي صلى الله عليه وسلم
يا ملائكة ربي اقتلوهم
بقتله ابني فوالله مالبثت
الا يسيرا حتى رأيت اصحابي
قد ذبحوا اجمعين قال
فلصق بي ملك ليذبحني
فناديته يا ابا القاسم اجرني
رحمني يرحمك الله فقال
هو عند ودنا مني وقال
انت من السبعين رجلا
قلت نعم فالقى يده في
منكبي وسحبني على
وجهي وقال لا رحمك الله
ولا غفر لك احرق الله
عظامك بالنار فلن الك
اليست من رحمة الله فقال
الاعمش اليك عني فاني
اخاف ان اعاقب من اجلك

(نور الابصار ص١٢٩)

کے سر کو لائے ہیں اور یہی نگرانی پر مقرر
ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے
میرے رب کے فرشتو ان کو قتل کر دو
میرے بیٹے کے قتل کے بدلے میں۔ تو
خدا کی قسم ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میں
نے دیکھا وہ میرے سب ساتھی قتل کر
دیئے گئے پھر ایک فرشتہ مجھے بھی قتل
کرنے کو آیا تو میں نے پکارا اے ابوالقاسم
مجھے بچائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے اللہ آپ
پر رحم فرمائے تو آپ نے فرشتہ سے فرمایا
اسے رہنے دو پھر آپ نے میرے قریب
آکر فرمایا تو ان ستر آدمیوں میں سے ہے جو
سر لائے تھے؟ میں نے کہا ہاں! پس
آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے میں ڈال
کر مجھے منہ کے بل گرا دیا اور فرمایا خدا تجھ پر
رحم نہ کرے اور نہ تجھے بخشے اللہ تیری ہڈیوں
کو نار دوزخ میں جلائے تو یہ وجہ ہے کہ میں
اللہ کی رحمت سے ناامید ہوں حضرت
اعمش نے یہ سن کر فرمایا او بدبخت مجھ
سے دور ہو کہیں تیری وجہ سے مجھ پر بھی
عذاب نہ نازل ہو جائے۔

علامہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے حضرت صالح شحام سے روایت نقل فرمائی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حلب میں خواب دیکھا کہ ایک کالا کتا مارے پیاس کے زبان نکالتا ہے۔ میں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

نے ارادہ کیا کہ اس کو پانی پلاؤں کہ اتنے میں ہاتف غیبی نے آواز دی۔ خبردار! اس کو پانی مت پلا۔ یہ قاتل حسین بن علی ہے۔ اس کے لیے قیامت تک یہ سزا ہے کہ اسی طرح پیاسا ہی رہے (تسدید القوس فی تلخیص مسند الفردوس)

علامہ امام جلال الدین سیوطی محاضرات و محاورات میں نقل فرماتے ہیں:۔

حصل بالکوفۃ جدری فی بعض السنین عمی فیہ الف وخمسمائۃ من ذریۃ من حضر واقتل الحسین رضی اللّٰہ عنہ۔ (نورالابصار ص۱۵۲)

کہ کوفہ میں ایک سال چیچک ہوئی اس میں ڈیڑھ ہزار اولاد ان لوگوں کی اندھی ہو گئی۔ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے گئے تھے۔

ابن عیینہ اپنی دادی ام ابی سے روایت فرماتے ہیں کہ دو آدمی جعفیین میں سے قتل حسین میں شریک تھے۔

قالت فاما احدھما فطال ذکرہ حتی کان یلفہ واما الآخر فکان یستقبل الروایۃ یفیہ حتی یاتی علی اخرھا قال سفیان رایت ابن احدھما وکان مجنونا۔ (تہذیب التہذیب ص۳۵۲/۲، سر الشہادتین ص۳۳، صواعق محرقہ ص۱۹۳)

فرماتی ہیں ان میں سے ایک کا آلۂ تناسل تو اتنا لمبا ہو گیا کہ وہ اپنی کمر (یا گردن) پر (رسی کی طرح) لپیٹ لیتا اور دوسرے کو اس قدر پیاس لگتی کہ وہ پوری پکھال پی جاتا مگر اس کی پیاس نہ بجھتی یہاں تک کہ دوسری لائی جاتی (حضرت) سفیان فرماتے ہیں ان میں سے میں نے ایک کے بیٹے کو دیکھا کہ وہ پاگل تھا۔

گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے کہ کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھ کر بلایا اور جانی و مالی امداد کا یقین دلایا تھا لیکن بعد میں وہ بے وفا ہو گئے اور ان کی بے وفائی ہی حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت امام اور آپ کے اقربا اور اعوان و انصار کی شہادت کا سبب بنی۔ اس بے وفائی پر اکثر کوفی بہت زیادہ نادم تھے اور چاہتے تھے کسی طرح اس غلطی کی تلافی ہو جائے اور بدنامی کا داغ دھل جائے چناں چہ ان توابین نے حضرت سلیمان بن صرد کے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ہاتھ پر بیعت کی کہ خون حسین کا انتقام لیں گے ۔

شروع میں تو حضرت سلیمان بن صرد کے ارد گرد بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے بعد میں ان میں سے اکثر ساتھ چھوڑ گئے اور مخلصین کی تعداد کم رہ گئی مگر یہ لوگ اپنے عہد پر قائم رہے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ سب سے پہلے شام جاکر ابن زیاد سے جنگ کی جائے بعد میں دوسرے لوگوں سے نپٹا جائے۔ یہ لوگ ابن زیاد کے مقابلے کے لیے نکلے۔ راستہ میں یہ لوگ کربلا میں حضرت امام کے مرقد منور پر حاضر ہوئے اور زاری و تضرع کے ساتھ توبہ و استغفار کے طالب ہوئے۔ جب یہاں سے روانہ ہو کر شام کے قریب پہنچے اور ابن زیاد کو اُن کے آنے کی خبریں ملیں تو اس نے حصین بن نمیر کو بارہ ہزار فوج کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیجا۔ مختصر یہ کہ جنگ ہوئی اور سلیمان کے ساتھیوں نے باوجود قلیل ہونے کے ہزاروں شامیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابن زیاد کی طرف سے برابر لشکر اور مدد پہنچتی رہی آخر حضرت سلیمان حصین بن نمیر کے ہاتھ سے قتل ہوئے اور اسی طرح اُن کے رفقا بھی قتل ہوتے رہے اور چند باقی جو رہ گئے تھے وہ اپنی شکست یقینی سمجھ کر رات کے وقت بھاگ نکلے۔

پھر مختار بن عبیدہ ثقفی نے جو اپنے دل میں حُبِ جاہ رکھتا تھا خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے علم بلند کیا اور اپنے آپ کو حضرت محمد بن حنفیہ کا خلیفہ ظاہر کر کے کہا کہ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خونِ حسین کا بدلہ لوں۔ اس لیے لوگو میرا ساتھ دو لوگوں نے اس پر اعتماد نہ کیا اور حضرت محمد بن حنفیہ سے اس کی تصدیق کی تو اگرچہ وہ مختار کو اچھا نہیں سمجھتے تھے مگر انہوں نے فرمایا بلاشبہ ہم پر خون حسین کا بدلہ لینا واجب ہے۔ اس سے لوگوں کو تسلی ہو گئی اور وہ مختار کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے اور یہ تحریک کافی زور پکڑ گئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے عبداللہ بن مطیع حاکم کوفہ تھے انہوں نے اس تحریک کو روکنے کی کافی کوشش کی یہاں تک کہ چند بار لڑائی بھی ہوئی لیکن ہر بار حاکم کوفہ کی فوج کو شکست ہوئی آخر ابن مطیع نے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا اور اپنی شکست کا اعتراف کر کے امان طلب کی۔ ان کو امان دے دی گئی چنانچہ وہ بصرہ چلے گئے اور مختار کو عراق۔ کوفہ۔ خراسان اور ان کے اطراف و جوانب پر تسلط اور جملہ خزائن حکومت پر قبضہ حاصل ہو گیا تو اس نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور لوگوں سے اچھی طرح پیش آنے لگا اور کہتا میں خلیفۃ المہدی ہوں۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

مختصر یہ ہے کہ اس نے لوگوں سے کہا مجھے ہر اس شخص کا پتہ بتاؤ جو ابن سعد کے لشکر میں تھا اور امام حسین کے مقابلے میں گیا تھا یا جو ان کے قتل سے خوش ہوا تھا لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار نے ان کو مارنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا اس طرح سیکڑوں آدمیوں کو مارا۔

عمرو بن سعد

ایک دن مختار نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو ماروں گا۔ جس سے تمام مومنین اور ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے، اس وقت اس کے پاس ہیثم بن اسود نخعی بیٹھا تھا وہ سمجھ گیا کہ مختار کا ارادہ عمرو بن سعد کو مارنے کا ہے چناں چہ اس نے ایک آدمی کو عمرو بن سعد کے بلانے کے لیے بھیجا۔ عمرو بن سعد نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ جب وہ آیا تو مختار نے اس سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا گھر میں ہے۔ مختار نے کہا اب "رے" کی حکومت چھوڑ کر کیوں گھر بیٹھا ہوا ہے حضرت حسین کے قتل کے دن کیوں نہ گھر بیٹھا۔ پھر اس نے اپنے خاص محافظ ابو عمرہ کو بھیجا کہ ابن سعد کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر لے آ۔ وہ گیا اور اس نے ابن سعد کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا میں چھپا کر لے آیا اور مختار کے آگے لا کے رکھ دیا۔ مختار نے حفص سے کہا پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ اس نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ کر کہا ہاں یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کچھ مزا نہیں۔ مختار نے کہا سچ کہتے ہو۔ حکم دیا اس کو بھی قتل کرو؟ وہ بھی قتل ہوا مختار نے کہا عمرو کا سر حسین کے سر کا بدلہ ہے اور حفص کا سر علی بن حسین کے سر کا۔ اگرچہ یہ دونوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم! اگر میں ایک تہائی قریش کو بھی قتل کر دوں تو وہ سب حسین کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔

مختار نے ان دونوں سروں کو حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیا اور ساتھ لکھ بھیجا کہ جس جس پر مجھے قدرت حاصل ہوئی ہے اس کو میں نے قتل کر دیا ہے اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے اور جب تک میں ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک نہ کر دوں گا ان کی تلاش سے باز نہ رہوں گا (طبری صفحہ ۱۲۶/۷ ابن اثیر صفحہ ۹۴/۴ البدایہ والنہایہ صفحہ ۲۷۳/۸)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

امام ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن :-

قال علی لعمرو بن سعد کیف انت اذا قسمت مقاما تخیر فیہ بین الجنۃ و النار فتختار النار۔ (ابن اثیر ص ۹۴/۴)

حضرت علی (کرم اللہ وجہہ) نے عمرو بن سعد سے فرمایا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کہ تو ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوگا کہ تجھے جنت و دوزخ کے درمیان اختیار دیا جائے گا پس تو دوزخ ہی کو اختیار کرے گا۔

علامہ ابن کثیر امام واقدی کی نقل فرماتے ہیں کہ

کان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جالسا ذات یوم اذ جاء غلام لہ و دمہ یسیل علی عقبیہ فقال لہٗ سعد من فعل بك ھذا ؟ فقال ابنك عمر فقال سعد اللھم اقتلہ و اسل دمہ وکان سعد مستجاب الدعوۃ۔ (البدایہ والنہایہ ص ۲۷۳/۸)

ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے کہ آپ کا غلام اس حالت میں آیا کہ اس کی دونوں ایڑیوں پر خون بہہ رہا تھا حضرت سعد نے اس سے پوچھا یہ کس نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کے بیٹے عمرو نے! حضرت سعد نے کہا اے اللہ اس کو قتل کر اور اس کا بھی خون بہا اور حضرت سعد کی دعا قبول ہوتی تھی۔

خولی بن یزید

خولی وہ بدبخت انسان تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ اس بدبخت کی گرفتاری کے لیے مختار نے معاذ بن ہانی اور اپنے محافظ خاص ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے آکر خولی کے مکان کا محاصرہ کر لیا اس بدبخت کو معلوم ہوا تو یہ اپنے مکان کے اندر ایک جگہ چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم لاعلمی ظاہر کر دینا۔ معاذ نے ابو عمرہ سے کہا تم آواز دو۔ آواز سن کر خولی کی بیوی باہر نکلی انہوں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

نے کہا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے زبان سے تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے! اور ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کا مقام بتا دیا یہ اس جگہ پہنچے اور اس کو گرفتار کر لیا۔ مختار کے سامنے پیش کیا گیا اس نے اس کے قتل اور جلانے کا حکم دیا۔ چناں چہ اس بدبخت کو پہلے قتل کیا گیا اور پھر جلا دیا گیا۔

ف: خولی کی بیوی عیوف بنت مالک بن نہار حضرموت کی رہنے والی تھی جس دن سے خولی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر لایا تھا اس دن سے وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی۔

(طبری ص ۱۲۷/۷ ابن اثیر ص ۹۴/۴ البدایہ والنہایہ ص ۲۷۲/۸)

شمر ذی الجوشن

مسلم بن عبداللہ الضبابی کہتا ہے کہ ہم شمر ذی الجوشن کے ہم راہ تیز رَو گھوڑوں پر سوار ہو کر کوفہ سے نکلے۔ مختار کے غلام زربی نے ہمارا تعاقب کیا ہم نے بڑی تیزی سے اپنے گھوڑے دوڑائے لیکن زربی نے ہمیں آلیا اور شمر پر حملہ آور ہوا۔ شمر اس کے حملے کو روکتا رہا آخر شمر نے ایک ایسا وار کیا کہ اس کی کمر توڑ دی جب مختار کو معلوم ہوا تو اس نے کہا اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں اس کو اس طرح شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔

شمر وہاں سے چل کر کوفہ اور بصرہ کے تقریباً درمیان دریا کے کنارے پر واقع ایک گاؤں کلتانیہ میں پہنچا اور ایک دیہاتی مزدور کو بلا کر اس کو مار پیٹ کر مجبور کر دیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر تک پہنچائے۔ اس خط پر یہ پتہ لکھا تھا۔ شمر ذی الجوشن کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام۔ وہ مزدور اس خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستہ میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا اس میں پہنچ کر وہ مزدور اپنے ایک جاننے والے مزدور دوست سے ملا اور اس سے شمر کی سختی اور زیادتی کی شکایت کر رہا تھا۔ اتفاق سے اسی گاؤں میں مختار کے محافظ دستے کا رئیس ابوعمرہ چند سپاہیوں کے ساتھ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ عین اس وقت جب کہ وہ دونوں مزدور باتیں کر رہے تھے مختار کا ایک سپاہی عبدالرحمٰن بن عبید وہاں سے گزرا اس نے اس مزدور کے ہاتھ میں شمر کا وہ خط دیکھا اور پتہ پڑھ کر مزدور سے پوچھا کہ شمر کہاں ہے؟ مزدور

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

نے بتادیا اس سپاہی نے فوراً آکر ابوعمرہ کو بتایا۔ یہ اسی وقت اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کی طرف چلے۔ مسلم بن عبداللہ کہتا ہے میں نے شمر سے کہا ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے کیوں کہ یہاں مجھے خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ شمر نے کہا میں تین دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں یہ خوف مختار کذاب کی وجہ سے محسوس ہو رہا ہے اور تم مرعوب ہو گئے ہو۔ چناں چہ رات کو میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر جاگ پڑا اور اپنی آنکھیں مل رہا تھا کہ اتنے میں انھوں نے آکر تکبیر کہی اور ہماری جھونپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا ہم تو اپنے گھوڑے وغیرہ چھوڑ کر پیدل ہی بھاگ نکلے اور وہ سب شمر پر ٹوٹ پڑے وہ کپڑے زرہ وغیرہ بھی نہ پہن سکا ایک پرانی سی چادر اوڑھے ہوئے صرف نیزہ ہاتھ میں لے کر ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے تکبیر کی آواز کے ساتھ سنا کہ اللہ نے خبیث کو قتل کر دیا پھر اس کی لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا گیا۔ (طبری صفحہ ۱۲۱/۷ ابن اثیر صفحہ ۹۲/۴ البدایہ والنہایہ صفحہ ۲۷۰/۸)

مالک بن اعین الجہنی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن دباس جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا اس نے قاتلان حسین میں سے چند آدمیوں کے نام مختار کو بتائے جن میں عبداللہ بن سید بن النزال الجہنی مالک بن النسیر البدی اور حمل بن مالک المحاربی بھی تھے اور یہ قادسیہ میں رہتے تھے۔ مختار نے اپنے سرداروں میں ایک سردار ابونمر مالک بن عمرو النہدی کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ان کو گرفتار کر لیا اور مختار کے سامنے لا کر پیش کیا مختار نے ان سے کہا۔

یا اعداء اللہ واعداء کتابہ	اے اللہ اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے
واعداء رسولہ وآل رسولہ	رسول اور آل رسول کے دشمنو! حسین ابن
ابن الحسین ابن علی ادو	علی کہاں ہیں؟ میرے سامنے حسین کا
الی الحسین قتلتم من	حق ادا کرو۔ ظالمو! تم نے اس کو قتل کیا
امرتم بالصلوٰۃ علیہ فی	جس پر نماز میں تمہیں درود پڑھنے کا حکم
الصلوٰۃ قالوا رحمک اللہ	دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا۔ اللہ آپ پر

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

بعثنا ونحن کارھون	رحم فرمائیے ہمیں زبردستی بھیجا گیا تھا حالاں
فامنن علینا واستبقنا	کہ ہم پسند نہیں کرتے تھے۔ اب ہم پر
قال المختار فھلا مننتم	احسان فرمائیں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ مختار
علی الحسین ابن نبیکم و	نے کہا کیا تم نے اپنے نبی کے نواسے
استبقیتموہ واسقیتموہ۔	پر احسان کیا اور ان کو چھوڑا اور ان کو
الخ۔	پانی پلایا ؟

پھر مختار نے مالک البدی سے کہا تو نے ان کی ٹوپی اتاری تھی ؟ عبداللہ بن کامل نے کہا جی ہاں اسی نے اتاری تھی۔ مختار نے حکم دیا اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ کر چھوڑ دو تاکہ یہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جائے چناں چہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا، اور وہ تڑپ تڑپ کر مرا اور دوسرے دونوں یعنی عبداللہ الجہنی کو عبداللہ بن کامل نے اور حمل بن مالک المحاربی کو سعر بن ابی سعر نے مختار کے حکم سے قتل کر دیا۔ (طبری صہ ۱۲۴/۷ ابن اثیر صہ ۹۳/۴)

حکیم بن طفیل الطائی

اس نے کربلا میں حضرت عباس علم دار کے لباس اور اسلحہ پر قبضہ کیا تھا اور حضرت حسین کو تیر مارا تھا یہ کہا کرتا تھا کہ میرا تیر ان کے پائجامے میں لگا تھا جس سے ان کو کوئی ضرر نہ پہنچا تھا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ اس نے جا کر گرفتار کر لیا۔ حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم کے پاس جا کر فریادی ہوئے کہ اس کو چھڑائیں۔ مختار، عدی کی قدر اور احترام کرتا تھا۔ عدی مختار کے پاس برلئے سفارش آئے۔ سپاہیوں کو راستہ میں معلوم ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن کامل سے کہا کہ مختار عدی کی سفارش قبول کر لیں گے اور یہ خبیث بچ جائے گا حالاں کہ آپ اس کے جرم سے بخوبی واقف ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو مختار کے پاس نہ لے جائیں اور قتل کر دیں۔ ابن کامل نے اجازت دے دی۔ چناں چہ اس کو ایک مکان میں لے گئے اور کہا تو نے ابن علی کا لباس اتارا تھا ہم تیرا لباس اتارتے ہیں چناں چہ انہوں نے اس کے سب کپڑے اتار دیے اور برہنہ کر دیا پھر کہا تو نے حضرت حسین کو تیر مارا تھا۔ اب

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ہم تجھے تیروں کا نشانہ بناتے ہیں یہ کہہ کر تیروں سے اس کو ہلاک کر دیا۔

ادھر عدی مختار کے پاس پہنچے مختار نے ان کا احترام کیا اور آنے کی غرض پوچھی۔ عدی نے بیان کی۔ مختار نے کہا ابوطریف تم قاتلانِ حسین کی سفارش کرتے ہو۔ عدی نے کہا اس پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا اگر یہ سچ ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ابن کامل نے آ کر حکیم کے قتل کی اطلاع دی۔ مختار نے کہا تم نے اس کو میرے پاس لائے بغیر اتنی جلدی کیوں قتل کر دیا۔ دیکھو یہ عدی اس کی سفارش کے لیے آئے ہیں اور یہ اس بات کے اہل ہیں کہ ان کی سفارش قبول کی جائے۔ ابن کامل نے کہا آپ کے شیعوں نے نہ مانا اور میں مجبور ہو گیا۔ عدی نے ابن کامل کو بُرا بھلا کہا۔ ابن کامل بھی جواب دینے لگے مگر مختار نے اس کو خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ عدی ناراض ہو کر آ گئے۔ (طبری صفحہ ۱۳۸/۸ ابن اثیر صفحہ ۹۴/۴ البدایہ والنہایہ صفحہ ۲۷۲/۴)

ابوسعید الصیقل کہتے ہیں کہ سعر الحنفی نے مختار کو چند قاتلانِ حسین کا پتہ بتایا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ اس نے ان میں سے زیاد بن مالک، عمران بن خالد۔ عبدالرحمٰن بن ابی خشکارۃ البجلی اور عبداللہ بن قیس الخولانی کو گرفتار کیا اور مختار کے سامنے پیش کیا مختار نے ان سے پوچھا۔

یا قتلۃ الصالحین وقتلہ
شید شباب اھل الجنۃ قد
اقاد اللہ منکم الیوم لقد جاءکم
الورس بیوم نحس وکانوا قد
اصابوا من الورس الذی کان مع
الحسین اخرجوھم الی السوق
فضربوا رقابھم ففعل ذلک بھم
(طبری صفحہ ۱۲۵/۷ ابن اثیر صفحہ ۹۴/۴)

اے صالحین اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کے قاتلو بے شک اللہ آج تم سے بدلہ لے گا بے شک وہ ورس آج تمہارے لیے بڑا منحوس دن لے کر آئی ہے وہ ورس جو حضرت حسین کے ساتھ تھی جس پر انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ مختار نے حکم دیا۔ سر بازار ان کی گردنیں مارو۔ پس ان کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔

زید بن رقاد

اس ظالم نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کے تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی میں لگا تھا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

انہوں نے اپنی پیشانی کو بچانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیوست ہوگیا اور جدا نہ ہو سکا۔ اس وقت ان کی زبان سے نکلا اے اللہ جس طرح ان دشمنوں نے ہمیں حقیر و ذلیل کر کے قتل کیا ہے تو بھی ان کو ایسا ہی ذلیل کر کے قتل کر پھر اسی ظالم نے ایک اور تیر مارا جو حضرت عبداللہ کے پیٹ میں لگا اور وہ شہید ہو گئے یہ بدبخت کہا کرتا تھا کہ میں اس نوجوان کے پاس آیا وہ تیر جو اس کے پیٹ میں لگا تھا وہ تو میں نے آسانی سے نکال لیا مگر وہ تیر جو پیشانی میں لگا تھا اس کو نکالنے کی بہت کوشش کی تیر تو نکل آیا مگر پیکان نہ نکل سکا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو اس بدبخت کی گرفتاری کے لیے بھیجا ابن کامل نے اپنے دستہ کے ساتھ آکر اس کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ بدبخت زید بڑا بہادر آدمی تھا۔ تلوار لے کر مقابلہ کے لیے نکلا۔ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے۔ ابن کامل نے کہا اس کو نیزہ یا تلوار سے نہ مارو بلکہ تیروں اور پتھروں سے ہلاک کرو۔ لوگوں نے اس قدر اس پر تیر برسائے اور پتھر مارے کہ وہ گر پڑا۔ ابن کامل نے کہا دیکھو اگر اس میں جان باقی ہو تو اس کو لاؤ۔ چوں کہ اس میں ابھی جان تھی لوگ اس کو لائے۔ ابن کامل نے آگ منگوائی اور اس کو فنا فی النار کر دیا۔ (طبری ص ۱۲۹/۴ ابن اثیر ص ۹۵/۴ البدایہ والنہایہ ص ۲۷۲/۸)

عمرو بن صبیح

یہ بدبخت کہا کرتا تھا کہ میں نے حسین کے رفقاء کو تیروں سے زخمی کیا تھا کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ مختار نے آدھی رات کے وقت اس کی گرفتاری کے لیے پولیس کو بھیجا یہ اس وقت اپنے مکان کی چھت پر اپنی تلوار تکیے کے نیچے رکھے بے خبر سو رہا تھا پولیس نے چپکے سے چھت پر چڑھ کر اس کو پکڑ لیا اور اس کی تلوار پر بھی قبضہ کر لیا۔ کہنے لگا خدا اس تلوار کا برا کرے یہ مجھ سے کس قدر قریب تھی اور اب کس قدر دور ہو گئی ہے پولیس نے اس کو مختار کے سامنے لا کر پیش کیا اس نے حکم دیا صبح تک اس کو قید میں رکھو جب صبح ہوئی دربار عام لگا اور بہت سے لوگ جمع ہو گئے تو اس کو لایا گیا اس نے بھرے دربار میں کہا اے گروہ کفار و فجار اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ میں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

بزدل اور کمزور نہیں ہوں یہ بات میرے لیے مسرت کا باعث ہوتی اگر میں تمہارے علاوہ کسی اور کے ہاتھ سے قتل ہوتا کیوں کہ میں تم لوگوں کو بدترین خلائق سمجھتا ہوں کاش اس وقت بھی تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی اور میں تھوڑی دیر تک تمہارا مقابلہ کرتا اس کے بعد اس نے اپنے پاس کھڑے ہوئے ابن کامل کی آنکھ پر مکا مارا۔ ابن کامل نے ہنس کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیزوں سے زخمی کیا ہے اب اس کے بارے میں آپ ہمیں حکم دیجئے۔ مختار نے کہا نیزے لاؤ اور اس کو نیزوں سے گھائل کر دو چناں چہ اس کو نیزے مار مار کے ہلاک کر دیا گیا۔

(طبری ص ۱۲۹/۷۔ ابن اثیر ص ۹۵/۴)

موسیٰ بن عامر فرماتے ہیں۔

ان المختار قال لهم اطلبوا	بے شک مختار نے کہا قاتلان حسین کو
الی قتلة الحسين فانه لا	تلاش کر کے میرے پاس لاؤ کیوں کہ جب
يسوغ لی الطعام والشراب	تک میں اُن کے ناپاک وجود سے پوری
حتی اطهر الارض منهم و	زمین اور شہر کو پاک نہ کر دوں گا مجھے کھانا
انقی المصر منهم۔ (طبری ص ۱۲۴/۷)	پینا اچھا نہیں لگتا۔

مختار کے اس جذبے اور خون حسین کے انتقام لینے کی وجہ سے عوام وخواص کثیر تعداد میں اس کے ساتھ اور اس کے معتقد ہو گئے تھے۔ مختار جب عمرو بن سعد، شمر ذی الجوشن اور خولی بن یزید وغیرہ جیسے اشقیاء کے قتل سے فارغ ہوا تو اب اس کو ابن زیاد بدنہاد کی فکر ہوئی کیوں کہ واقعہ کربلا کی یزید کے بعد سب سے زیادہ ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی اس بدبخت کا وجود اس کو بہت زیادہ کھٹکتا تھا جب تک وہ اس کو ختم نہ کر لیتا اس کو کیسے چین آسکتا تھا۔ چناں چہ اس نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک زبردست اور تجربہ کار فوج کثیر کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ادھر ابن زیاد کو بھی معلوم ہوا تو وہ بھی لشکر کثیر کے ساتھ مقابلہ کے لیے آیا۔ شہر موصل سے پانچ کوس کے فاصلے پر دریا کے کنارے پر دونوں لشکروں کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ آخر شدید جنگ کے بعد ابن زیاد کے لشکر کو شکست ہوئی

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

شکست خوردہ لشکر مع ابن زیاد بھاگا۔ ابراہیم اشتر نے ان کا تعاقب کرنے اور ان کو مارنے کا حکم دیا۔ چناں چہ ابن زیاد کے بہت سے لوگ مارے گئے اور خود یہ بدنہاد بھی مارا گیا ابراہیم نے اس کا سر جسم سے جدا کیا اور لاش کو جلا دیا ؎

وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے
اے خاک بتا زور عبید آج کہاں ہے

جب ابن زیاد کا سر کوفہ میں آیا تو مختار نے دربار عام کیا اور ابن زیاد کے سر کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب سر پیش ہوا تو اتفاق سے اس دن بھی ۶۷ھ کا یوم عاشورہ تھا۔ مختار نے کوفیوں سے کہا دیکھو آج سے چھ سال پہلے اسی جگہ اس بدبخت کے سامنے حضرت حسین کا سر پیش ہوا تھا اور آج اس کا سر میرے سامنے رکھا ہے۔ میں نے خون حسین کا بدلہ لینے میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔

ابن زیاد بدنہاد اور دیگر رؤسا کے سروں کو بہ طور نمائش کے ایک جگہ رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک پتلا سا سانپ آیا اور اس نے سب سروں کو دیکھا اور پھر ابن زیاد کے منہ میں داخل ہو کر ناک کے نتھنے سے اور ناک سے داخل ہو کر منہ سے نکلا اور کئی مرتبہ ایسا کیا۔

چناں چہ حضرت عمارہ بن عمیر فرماتے ہیں کہ

لما جیئ براس عبید اللہ	جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں
بن زیاد واصحابه نضدت فی المسجد	کے سر لائے گئے تو مسجد کے میدان میں
فی الرحبة فانتهیت الیهم وهم	ترتیب سے رکھے گئے میں جب ان کے
یقولون قد جاءت قد جاءت	قریب پہنچا تو وہاں جو لوگ تھے وہ کہہ رہے
فاذا حیة قد جاءت تخلل	تھے وہ آگیا وہ آگیا تو اچانک ایک سانپ
الرؤس حتی دخلت فی منخری	آیا اور وہ سروں میں پھرنے لگا۔ حتیٰ کہ
عبید اللہ بن زیاد فمکثت هنیهة	عبید اللہ بن زیاد کے نتھنوں میں داخل ہو
ثم خرجت فذهبت حتی تغیبت	گیا اور تھوڑی سی دیر ٹھہر کر پھر نکلا اور چلا گیا
ثم قالوا قد جاءت قد جاءت	یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا۔ پھر لوگ کہنے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ففعلت ذٰلك مرتين او ثلاثا هذا حديث حسن صحيح (ترمذی شریف باب المناقب)

لگے وہ آگیا وہ آگیا پس اس سانپ نے اسی طرح دو تین بار کیا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ :-

قالت مرجانة لابنها عبید الله بعد قتل الحسین یا خبیث قتلت ابن بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تری والله الجنة ابدا۔ (تهذیب التهذیب ص $\frac{357}{2}$، ابن اثیر ص $\frac{103}{4}$)

حضرت حسین کی شہادت کے بعد مرجانہ (ابن زیاد کی ماں) نے اپنے بیٹے عبید اللہ سے کہا او خبیث تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا ہے خدا کی قسم تو کبھی بھی جنت کو نہیں دیکھے گا۔

ابن زیاد کے قتل کے وقت ابن مفرغ نے یہ اشعار کہے ؎

ان المنایا اذا ما زرن طاغیة هتکن استار حجاب وابواب

جب موتیں کسی ظالم وجابر کے پاس آتی ہیں تو وہ حاجبوں اور دروازوں کے پردے چاک کر دیتی ہیں یعنی رسوا کر دیتی ہیں۔

اقول بعدا وسحقا عند مصرعه لابن الخبیثة وابن الکودن الکابی

میں اس خبیثہ کے بچے اور اس فرومایہ وناکس کے بچے کی موت کے وقت کہتا ہوں کہ شکر ہے وہ ہلاک ہوا۔

لا تقبل الارض موتاهم اذا قبروا وکیف تقبل رجسا بین اثواب

تو (ان بدبختوں میں سے ہے) جن کے مُردوں کو دفن کے وقت زمین بھی قبول نہیں کرتی اور ملبوس نجاست وغلاظت کو کیسے قبول کرے۔ (ابن اثیر ص $\frac{103}{4}$)

عمیر بن الحباب السلمی نے لشکر ابن زیاد کی مذمت میں کہا ؎

وما کان جیش یجمع الخمر والزنا محلا اذا لاقی العدو لینصرا

وہ لشکر جو اپنے قیام کے دوران شراب نوشی اور زنا کو جمع کرے وہ طاقت ور دشمن کے مقابلے میں فتح مند نہیں ہو سکتا۔ (ابن اثیر ص $\frac{104}{4}$)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ے گندم از گندم بروید جو ز جو   از مکافات عمل غافل مشو

حقیقت یہ ہے کہ مختار نے شہدائے کربلا کے مقدس خون کا خوب بدلہ لیا۔ ہزاروں دشمنان اہل بیت کو تہ تیغ کیا اور چن چن کر واصل بہ جہنم کیا اور کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کی۔ یہاں تک کہ شمر ملعون جو ایک روایت کے مطابق اس کا بہنوئی تھا اور شمر کا بیٹا جو اس کا بھانجا تھا اس کی گردن مارنے کا بھی حکم دیا۔ جب اس نے یہ عذر پیش کیا کہ میں تو معرکۂ کربلا میں شریک ہی نہ تھا میرا کیا قصور ہے؟ تو مختار نے کہا بے شک تو شریک تو نہ تھا مگر تو فخر کیا کرتا تھا کہ میرے باپ نے حسین کو قتل کیا ہے۔

مختار کا دعویٰ نبوّت

مختار نے قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو شاندار کردار ادا کیا تھا افسوس کہ وہ اس عظیم نیکی کو اپنے حق میں قائم نہ رکھ سکا اور اس پر شقاوت ازلی غالب ہوئی اور اس نے نبوّت کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ میرے پاس جبریل امین وحی لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ میں حلول کیا ہے (معاذ اللہ) اور اس کے کذّاب ہونے کی خبر حضور اکرم عالِم ما کان وما یکون صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی کہ سیکون فی ثقیف کذاب ومبیر بے شک عنقریب ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ہلاک کرنے والا ہوگا چنانچہ ترمذی شریف میں تو باب ماجاء فی ثقیف کذاب ومبیر قائم ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ شارحین حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ ثقیف کے کذاب سے مراد مختار اور مبیر سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ حضرت ابوبکر بن شیبہ فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مختار کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے فرمایا سچ کہتا ہے پھر یہ آیت پڑھی اِنَّ الشَّیَاطِیْنَ لَیُوْحُوْنَ اِلٰی اَوْلِیَآءِهِمْ کہ بے شک شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کیا کرتے ہیں۔ کذا فی عقد الفرید۔

مختار نے احنف بن قیس کو خط لکھا کہ تم اپنی قوم کو دوزخ کی طرف لیے جا رہے ہو۔ جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ وقد بلغنی انکم تکذبونی فان کذبت فقد کذبت

رسل من قبلی ولست بخیر منھم ۔ اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم لوگ میری تکذیب کرتے ہو تو اگر تم میری تکذیب کرتے ہو تو مجھ سے پہلے رسولوں کی بھی تو تکذیب کی گئی ہے اور میں ان سے بہتر نہیں ۔ (طبری ص ۱۳۲/۷ البدایہ والنہایہ ص ۲۷۵/۸)

عیسیٰ بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر (حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ) سے مختار کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ حضرت علی بن حسین (زین العابدین) کو دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے مختار پر لعنت کر رہے تھے ایک شخص نے ان سے کہا اللہ مجھے آپ پر نثار کرے آپ اس شخص پر لعنت کر رہے ہیں جو آپ ہی لوگوں کے معاملے میں ذبح کیا گیا آپ نے فرمایا انہ کان کذابا یکذب علی اللہ وعلی رسولہ ۔ بلاشبہ وہ کذاب تھا کیوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھا کرتا تھا ۔ (طبقات ابن سعد ص ۲۱۳/۵)

علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

وفی ایام الزبیر کان خروج المختار الکذاب الذی ادعی النبوۃ فجھز ابن الزبیر لقتالہ الی ان ظفر بہ فی سنۃ سبع وستین وقتلہ لعنۃ اللہ ۔

(تاریخ الخلفاء ص ۸۲)

اور عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے ایام میں مختار کذاب نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، خروج کیا تو ابن زبیر نے اس کے مقابلہ کے لیے ۶۷ھ میں لشکر تیار کر کے بھیجا جس نے اس ملعون کو شکست دے کر قتل کیا ۔

ساحل کو دیکھ دیکھ کے یوں مطمئن نہ ہو
کتنے سفینے ڈوبے ہیں ساحل کے پاس بھی

بعض لوگ جب اس قسم کی کوئی بات سنتے یا پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے منتخب کیا وہ گمراہ، کذاب اور ملعون کیسے ہو سکتا ہے؟ ملعون و کذاب کو بھی کیا ایسا شاندار کارنامہ ادا کرنے کی توفیق حاصل ہو سکتی ہے؟ اس شبہ کا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

جواب یہ ہے کہ ایسا ہونا شرعًا یا عقلاً کسی طرح بھی محال اور ناممکن نہیں۔ دیکھئے ابلیس لعین کتنا بڑا عابد وزاہد اور عالم و فاضل تھا بالآخر ملعون ہوگیا۔ بلعم بن باعور کا واقعہ دیکھ لیجئے کیسا عابد وزاہد اور مستجاب الدعوات تھا۔ آخر قعرِ مذلّت میں گر گیا اور کتّے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شان دار کارنامے انجام دیے اور آخر قسمت کی بدنصیبی کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہوئے۔

یہ ناچیز مؤلّف عرض کرتا ہے کہ جہاں تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خونِ ناحق کے انتقام کا تعلّق ہے اگر آپ گزشتہ سطور میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ ابن ذکریا کے قتل کے عوض ستر ہزار افراد مارے تھے اور تمہارے نواسے کے عوض ان سے دوگنا ماروں گا تو تاریخ شاہد ہے کہ حضرت یحییٰ بن ذکریا کے خونِ ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم، بدترین خلائق کو مقرر فرمایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت امام کے خونِ ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختار ثقفی جیسا کذاب بدترین خلق مقرر فرمایا چناں چہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۔ (قرآن ۶/۱۲۹) اور اسی طرح ہم مسلّط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض (ظالموں) پر بوجہ ان (کرتوتوں) کے جو وہ کرتے رہتے تھے یعنی ظالموں کو ہی ظالموں پر مسلّط کر کے پھر ظالموں کے ہاتھوں سے ظالموں کو ذلیل و خوار اور تباہ و برباد کرتے ہیں چناں چہ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے ؎

وما من يد الا يد الله فوقها ولا الظالم الا سيبلى بظالم

اور نہیں ہے کوئی ہاتھ یعنی کوئی طاقت مگر اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی طاقت ہے اور نہیں ہے کوئی ظالم مگر وہ کسی دوسرے ظالم کے سبب رنج و مصیبت میں مبتلا ہوگا۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر (سراج منیر شرح جامع صغیر ص۱۷۱/۲) بے شک اللہ اس دین اسلام کی مدد فاجر یعنی بدکار آدمی کے ذریعہ سے بھی کرا لیتا ہے۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

فضیلت عاشورا

عاشورا، عشر سے مشتق ہے اور عشر کے معنی دس عدد کے ہیں۔ عاشورا سے مراد ماہ محرم کا دسواں دن ہے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس دن کو عاشورا اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے دس نبیوں پر دس کرامتوں کا انعام فرمایا ہے۔ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہِ جودی پر رُکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون غرق ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن وہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی اور اسی دن ان کی اُمت کا قصور معاف ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنوئیں سے نکالے گئے۔ حضرت ایوبؑ علیہ السلام کو مشہور بیماری سے صحت حاصل ہوئی۔ حضرت ادریسؑ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن ان پر آگ گلزار ہوئی۔ حضرت سلیمانؑ علیہ السلام کو ملک عطا ہوا۔

علاوہ ازیں اور بھی انعامات و کرامات اور واقعات اس دن میں ہوئے جو شارحین حدیث اور علماء تاریخ و سیر نے نقل فرمائے ہیں۔ ثابت ہوا کہ یوم عاشورا واقعۂ کربلا سے پہلے بھی مکرم و معظم دن سمجھا جاتا تھا اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت بھی ۱۰ محرم دن بروز جمعہ یوم عاشورا ہی آئے گی۔ (غنیۃ الطالبین ملخصاً)

اعمال عاشورا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:-

امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوم عاشوراء یوم العاشر (ترمذی شریف)	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورا (محرم) کے دسویں دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

عاشورہ محرم کے روزے کی بہت فضیلت اور اجر و ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

فضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم (مسلم شریف)

کہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینہ محرم کے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

ما رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا یوم عاشوراء (بخاری ومسلم)

کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا کہ آپ کسی دن کے روزے کو دوسرے دنوں پر فضیلت دے کر تلاش کرتے ہوں۔ سوائے یوم عاشورہ کے۔ عاشورے کے روزے سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چناں چہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ (مسلم شریف)

یوم عاشورہ کا روزہ میں اللہ کے فضل و کرم سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس کو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔

اور علماء نے لکھا ہے کہ اس دن وحشی جانور بھی روزہ رکھتے ہیں۔

ف۔ چوں کہ اس دن یہود بھی روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ اس دن ان کو ان کے دشمن ظالم فرعون سے نجات ملی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہود کی مخالفت کرو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ تنہا دسویں کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ نویں کا بھی رکھا جائے یعنی دو روزے رکھے جائیں تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ رہے اور نویں کے روزہ کے بارے میں حدیث بھی موجود ہے۔ اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

من صام اول جمعۃ من المحرم	جو محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کا روزہ
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ومن	رکھے اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے
صام ثلاثۃ ایام من المحرم الخمیس	جاتے ہیں اور جو محرم کے تین دن یعنی

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

والجمعة والسبت کتب اللہ لہ عبادۃ تسعمائۃ عام۔ (نزہۃ المجالس ص۱۷۶ ج۱)

جمعرات جمعہ ہفتہ کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نو سو سال کی عبادت (کا ثواب) لکھ دیتا ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

من صام ایام العشر الی عاشوراء اورث الفردوس الاعلیٰ (نزہۃ المجالس ص۱۷۷ ج۱)

جو محرم کے پہلے دس دنوں کے روزے رکھے وہ فردوس اعلیٰ کا وارث ہو جاتا ہے۔

سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الٰہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام والمسلمین قطب الاقطاب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ نے عاشورے کے روزے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا۔

کہ در روزۂ عاشورا آہوان دشتی بدوستی خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرزندان خود را شیر نمید ہند پس چرا باشد کہ روزہ را نگاہ ندارند۔

کہ عاشورا کے روزے میں جنگل کی ہرنیاں بھی خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے سبب اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیتیں پس کیوں اس روزے کو چھوڑا جائے۔

(راحت القلوب ص۵۸)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

من صلی یوم عاشوراء اربع رکعات یقرء فی کل رکعۃ فاتحۃ الکتاب وقل ھو اللہ احد احدی عشرۃ مرۃ غفر اللہ لہ ذنوب خمسین عاما وبنی لہ منبرا من نور۔ (نزہۃ المجالس ص۱۷۸ ج۱)

جو عاشورے کے دن چار رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے پچاس برس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے نور کا منبر بناتا ہے۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

اور فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

من وسع علی عیالہ واھلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنۃ۔
(بیہقی، نزہۃ المجالس ص۱۷۸)

جو عاشورے کے دن اپنے اہل وعیال پر وسعت کرے (طعام وغیرہ کی) اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال وسعت فرماتا ہے۔

مصر میں ایک شخص تھا جس کے پاس ایک کپڑے کے سوا کچھ نہ تھا اس نے عاشورے کے دن مسجد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ میں صبح کی نماز پڑھی وہاں قاعدہ یہ تھا کہ عاشورے کے دن عورتیں اس مسجد میں دعا کرنے کے لیے جایا کرتی تھیں تو ایک عورت نے اس شخص سے کہا کہ للہ مجھے کچھ میرے بال بچوں کے لیے دو؟ اس شخص نے کہا اچھا میرے ساتھ چلو۔ گھر میں جاکر وہ کپڑا اتارا اور دروازے کی دراز سے اس عورت کو دے دیا اس عورت نے دعا دی کہ اللہ تجھے جنت کے حلے پہنائے۔

فرأی تلك اللیلة فی المنام حوراء جمیلة ومعھا تفاحة لھا رائحة طیبة مکسرتھا فوجد فیھا حلة فقال لھا من انت قالت انا عاشوراء زوجتك فی الجنة فاستیقظ فوجد البیت قد فاح فیه ریح طیبة فتوضاء وصلی رکعتین وقال اللھم ان کانت زوجتی حقا فی الجنة فاقبضنی الیك فاستجاب اللہ دعاءہ ومات فی الحال۔
(نزہۃ المجالس ص۱۷۸)

اسی رات اس شخص نے خواب میں ایک نہایت خوب صورت حور دیکھی جس کے پاس ایک خوشبودار سیب تھا اس نے سیب کو توڑا تو اس میں ایک حلہ پایا۔ اس شخص نے اس حور سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عاشوراہوں جنت میں تیری زوجہ! پھر وہ شخص جاگ پڑا اور سارے گھر کو خوشبو سے مہکتا پایا۔ وضو کرکے دو رکعتیں پڑھیں اور دعا کی اے اللہ اگر واقعی وہ جنت میں میری زوجہ ہے تو میری روح قبض کرلے اور مجھے اس کے پاس پہنچادے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور وہ اسی وقت مرگیا۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ع پہنچا مریض اپنے مسیحا کے پاس

امام عبداللہ یافعی مکی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ شہر "رے" (تہران) میں ایک بڑا امیر قاضی تھا اس کے پاس عاشورے کے دن ایک فقیر آیا اور اس نے قاضی سے کہا اللہ آپ کو عزت دے میں ایک فقیر اہل وعیال والا ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس دن کی حرمت وعزت کے صدقہ میں مجھے دس من آٹا، پانچ من گوشت اور دو درہم دے قاضی نے ظہر کے وقت دینے کا وعدہ کیا وہ فقیر ظہر کے وقت آیا۔ قاضی نے کہا عصر کے وقت دوں گا۔ جب عصر کا وقت آیا تو اس نے فقیر کو ٹال دیا اور کچھ بھی نہ دیا۔ فقیر شکستہ دل ہو کر چلا۔ راستہ میں ایک نصرانی اپنے مکان کے دروازے میں بیٹھا ہوا تھا۔ فقیر نے اس سے کہا اس دن کی عزت وحرمت کے صدقہ میں مجھے کچھ عطا کیجئے۔ نصرانی نے کہا اس دن کی خصوصیت کیا ہے؟ فقیر نے اس دن کی عزت وحرمت بیان کی (اور بتایا کہ یہ دن فرزند رسول دل بند بتول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے) نصرانی نے فقیر سے کہا کہ تم نے اپنی حاجت کے سلسلے میں بہت بڑے عظیم دن کی حرمت کا واسطہ اور قسم دی ہے لہذا اپنی حاجت بیان کرو۔ فقیر نے وہی آٹے گوشت اور درہموں کا سوال کیا۔ نصرانی نے دس بوری گندم اڑھائی من گوشت اور بیس درہم دے کر کہا کہ یہ تیرے اور تیرے عیال کے لیے ہے اور جب تک میں زندہ رہوں اس ماہ کے اس دن کی کرامت کی وجہ سے ہر سال آتا ہے جایا کرو فقیر یہ سب کچھ لے کر اپنے گھر چلا گیا جب رات ہوئی اور وہ قاضی سویا تو اس نے خواب میں ہاتف غیبی سے سُنا کہ اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھو قاضی نے سر اٹھا کر دیکھا تو دو محل تھے۔ ایک کی دیواریں سونے چاندی کی تھیں اور دوسرا سرخ یاقوت کا۔ قاضی نے کہا یا الٰہی یہ دونوں محل کس کے ہیں؟

فقیل لہ ھذان کانا لک	اس کو کہا گیا یہ دونوں تیرے لیے تھے
لو قضیت حاجۃ الفقیر فلما	اگر تو فقیر کی حاجت پوری کر دیتا۔ پس
ردتہ صارا الفلان النصرانی	جب تو نے اس کو رد کر دیا تو اب یہ دونوں
فانتبہ القاضی مرعوبا ینادی	محل فلاں نصرانی کے ہو گئے ہیں۔ قاضی

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

یا الویل والثبور فقد الی النصرانی	گھبرا کر نیند سے چونک پڑا اور ہائے واے
فقال له ماذا فعلت البارحة	کرنے لگا. صبح کو نصرانی کے پاس آکر کہا
من الخیر فقال له وکیف	تو نے گزشتہ رات کیا نیکی کی ہے؟ اس
ذلك فذکر له الرؤیاء ثم قال	نے وجہ سوال پوچھی. قاضی نے اپنا خواب
له بعنی الجمیل الذی عملت	بتایا اور کہا کہ تو اپنی اس اچھی نیکی جو تو نے
مع الفقیر بمائتہ الف فقال له	فقیر کے ساتھ کی ہے میرے ہاتھ سو ہزار
النصرانی انی لا ابیع ذلك بملئ	درہم کے عوض بیچ دے نصرانی نے کہا
الارض کلها ما احسن المعاملة مع	اگر کوئی زمین بھر درہم بھی دے تب بھی
هذا الرب الکریم اشهد ان لا اله	میں اس کو نہ بیچوں گا یہ کتنا اچھا معاملہ
الا الله واشهد ان محمدا رسول	رب کریم کے ساتھ ہوا ہے یہ کہہ کر وہ
الله وان دینه هو الحق (روض	نصرانی کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور
الریاحین ص۱۵۱)	کہا بلا شبہ یہ دین سچا ہے۔

ایک شخص نے بعض علماء سے سُنا کہ اگر کوئی عاشورہ کے دن ایک درہم صدقہ کرے تو اللہ تعالے اس کے بدلہ میں اس کو ایک ہزار درہم دے گا اس شخص نے سات درہم صدقہ کیے تھے. ایک سال کے بعد پھر کسی عالم سے سُنا تو کہنے لگا یہ صحیح نہیں ہے. میں سات درہم صدقہ کیے تھے ایک سال ہو گیا ہے مجھے تو اس کے بدلے میں ایک کوڑی بھی نہیں ملی. یہ کہہ کر چلا گیا رات کو اس کے دروازہ پر کسی نے آواز دی وہ باہر آیا تو آواز دینے والے نے کہا اے جھوٹے یہ سے سات ہزار درہم اگر تو قیامت تک صبر کرتا تو نہ معلوم کتنی جزا پاتا. (روض الافکار)

ان روایات سے ثابت ہوا کہ عاشورا کے دن روزہ رکھنا، صدقہ وخیرات کرنا، نوافل پڑھنا اور ذکر واذکار وغیرہ کرنا بہت ہی نفضیلت اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔

اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور جنت کے نوجوانوں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کا سردار بھی اسی برگزیدہ اور مبارک دن میں شہادت عظمیٰ کا مرتبہ حاصل کرے۔[1]

---

[1] چودھویں صدی کے اس پُر فتن دور میں دشمنانِ اہل بیت خوارج نے اہل بیت رسول سے اپنے بغض و عناد، عداوت اور خبثِ باطن کے اظہار میں اس قدر زیادتی کردی ہے کہ خدا کی پناہ!

امت میں فتنہ و فساد اور انتشار و افتراق پھیلانے والے اس گروہِ شر پر نے اپنی تحریروں اور تقریروں میں یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ دس محرم یوم عاشورا غم حسین منانے کا دن نہیں بلکہ خوشی کا دن ہے اور ایسی فضیلت کا دن ہے کہ اس میں شادیاں کرنی چاہئیں۔ چناں چہ سننے میں آیا ہے کہ اس گروہ بد نے اس پر عمل کرتے ہوئے اس دن شادیاں رچانی شروع کر دی ہیں۔ یقیناً یہ اہل بیت رسول کا بغض نہیں تو اور کیا ہے؟ فضیلت عاشورا اور اعمال عاشورا کے عنوانات کے تحت جلیل القدر بزرگوں کی روایات اور حوالے آپ کی نظر سے گزرے ہیں۔ کوئی مسلمان جس کے دل میں آلِ رسول کی تھوڑی سی محبت اور تعظیم بھی ہو گی وہ اہل بیت رسول پر ہونے والے مصائب پڑھ کر یا سُن کر انسانیت ہی کے ناتے مغموم ضرور ہو گا اور یزیدی ظلم و ستم پر افسوس بھی کرے گا اور ایسے عظیم سانحے کے دن میں وہ اگر ان کی یاد میں فاتحہ و قرآن خوانی یا صدقہ و خیرات وغیرہ سے ایصال ثواب نہ بھی کرے تو کم از کم کوئی ایسا کام بھی نہیں کرے گا جس سے یہ ظاہر ہو کہ اسے اس سانحے سے کوئی خوشی پہنچی ہے۔ پڑوس میں عزیز و اقارب میں کوئی حادثہ ہو جائے تو خواہ کتنی فضیلت والا دن کیوں نہ ہو ایسی تقاریب ملتوی کر دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ہر مسلمان کو اپنی قرابت سے زیادہ عزیز و محترم اور محبوب ہونی چاہیے اور رسول اللہ کے قرابت داروں کی محبت تو ہم پر واجب ہے۔ محبوب کے غم پر خوشی یقیناً اچھا فعل نہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آل رسول پر ہونے والے ظلم و ستم سے جو لوگ خوش ہوئے ان کا انجام اس دنیا میں بھی برا ہوا اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ یوم عاشورا کو شادیاں رچانا بغض اہل بیت کی دلیل ہے اللہ تعالےٰ ہمیں ہر قسم کی بے ادبی اور گستاخی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ کوکب نورانی اوکاڑوی غفرلہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

یاد رکھیے! اس دن میں حضرت امام پاک رضی اللہ عنہ پر جو مصائب و آلام آئے وہ ان کے درجات کی بلندی اور مقام کی رفعت کا سبب بنے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اُن کی بے مثال قربانی سے جو انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اسلام کی بقا کے لیے دی اور فسق و فجور کے خلاف حق و صداقت کی آواز بلند کی اور لرزا دینے والے مصائب کے باوجود بھی حق پر ثابت قدم رہے۔ سبق اور عبرت حاصل کریں اور حق و صداقت پر قائم رہنے اور اللہ کی رضا اور اسلام کی بقا کے لیے قربانی دینا اپنا شیوہ و طریقہ بنائیں اور اس دن میں نیکی و بھلائی میں کثرت کریں اور ایسے اقوال و افعال سے اجتناب کریں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں۔ البتہ ان کی شہادت اور ان پر آنے والے آلام و مصائب کے ذکر کے وقت اگر درد و محبت کے بسبب آنسو آجائیں اور گریہ طاری ہو جائے تو یہ محمود اور مستحسن ہے اور عین سعادت ہے۔ لیکن سینہ کوبی وغیرہ نہ کرنا چاہیے یہ ناجائز اور حرام ہے۔

ذکرِ شہادت پر آنسو بہانا

شروع صفحات میں احادیث گزر چکی ہیں کہ جب جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی تو آپ نے یہ خبر سن کر آنسو بہائے[1] اور شہادت کے روز بھی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرمؐ کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں ابھی اپنے بیٹے حسین کی شہادت گاہ میں گیا تھا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم کے قلب اقدس کو کس قدر رنج و غم پہنچا ہو گا۔ امیر المومنین حضرت

---

[1] رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہادت حسین سے تقریباً ۵۰ برس قبل صرف خبر شہادت سن کر اس کے تصور ہی سے اشک بار ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ شہادت کے ذکر پر بغیر بناوٹ و تصنع کے درد و محبت سے صرف آنسو بہانا آپ کی سنت اور باعث اجر و ثواب ہے۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

علی کرم اللہ وجہہ جب سفر صفین سے واپسی کے موقع پر زمین کربلا سے گزرے تھے تو آپ نے بھی روتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس میدان میں کتنے جوانان محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوں گے اور ان پر زمین و آسمان روئیں گے۔ شہادت کے وقت بھی زمین و آسمان کا خون کے آنسو رونا اور جنوں کا نوحہ کرنا اور مرثیہ خوانی کرنا ذکر شہادت میں بیان ہوا ہے۔ علاوہ ازیں تین روز تک دنیا کا تاریک ہو جانا اور آسمان کا سرخ ہو جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ واقعہ اس قدر دردانگیز اور الم ناک تھا جس نے ہر ایک کو تڑپا کے رکھ دیا تھا قطب الاقطاب، غوث الثقلین، محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کتاب غنیۃ الطالبین میں ہے۔

عن حمزة بن الزيات قال رايت	حضرت حمزہ بن زیات فرماتے ہیں کہ میں
النبى صلى الله عليه وسلم و	نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم خلیل اللہ
ابراهيم الخليل عليه السلام	علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ دونوں
فى المنام يصليان على قبر	حضرت حسین بن علی کی قبر پر نماز (جنازہ)
الحسين بن على۔	پڑھ رہے ہیں۔

اور اسی میں ہے کہ حضرت اسامہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ:۔

هبط على قبر الحسين بن	جس دن حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ
على رضى الله عنه يوم اصيب	شہید ہوئے ہیں اس دن سے ستر ہزار
سبعون الف ملك يبكون عليه	فرشتے ان کی قبر پر اترے ہیں جو ان پر
الى يوم القيامة (غنية الطالبين ص ۴۳۲)	قیامت تک روتے رہیں گے۔

سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الٰہی دہلوی قدس سرہٗ فرماتے ہیں کہ میں ماہ محرم شریف ۶۵۶ھ میں سلطان المشائخ، شیخ الشیوخ العالم، برہان الحقیقۃ، سید العابدین، بدر العارفین، عمدۃ الابرار قدوۃ الاخیار، تاج الاصفیاء سراج الاولیاء، برہان الشرع والدین، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا آپ نے عاشورا کے عشرہ متبرکہ کی فضیلت میں فرمایا:۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

درین عشرہ در چیز دیگر مشغول نمی باید شد مگر
در اطاعت و تلاوت و دعا و نماز
کہ آمدہ است مشغول گردو انیراکہ
درین عشرہ قہر میرود و رحمت
بسیار نازل میشود . . . . بعدازاں
فرمود کہ نمیدانی درین عشرہ بر سرور عالم
صلی اللہ علیہ وسلم چہ گذشتہ و فرزندان
او را چگونہ زار زار کشتہ اند و بعضے
در تشنگی ہلاک شدہ اند کہ قطرہ
آب آں بدبختاں بداں خداوند
زادگان ندادند چوں شیخ الاسلام
درین سخن رسیدہ نعرہ بزد و بیفتاد
و چوں بہ ہوش باز آمد گفت زہی
سنگدلان و زہی کافران و بے
عاقبتان و بے سعادتان و نامہربان
کہ دائم و قائم میدانند کہ ایشاں
فرزندان بادشاہ دین و دنیا و آخرت
اند و زار زار می کشتند ایں قدر بخاطر
ایں ہا نمیگزرد کہ فردائے قیامت
بر خواجۂ عالم چہ خواہیم نمود ۔
(راحۃ القلوب ص۵۷)

اس عشرہ میں کسی اور کام میں مشغول نہیں
ہونا چاہیے سوائے اطاعت۔ تلاوت دعا
و نماز وغیرہ کے اس واسطے کہ اس عشرہ میں
قہر الٰہی بھی ہوا ہے اور بہت رحمت الٰہی
بھی نازل ہوتی ہے بعدازاں فرمایا کہ کیا
تجھے معلوم نہیں کہ اس عشرہ میں حضور سرور
عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری؟ اور آپ
کے فرزندوں کو کس طرح بے رحمی سے
شہید کیا گیا بعض پیاس کی حالت میں
ہلاک ہوئے کہ ان بدبختوں نے ان اللہ
کے پیاروں کو پانی کا ایک قطرہ تک نہ
دیا جب شیخ الاسلام نے یہ بات فرمائی
تو ایک نعرہ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑے
جب ہوش میں آئے تو فرمایا کیسے سنگ
دل، کافر بے عاقبت بے سعادت اور
نامہربان تھے حالاں کہ انہیں خوب معلوم
تھا کہ یہ دین و دنیا اور آخرت کے بادشاہ
کے فرزند ہیں پھر بھی انہیں بڑی بے رحمی سے
شہید کیا اور انہیں یہ خیال نہ آیا کہ کل
قیامت کے دن حضرت خواجۂ عالم صلی
اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے ۔

حضرت خواجہ امیر خسرو نظامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کی ۵ تاریخ کو سلطان الاولیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا محبوب الٰہی قدس سرہٗ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا ۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

دوران ارشادات حضرت خواجہ نے آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے جگر گوشوں کا حال سب کو معلوم ہے کہ ظالموں نے ان کو دشت کربلا میں کس طرح بھوکا پیاسا شہید کیا پھر فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن سارا جہان تیرہ و تار ہوگیا۔ بجلی چمکنے لگی۔ آسمان اور زمین جنبش کرنے لگے۔ فرشتے عقب میں تھے اور باربار (حق تعالیٰ سے) اجازت طلب کرتے تھے کہ حکم ہو تو تمام ایذاء دہندوں کو ملیا میٹ کردیں۔ حکم ہوتا کہ تمہیں اس سے کچھ واسطہ نہیں ہے تقدیر یوں ہی ہے میں جانوں اور میرے دوست تمہارا اس میں دخل نہیں ۔

میان عاشق و معشوق رمز یست　　　کراماً کاتبین را ہم خبر نیست

میں قیامت کے دن ان ظالموں کے بارے میں انہیں (اپنے دوست) سے فیصلہ کراؤں گا جو کچھ وہ کہیں گے اسی کے مطابق ہوگا۔ (افضل الفوائد ترجمہ اردو ص۷۵)

مجالس محرم کا انعقاد اور ایصال ثواب کی نیت سے نذر و نیاز کرنا سبیل لگانا اور شربت دودھ وغیرہ پلانا

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حاضر ہوکر عرض کی یارسول اللہ! میری ماں فوت ہوگئی ہے۔

فای الصدقۃ افضل قال الماء	تو کون سا صدقہ افضل ہے (جو ماں کے
۔ فحفر بئرا وقال ھذہ لام	لیے کروں) فرمایا پانی تو انہوں نے کنواں
سعد (ابوداؤد شریف کتاب الزکوٰۃ)	کھدوا دیا اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔

اس حدیث میں یہ الفاظ ھٰذِہٖ لِاُمِّ سَعدٍ کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ یعنی ان کی روح کو ثواب پہنچانے کی غرض سے بنوایا گیا ہے اس سے صراحتہً ثابت ہوا کہ جس کی روح کو ثواب پہنچانے کی غرض سے کوئی صدقہ و خیرات کی جائے اگر اس صدقہ اور خیرات اور نیاز پر مجازی طور پر اس کا نام لیا جائے یعنی یوں کہا جائے کہ یہ سبیل حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کے لیے ہے یا یہ کھانا یا یہ نیاز صحابہ کبار یا اہل بیت اطہار یا حضرت غوث اعظم یا حضرت خواجہ غریب نواز کے لیے ہے تو

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ہرگز ہرگز اس سبیل کا پانی اور وہ کھانا و نیاز وغیرہ حرام نہ ہو گا۔ ورنہ پھر یہ بھی کہنا پڑے گا۔ کہ اس کنویں کا پانی بھی حرام تھا جس کنویں کے پانی کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اس کنویں کا پانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابۂ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اہل مدینہ کے نزدیک حلال وطیب ہے تو جس سبیل کے پانی کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ امام حسین اور شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کے لیے ہے یا یہ نیاز وغیرہ فلاں کے لیے ہے تو وہ بھی مسلمانوں کے نزدیک حلال وطیب ہے۔

مذہب حنفی کی معتبر و مشہور کتاب ہدایہ شریف میں ہے کہ

ان الانسان له ان یجعل ثواب عمله لغیره صلوٰة او صوما او غیرها عند اهل السنة والجماعة	بے شک انسان اپنے عمل کا ثواب کسی دوسرے شخص کو پہنچا سکتا ہے خواہ نماز کا ہو یا روزہ کا ہو یا صدقہ و خیرات وغیرہ کا ہو یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے

حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:۔

حضرت امیر و ذریت طاہرہ او را تمام امت بر مثال پیران و مرشداں می پرستند و امور تکوینیہ را بایشاں وابستہ میدانند و فاتحہ و درود و صدقات و نذر بنام ایشاں رائج و معمول گردیدہ چنانچہ با جمیع اولیاء اللہ ہمیں معاملہ است (تحفہ اثنا عشریہ صـ۲۹۶)	حضرت علی اور ان کی اولاد پاک کو تمام افرادِ امت پیروں و مرشدوں کی طرح مانتے ہیں اور تکوینی امور کو ان حضرات کے ساتھ وابستہ جانتے ہیں اور فاتحہ و درود و صدقات اور نذر و نیاز ان کے نام کی ہمیشہ کرتے ہیں چناں چہ تمام اولیاء اللہ کا یہی حال ہے۔

یہی شاہ صاحب دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

طعامیکہ ثواب آں نیاز حضرت امامین نمایند برآں فاتحہ و قل و	وہ کھانا حضرت امام حسن و حسین کی نیاز کے لیے پکایا جائے اور جس پر فاتحہ، قل

درود خواندن تبرک می شود خوردن	شریف، اور درود پڑھا جائے وہ
او بسیار خوب است۔	تبرک ہو جاتا ہے اور اس کا کھانا
(فتاوی عزیزی ص۷۵)	بہت ہی اچھا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:۔

وشیر برنج بنا بر فاتحہ بزرگے بقصد	دودھ، چاول (کھیر) کسی بزرگ کی فاتحہ
ایصال ثواب بروح ایشاں پزند و	کے لیے ان کی روح کو ثواب پہنچانے
بخورانند مضائقہ نیست جائز است	کی نیت سے پکانے اور کھانے میں
واگر فاتحہ بنام بزرگے دادہ شود	کوئی مضائقہ نہیں ہے جائز ہے اور
اغنیارا ہم خوردن جائز است۔	اگر کسی بزرگ کی فاتحہ دی جائے تو مال
(زبدۃ النصائح ص۱۳۲)	داروں کو بھی کھانا جائز ہے۔

حضرت شیخ احمد مجد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام محمد شیبانی رضی اللہ عنہ کہ شاگرد رشید امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد سے ہیں اور علوم شریعت وطریقت کے جامع اور صاحب ورع وتقویٰ اور ذوق وشوق تھے جن کی ساری زندگی امر معروف اور نہی منکر میں گزری ان کے حالات شریفہ میں شیخ محقق حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ووی بغایت محبت خاندان نبوت	اور وہ خاندان نبوت علیہ التحیۃ کے ساتھ
علیہ التحیۃ موصوف بود بر طریقہ پیر	انتہائی محبت وعقیدت رکھتے ہیں اپنے
خود گویند کہ در عشرۂ عاشورا ودوازدہ	پیر ومرشد کے طریقہ پر تھے کہتے ہیں کہ عشرہ
از اول ربیع الاول جامۂ نو وجامۂ	عاشورہ اور ربیع الاول کے پہلے بارہ
شستہ نپوشیدی ودر لیالی	دنوں میں وہ نئے اور اچھے کپڑے نہ
ں ایام جز بر خاک نہ خفتی ودر	پہنتے اور ان دنوں کی راتوں میں زمین
مقابر سادات معتکف شدی و	پر ہی سوتے اور مقابر سادات میں
ہر روز بقدر امکان بروح حضرت	اعتکاف کرتے اور ہر روز بہ قدر امکان حضرت

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دبار داحِ
خاندان مطہر توسیع طعام میکرد وچوں
روز عاشورا شدی کوزہائی نو از
شربت پر کردی وبر سر خود
نہادی وبدر خانہ سادات رفتی
ویتیماں وفقیران ایشاں را بخورا
نیدی و دراں ایام چنداں گریستی
کہ گویا آں واقعہ در حضور او شدہ
است۔ (اخبار الاخیار صـ۱۸۴)

رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح پاک
اور آپ کے خاندان مقدس کی ارواح
کو ثواب ہدیہ کرنے کے لیے طعام میں
توسیع کرتے۔اور عاشورا کے دن نئے
کوزے شربت سے بھر کر اپنے سر پر
رکھ کر سادات کے گھروں میں جاتے
اور ان کے یتیموں اور فقیروں کو بلاتے
اور ان ایام میں اس طرح گریہ کرتے کہ گویا
واقعہ کربلا ان کے سامنے ہو رہا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالفعل جو کچھ معمول اس فقیر کا ہے لکھتا ہے اسی سے قیاس کر لینا چاہیے کہ سال بھر میں دو مجلسیں فقیر کے یہاں ہوتی ہیں ایک مجلس ذکر وفات شریف دوسری مجلس ذکر شہادت حسین رضی اللہ عنہ اور یہ مجلس بروز عاشورا یا اس سے ایک دو دن پہلے ہوتی ہے قریب چار پانچ سو بلکہ ہزار آدمی یا اس سے بھی زیادہ جمع ہو جاتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ بعد ازاں یہ فقیر آ کر بیٹھتا ہے اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہ کے فضائل جو حدیث شریف میں وارد ہوئے ہیں بیان میں آتے ہیں اور ان بزرگوں کی شہادت کی خبریں جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں اور بعضے حالات کی تفصیل اور ان حضرات کے قاتلوں کا بد انجام ذکر کیا جاتا ہے۔

دریں ضمن بعضے مرثیہ ہا کہ از مردم غیر یعنی
جن وپری حضرت ام سلمہ ودیگر صحابہ
رضی اللہ عنہم شنیدہ اند نیز مذکور میشود
وخواب ہائے متوحش کہ حضرت ابن
عباس ودیگر صحابہ دیدہ اند و دلالت
بر فرط حزن واندوہ روح مبارک جناب

اس ضمن میں بعضے مرثیے جو جن وپری
سے حضرت ام سلمہ ودیگر صحابہ رضی اللہ
عنہم نے سنے ہیں وہ بھی ذکر کیے جاتے
ہیں اور وہ خواب ہائے وحشت ناک
ذکر کیے جاتے ہیں جو حضرت ابن عباس
ودیگر صحابہ نے دیکھے تھے جو دلالت

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

رسالتمآب صلی اللہ علیہ وسلم می کنند
مذکور می گردد بعد ازاں ختم قرآن مجید
و پنج آیتہ خواندہ بر ماحضر فاتحہ نمودہ
می آید و دریں بین اگر شخصے خوش الحان
سلام می شود خواند یا مرثیہ مشروع ایں
اتفاق می شود ظاہر است کہ دریں
بین اکثر حضار مجلس را و ایں فقیر را
ہم رقت و بکا لاحق می شود ایں
است قدرے کہ بہ عمل می آید پس
اگر ایں چیزہا نزد فقیر بہمیں وضع کہ مذکور
شد جائز نمی بود اقدام برآں اصلاً
نمی کرد ۔ (فتاویٰ عزیزی ص۱۱۱)

کرتے ہیں روح مبارک جناب رسالت
مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت رنج
غم پر اس کے بعد قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے
اور پنج آیت پڑھ کر کھانے کی جو چیز
موجود ہوتی ہے اس پر فاتحہ کی جاتی ہے
اور اس اثنا میں اگر کوئی شخص خوش الحان
سلام پڑھتا ہے یا مرثیہ مشروع پڑھنے کا
اتفاق ہوتا ہے تو اکثر حاضرین مجلس اور
اس فقیر کو بھی حالت رقت و گریہ و بکا
لاحق ہوتی ہے، اس قدر عمل میں آتا ہے
پس اگر یہ سب کچھ جو ذکر کیا گیا ہے فقیر کے نزدیک
جائز نہ ہوتا تو فقیر ہرگز اس پر اقدام نہ کرتا ۔

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی جو صاحب ترجمۂ قرآن بھی ہیں ایک فتویٰ میں فرماتے ہیں ۔

دوسرے یہ کہ مقرر کرنا دن اور مہینے کا مولد شریف کے لیے اور لوگوں کے ایک جگہ اکٹھا ہونے کے واسطے ربیع الاول میں اور یوں ہی :۔

انعقاد مجلس ذکر شہادت امام حسین
علیہ السلام در ماہ محرم در روز عاشورا
یا غیر آں و شنیدن سلام و مرثیہ مشروع
و گریہ و بکا بر حال شہدائے کربلا جائز
درست است ۔

انعقاد مجلس ذکر امام حسین علیہ السلام کی
محرم کے مہینے میں اس کے سوا اور
سننا سلام اور مرثیۂ مشروع کا
اور گریہ و بکا حال شہدائے کربلا پر
جائز اور درست ہے ۔

مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں ۔

سوال :۔ مصائب کربلا خیال کردہ

سوال :۔ کربلا کے مصائب کا خیال

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

واحوال امام تصور بدیدہ اگر اشکہا از چشم جاری شوند ہیچ مضائقہ دارد یا نہ؟

جواب:- ہیچ مضائقہ ندارد و بیہقی و حاکم روایت کردہ کہ چشم مبارک آں سرور صلی اللہ علیہ وسلم بدیں غم اشکہا ریختہ بود در روز واقعہ کربلا ابن عباس وام سلمہ رضی اللہ عنہما آں سرور صلی اللہ علیہ وسلم را بخواب دیدند پریشان مو غبار آلودہ چناں چہ احمد وبیہقی ایں مضمون را روایت کردہ است وایں گریہ امر غیر اختیاری ست۔

(مجموعہ فتویٰ ص ۱۲۷/۳)

اور امام کے احوال کا تصور کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو کوئی مضائقہ ہے یا نہیں؟

جواب:- کوئی مضائقہ نہیں بیہقی اور حاکم نے روایت کی ہے کہ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک اسی غم سے اشک بار ہوئیں اور واقعہ کربلا کے دن حضرت ابن عباس و حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے آں سرور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ پریشان وملول (اور) بال غبار آلودہ تھے چناں چہ اس مضمون کو احمد وبیہقی نے روایت کیا ہے اور یہ گریہ غیر اختیاری بات ہے۔

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین وملت، حکیم الامت علامہ شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

جو مجلس ذکر شریف حضرت سیدنا امام حسین واہل بیت کرام رضی اللہ تعالےٰ عنہم کی ہو جس میں روایات صحیحہ معتبرہ سے ان کے فضائل ومناقب ومدارج بیان کیے جائیں اور ماتم وتجدید غم وغیرہ امور مخالفۂ شرع سے یک سر پاک ہو فی نفسہ حسن ومحمود ہے خواہ اس میں نثر پڑھیں یا نظم اگرچہ وہ نظم بوجہ ایک مسدس ہونے کے جس میں ذکر حضرت سید الشہداء ہے عرف حال میں بنام مرثیہ موسوم ہو کہ اب یہ وہ مرثیہ نہیں جس کی نسبت ہے۔

ونہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراثی واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم۔ (اعالی الافادہ فی تعزیۃ الہند وبیان الشہادۃ ص ۱۳)

اسی رسالہ میں دوسری جگہ فرماتے ہیں:-

ذکر شہادت شریف جب کہ روایات موضوعہ وکلمات ممنوعہ ونیت نامشروعہ سے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

خالی ہو عین عبادت ہے۔ عند ذکر الصّٰلحین تنزل الرحمۃ۔
(یعنی صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے) ص۹

اسی رسالہ میں تیسری جگہ **تعزیہ داری** کے متعلق فرماتے ہیں۔

تعزیہ کی اصل اس قدر تھی کہ روضۂ پر نور حضور شہزادۂ گلگوں قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علی جدہ الکریم وعلیہ کی صحیح نقل بنا کر بہ نیت تبرک مکان میں رکھنا اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا کہ تصویر مکانات وغیرہا ہر غیر جان دار کی بنانا رکھنا سب جائز اور ایسی چیزیں کہ معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کریں ان کی تمثال بہ نیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز جیسے صدہا سال سے طبقہ فطبقۃ آئمہ دین وعلمائے معتمدین نعلین شریفین حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے بنانے اور ان کے فوائد جلیلہ ومنافع جزیلہ میں مستقل سالے تصنیف فرماتے ہیں جسے اشتباہ ہو امام علامہ تلمسانی کی فتح المتعال وغیرہ مطالعہ کرے۔ مگر جہال بے خرد نے اس اصل جائز کو بالکل نیست و نابود کر کے صدہا خرافات وہ تراشیں کہ شریعت مطہرہ سے الاماں الاماں کی صدائیں آئیں اوّل تو نفس تعزیہ میں روضۂ مبارک کی نقل ملحوظ نہ رہی ہر جگہ نئی تراش نئی گڑھت جسے اس نقل سے کچھ علاقہ نہ نسبت پھر کسی میں پریاں کسی میں براق کسی میں اور بے ہودہ طمطراق پھر کوچہ بہ کوچہ و دشت بہ دشت اشاعتِ غم کے لیے ان کا گشت اور ان کے گرد سینہ زنی اور ماتم سازی کی انگنی کوئی ان تصویروں کو جھک جھک سلام کر رہا ہے کوئی مشغول طواف کوئی سجدے میں گرا ہے کوئی ان مایہ بدعات کو معاذ اللہ جلوہ گاہ حضرت امام علی جدہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سمجھ کر اس ابرک پنی سے مرادیں مانگتا منتیں مانتا ہے حاجت روا جانتا ہے۔ پھر باقی تماشے باجے تاشے مردوں عورتوں کا راتوں کا میل اور طرح طرح کے بے ہودہ کھیل ان سب پر طرہ ہیں۔ غرض عشرۂ محرم الحرام کہ اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت ومحل عبادت ٹھہرا ہوا تھا ان بے ہودہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا پھر وبال ابتداع کا وہ جوش ہوا کہ خیرات کو بھی بہ طور خیرات نہ رکھا ریا و تفاخر علانیہ ہوتا ہے پھر وہ بھی یہ نہیں کہ سیدھی طرح

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

محتاجوں کو دیں بلکہ چھتوں پر بیٹھ کر پھینکیں گے روٹیاں زمین پر گر رہی ہیں رزقِ الٰہی کی بے ادبی ہوتی ہے پیسے ریتے میں گر کر غائب ہوتے ہیں مال کی اضاعت ہو رہی ہے مگر نام تو ہو گیا کہ فلاں صاحب لنگر لٹا رہے ہیں اب بہار عشرہ کے پھول کھلے تاشے باجے بجتے چلے طرح طرح کے کھیلوں کی دھوم بازاری عورتوں کا ہر طرف ہجوم۔ شہوانی میلوں کی پوری رسوم جشن یہ کچھ اور اس کے ساتھ خیال وہ کچھ کہ گویا یہ ساختہ تصویریں بعینہا حضرات شہداء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے الرضوان والثنا کا ہمارے بھائیوں کو نیکیوں کی توفیق بخشے اور بری باتوں سے توبہ فرمائے آمین۔ اب کہ تعزیہ داری اس طریقۂ نامرضیہ کا نام ہے قطعاً بدعت وناجائز وحرام ہے ہاں اگر اہل اسلام جائز طور پر حضرت شہدائے کرام علیہم الرضوان والثنا کی ارواح طیبہ کو ایصال ثواب کی سعادت پر اقتصار کرتے تو کس قدر خوب ومحبوب تھا اور اگر نظر شوق ومحبت میں نقل روضۂ انور کی بھی حاجت تھی تو اسی قدر جائز قناعت کرتے کہ صحیح نقل بغرض تبرک وزیارت اپنے مکانوں میں رکھتے اور اشاعت غم وتصنع الم ونوحہ زنی وماتم کنی ودیگر امور شنیعہ وبدعاتِ قطعیہ سے بچتے اس قدر میں بھی کوئی حرج نہ تھا مگر اب اس نقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت اور تعزیہ داری کی تہمت کا خدشہ اور آئندہ اپنی اولاد یا اہل اعتقاد کے لیے ابتلائے بدعات کا اندیشہ ہے اور حدیث میں آیا۔

اتقوا مواضع التهم اور وارد ہوا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم۔

لہٰذا روضۂ اقدس حضور سید الشہداء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی ایسی تصویر بھی نہ بنائے بلکہ کاغذ کے صحیح نقشے پر قناعت کرے اور اسے بہ قصد تبرک بے آمیزش منہیات اپنے پاس رکھے جس طرح حرمین محترمین سے کعبۂ معظمہ اور روضۂ عالیہ کے نقشے لکھے ہیں یا دلائل الخیرات شریف میں قبور پر نور کے نقشے لکھے ہیں والسلام علی من اتبع الھدی واللہ تعالیٰ وسبحانہ اعلم ص۲

اسی رسالہ میں چوتھی جگہ فرماتے ہیں۔

پانی یا شربت کی سبیل لگانا جب کہ بہ نیت محمود اور خالصاً لوجہ اللہ ثواب رسانی

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

رواح طیبۂ آئمہ اطہار مقصود ہو بلاشبہ بہتر و مستحب و کارِ ثواب ہے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اذا کثرت ذنوبك فاسق الماء علی الماء تتناثر کما یتناثر الورق من الشجرة فی الریح العاصف۔

جب تیرے گناہ زیادہ ہوجائیں تو پانی پر پانی پلا گناہ جھڑ جائیں گے جیسے سخت آندھی میں پیڑ کے پتے (رواہ الخطیب عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

اسی طرح کھانا کھلانا لنگر بانٹنا بھی مندوب و باعث اجر ہے حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ان اللہ عزوجل یباھی ملائکتہ بالذین یطعمون الطعام من عبیدہ

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ فرشتوں کے مباہات فرماتا ہے کہ دیکھو یہ کیسا اچھا کام کر رہے ہیں (رواہ ابو الشیخ فی الثواب عن الحسن مرسلاً)

مگر لنگر لٹانا جیسے کہتے ہیں کہ لوگ چھتوں پر بیٹھ کر روٹیاں (وغیرہ) پھینکتے ہیں کچھ ہاتھوں میں آتی ہیں کچھ زمین پر گرتی ہیں کچھ پاؤں کے نیچے آتی ہیں یہ منع ہے کہ اس میں رزق الٰہی کی بے تعظیمی ہے۔ ص۱۱

صبر اور جزع و فزع

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:۔

وَبَشِّرِ الصَّابِرِیْنَ الَّذِیْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِیْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَیْهِ رٰجِعُوْنَ ط اُولٰٓئِكَ عَلَیْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ۔	اور خوش خبری دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

(البقرۃ) سے صلوات اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو لوگ بہ وقت مصیبت صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بشارت صلوٰۃ اور رحمت ہے فرمایا۔

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ۔

بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ صابروں کو اللہ تعالیٰ کی خاص معیت حاصل ہوتی ہے

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔

اہل اللہ اور اہل ایمان کا طریقہ اور شیوہ صبر کرنا ہی ہے کیوں کہ ان کے معبود برحق اور محبوب حقیقی کو یہی پسند ہے اور بے صبری، شکوہ و شکایت اور جزع و فزع سخت ناپسند ہے۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكرها وان طال عهدها فيحدث لذالك استرجاعا الا جدد الله له عند ذالك فاعطاه مثل اجرها يوم اصيب۔ (احمد، ابن ماجہ بیہقی، درمنثور ص ۱۵۶/۱) کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو اگرچہ اس پر ایک زمانہ گزر چکا ہو اور وہ اس کا ذکر کر کے انا للہ وانا الیہ راجعون کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے اس کو تازہ کر کے اس کو اس دن کی مثل اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جس دن اس کو مصیبت پہنچی تھی۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

ما من مصيبة وان تقادم نہیں ہے کوئی مصیبت اگرچہ اس کو ایک

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

عهدها فيجدد لها العبد الاسترجاع الاجدد الله له ثوابها واجرها۔ (درمنثور ص۱۵۶ ج۱)

زمانہ ہوگیا ہو تو بندہ جب اس کو یاد کرکے انا للہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو نیا اور تازہ کرکے اس کو پھر اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔

ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ حضرت امام پاک رضی اللہ عنہ کے ذکر مصائب پر انا للہ کہنے والے کو اس دن کی مصیبت کا سا اجر و ثواب ملتا ہے۔

قارئین حضرات گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں کہ ان اشقیا قاتلوں نے حضرت امام پاک اور آپ کے رفقاء کو شہید کرکے ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا اور گلی کوچوں میں پھرایا تھا علاوہ ازیں یہ بھی آتا ہے کہ شہدار کی کمانوں، ان کے عماموں اور بعض مستورات طیبات کی چادروں اور اوڑھنیوں کو جو انہوں نے لوٹیں تھیں اپنے جھنڈوں پر باندھ کر نقارے اور شادیانے بجاتے ہوئے بہ شکل جلوس دار الامارۃ کی طرف روانہ ہوئے تھے اس سے ثابت ہوا کہ اہلِ بیت اطہار کے متبرک ناموں کو بہ طور ہتک گلی بازاروں میں لیتے پھرنا اور علموں کو بلند کرکے نقارے وغیرہ بجانا بہت بُری بات ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ یزیدیوں کا شعار ہے۔ اسی طرح سیاہ کپڑے پہننا۔ کپڑوں کا پھاڑنا۔ گریباں چاک کرنا۔ بال بکھیرنا سر پر خاک اڑانا۔ سینہ کوبی اور رانوں پر ہاتھ مارنا اور گھوڑا اور تعزیہ وغیرہ نکالنا یہ سب ناجائز، حرام اور باطل ہیں۔ اگر یہ باتیں جائز، دلیل محبت اور باعثِ ثواب ہوتیں تو امام زین العابدین یا دیگر ائمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم ان کو کرتے کوئی ثابت نہیں کرسکتا کہ انہوں نے ایسا کیا ہو بلکہ ان سے ان کی ممانعت ثابت ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہادت کے دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانور اور داڑھی مبارک پر خاک پڑی دیکھی تو معلوم ہوا کہ اس دن سر پر خاک ڈالنا سنت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ خاک کا پڑجانا اور بات ہے اور ڈالنا اور بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خاک ڈالی نہ تھی بلکہ پڑگئی تھی کیوں کہ آپ معرکۂ کربلا کے وقت وہاں موجود تھے اور خون مبارک جمع فرمارہے تھے۔ اس وقت یقیناً

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

خاک اڑ رہی تھی اور نیز مسافت بعیدہ طے کر کے تشریف لائے تھے جیسا کہ فرمایا تھا کہ "میں بھی بین کی شہادت گاہ سے آیا ہوں"۔ اس طرح بھی گرد و غبار کا پڑ جانا ایک یقینی امر ہے۔

سید عمار علی صاحب جو حالاں کہ ایک غالی قسم کے شیعہ ہیں وہ اپنی تفسیر عمدۃ البیان میں زیر آیت و لنبلونکم بشئی الایۃ فرماتے ہیں۔ اکثر آدمی محرم میں بدعتیں کر کے ثواب کو ضائع کرتے ہیں باجے بجاتے اور بجواتے ہیں اور مرثیوں میں جھوٹی حدیثیں اپنی طرف سے ایجاد کر کے داخل کرتے ہیں اور غلوا تنقیص کی روایتوں کو جلسوں میں بیان کر کے لوگوں کے ایمانوں کو فاسد کرتے ہیں اور جو راگ کہ شرع میں ممنوع ہیں انہیں میں مرثیوں کو پڑھتے ہیں اور عورتیں بلند آواز سے مرثیوں کو پڑھتی ہیں اور نامحرم ان کی آواز کو سنتے ہیں ان امور میں مومنین کو اجتناب لازم ہے۔

شیعہ مذہب کی معتبر کتب سے ارشاداتِ ائمہ اہلِ بیت

کتاب و سنّت میں جا بہ جا مومنوں کو صبر کی ترغیب دی گئی ہے اور جزع و فزع سے منع کیا گیا ہے ائمہ اہل بیت کی بھی یہی تعلیم ہے تو اگر ہم واقعی ان سے سچّی عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور ان کے سچے پیرو ہیں تو ہمیں ان کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے چناں چہ ملاحظہ ہو!

(۱) جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر (امام محمد باقر) علیہ السلام سے پوچھا:-

ما الجزع قال اشد الجزع	کہ جزع کیا ہے؟ فرمایا ویل اور بلند آواز
الصراخ بالویل والعویل ولطم	سے چیخ مارنا یعنی واویلا اور شور کرنا اور منہ
الوجہ والصدر وجز الشعر	پر طمانچہ مارنا اور سینہ زنی کرنا اور ماتھے کے
من النواصی ومن اقام	بال نوچنا اور جس نے رونے (کی مجلس)
النواحۃ فقد ترک الصبر و	کو قائم کیا بلاشبہ اس نے صبر کو ترک کیا
اخذ فی غیر طریقۃ ومن صبر وا	اور ہمارے طریقے کو چھوڑ کر غیر طریقہ اختیار
سترجع وحمد اللہ عزّوجل	کیا اور جو صبر کرے اور انا للہ کہے اور اللہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

فقد رضی بما صنع اللہ و	عزوجل کی حمد کرے اور جو کچھ اللہ نے کیا
وقع اجرہ علی اللہ ومن	ہے اس پر راضی رہے اس کا اجر و ثواب
لم یفعل ذالک جری علیہ	للہ کے ذمہ کرم پر واجب ہو گیا اور جو ایسا
القضاء وھو ذمیم واحبط	نہ کرے جب کہ اس پر کوئی قضا واقع ہو
اللہ تعالیٰ اجرہ۔	تو وہ برا آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا
(فروع کافی ص ۱۲۱/۱)	اجر و ثواب برباد کر دیتا ہے۔

اس روایت میں جزع و فزع اور صبر دونوں کی تعریف کے ساتھ ساتھ دونوں پر عمل کے انجام کا بھی بیان ہے۔

(۲) حضرت ابو عبداللہ (امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں:۔

ان الصبر والبلاء یستبقان	بے شک صبر، اور تکلیف و مصیبت
الی المؤمن فیاتہ البلاء	دونوں مومن کو پیش آتے ہیں (جب
وھو صبور وان الجزع و	مومن کو تکلیف و مصیبت آتی ہے تو وہ
البلاء یستبقان الی الکافر	صبر کرتا ہے اور بے شک جزع اور تکلیف
فیاتیہ البلاء وھو جزوع۔	مصیبت دونوں کافر کو پیش آتے ہیں تو
(فروع کافی ص ۱۲۱/۱)	(جب) کافر کو مصیبت آتی ہے تو وہ جزع فزع کرتا ہے۔

اس روایت میں حضرت امام نے مومن اور کافر کا طرز عمل اور شناخت بیان فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ مومن کی طرف صبر اور مصیبت دونوں سبقت کرتے ہیں یعنی مصیبت کے ساتھ صبر بھی آتا ہے اس لیے مومن مصیبت کے وقت صبر ہی کا مظاہرہ کرتا ہے جزع تو اس کی طرف آتا ہی نہیں جس کا مظاہرہ ہو اور کافر کی طرف مصیبت کے ساتھ صبر آتا ہی نہیں بلکہ جزع ہی آتا ہے اس لیے کافر سے بوقت مصیبت جزع کا ہی مظاہرہ ہوتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ صبر مومن کا شیوہ ہے اور جزع و فزع کافر کا۔

(۳) حضرت امام رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ فرمایا:۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

صبر من الایمان بمنزلۃ	صبر بہ منزلہ سر ایمان ہے جب سر ہی نہ
لراس من الجسد فاذا ذھب	رہے تو جسد بھی نہیں رہتا اسی طرح جب
الراس ذھب الجسد کذٰلک	صبر جاتا رہتا ہے ایمان بھی نہیں رہتا یعنی
اذا ذھب الصبر ذھب الایمان۔	صبر اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں

(صافی شرح اصول کافی صہ ۱۷۱)

(۴) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے غسل اور تجہیز و تکفین کے وقت فرمایا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کی وفات سے وہ امور منقطع ہو گئے ہیں جو کسی اور کی وفات سے نہ ہوتے وہ امور نبوت، وحی الٰہی، آسمانی خبریں وغیرہ ہیں اور آپ کا فیض عام تھا جس سے سب لوگ یکساں مستفیض ہوئے ہیں۔

ولولا انك امرت بالصبر	اور اگر آپ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم نہ
ونھیت عن الجزع لا	دیا ہوتا اور جزع و فزع سے منع نہ کیا ہوتا
نفدنا علیك ماء الشئون	تو ہم آپ کی وفات پر اتنا روتے کہ رطوبت
(نھج البلاغۃ)	بدن خشک ہو جاتی۔

اس ارشاد میں چند باتیں قابل غور ہیں اول یہ کہ آپ کی وفات سب سے بڑا حادثہ ہے کسی اور کی وفات آپ کی وفات کے برابر نہیں ہے۔ دوم یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صراحتًہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور جزع و فزع سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم بہت ہی زیادہ روتے۔ سوم یہ کہ حضرت علی نے ایسے الم ناک موقعہ پر بھی صبر کیا اور جزع و فزع نہیں کیا کیوں کہ اس کی ممانعت تھی۔

(۵) جب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا واقعہ ہوا اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ان کو بذریعہ تحریر اطلاع فرمائی۔

فلمّا قرء الکتاب قال یالھا	تو جب انہوں نے خط پڑھا فرمایا کیسی
من مصیبۃ ما اعظمھا مع	بڑی مصیبت پیش آئی ہے لیکن رسول اللہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ان رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم قال من اصیب منکم بمصیبۃ فلیذکر مصابہ بی فان لن یصاب بمصیبۃ اعظم منہا وصدق صلی الله علیہ وآلہ وسلم۔ (فروع کافی ص۱۱۹ ج۱)

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں جس کو کوئی مصیبت پیش آجائے اس چاہیے کہ وہ میری وفات کی مصیبت یاد کرے کیوں کہ وفاتِ رسول سے بڑھ کر مسلمان کے لیے کوئی اور بڑی مصیبت نہ ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔

دیکھئے حضرت علی کی شہادت سے جس قدر صدمہ حضرت حسین کو ہوا ہوگا وہ کسی اور کو ہرگز نہیں ہوسکتا تھا مگر آپ نے شہادت کی اندوہ ناک خبر پڑھ کر بالکل جزع فزع نہیں کیا بلکہ صبر سے کام لیا اور فرمایا کہ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ جب اس اعظم مصیبت پر صبر کا حکم ہے تو پھر کسی اور مصیبت پر بے صبری کب جائز ہو سکتی ہے۔

(۶) حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں:۔

من ضرب یدہ علی فخذہ عند مصیبۃ حبط عملہ۔ (نہج البلاغۃ ص۱۸۵ ج۳)

جو مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ اپنی ران پر مارے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں

(۷) حضرت ابوعبداللہ (امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ:۔

قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم ضرب المسلم یدہ علی فخذہ عند المصیبۃ احباط لاجرہ۔ (فروع کافی ص۱۲۱ ج۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ اپنی ران پر مارتا ہے وہ اپنے اجر و ثواب کو برباد کر دیتا ہے۔

، انہی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ:۔

لا ینبغی الصیاح علی المیت

میت پر چیخنا چلانا اور کپڑے پھاڑنا لائق

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ولاشق الثیاب (فروع کافی ص ۱۲۲/۱) اور مناسب نہیں ہے۔

دوسری روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں و بکن الناس لا یعرفونہ والصبر خیر لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھتے اور صبر بہتر ہے۔

(۹) العلاابن کامل کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک مکان سے ایک چیخنے والی کے چیخنے کی آواز آئی۔ حضرت امام (ناراض ہوکر) کھڑے ہوگئے پھر بیٹھ گئے اور اناللہ پڑھ کر وہی حدیث بیان فرمائی جو اوپر مذکور ہوئی۔

ثم قال انا لنحب ان نعافی	پھر فرمایا بے شک ہمیں یہی محبوب و مطلوب
فی انفسنا و اولادنا واموالنا	ہے کہ ہماری جانوں میں اور ہماری اولاد
فاذا وقع القضاء فلیس	میں اور ہمارے مالوں میں خیر و عافیت
لنا ان نحب مالم یحب	رہے لیکن جب کوئی قضا واقع ہوجائے
اللہ لنا۔	تو پھر ہم وہی پسند کریں جو اللہ نے ہمارے
(فروع کافی ص ۲)	لیے پسند کیا ہے۔

(۱۰) سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں اپنی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔

اے بہن جو میرا حق تم پر ہے اسی کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میری مصیبت مفارقت پر صبر کرنا۔ پس جب میں مارا جاؤں تو ہرگز اپنا منہ نہ پیٹنا اور اپنے بال نہ نوچنا اور گریبان چاک نہ کرنا کہ تم فاطمہ زہرا کی بیٹی ہو جیسا انہوں نے پیغمبر خدا کی مصیبت میں صبر فرمایا تھا اسی طرح تم بھی میری مصیبت میں صبر کرنا۔ الخ

(انارۃ البصائر ص ۲۹۷/۲)

اب دیکھئے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو کیا وصیت فرمائی۔

ابن بابویہ بسند معتبر از امام محمد باقر روایت	ابن بابویہ سند معتبر امام محمد باقر سے روایت
کردہ است کہ حضرت رسولؐ در ہنگام	کرتے ہیں کہ حضرت رسولؐ نے اپنی وفات

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

وفات خود بحضرت فاطمہ گفت کہ اے فاطمہ چوں بمیرم روئے خود را برائے من نخراش وگیسوئے خود را پریشان مکن و واویلا مگو و بر من نوحہ مکن و نوحہ گراں را مطلب۔

کے وقت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے بیٹی جب میں انتقال کر جاؤں تو اپنا منہ نہ پیٹنا۔ بال نہ بکھیرنا واویلا نہ کرنا اور مجھ پر نوحہ نہ کرنا اور نہ نوحہ گروں کو بلانا۔

(حیات القلوب ص ۸۵۲/۲ فروع کافی ص ۲۱۴/۲)

اس وصیت کے مطابق ہی سیدہ نے کیا اس کے خلاف نہ کیا حضرت امام بھی سیدہ زینب سے فرما رہے ہیں کہ اپنی والدہ ماجدہ کی طرح تم بھی میری مصیبت میں صبر کرنا چناں چہ انہوں نے بھی وصیت کے مطابق کیا۔)

جلاء العیون اُردو ص ۴۷۸/۱ میں ہے کہ فرمایا :۔

اے خواہر نیک اختر خدا سے خوف لازم ہے قضائے حق تعالےٰ پر راضی رہنا چاہیے واضح ہو کہ سب اہل زمین شربت ناگوار مرگ نوش کریں گے اور ساکنان آسمان بھی باقی نہ رہیں گے مگر ذات حق تعالیٰ باقی ہے اور سب چیزیں معرض زوال و فنا میں ہیں خدا سب کو مار ڈالے گا اور پھر زندہ کرے گا فقط اسی کو بقا ہے۔ دیکھو ہمارے پدر و مادر و برادر شہید ہوئے اور سب سے بہتر تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اشرف المخلوقات تھے دنیا میں نہ رہے اور بہ جانب سرائے باقی رحلت فرمائی۔ اسی طرح بہت مواعظ اپنی خواہر سے بیان کر کے وصیت کی اور کہا اے خواہر گرامی تم کو میں قسم دیتا ہوں کہ جب میں شہید ہو کر بہ عالم بقا رحلت کروں گریبان چاک نہ کرنا اور منہ نہ نوچنا واویلا نہ کہنا ۔ ۔ ۔ ۔ (ص ۲۰۱/۱ میں ہے) اور بہ صبر و شکیبائی حکم فرما کے بہ وعدہ ثواب ہائے غیر متناہی الٰہی تسکین دے کر ارشاد فرمایا چادریں سر پر اوڑھ لو اور آمادۂ لشکر مصیبت و بلا رہو کہ خدا ہی تمہارا حامی و حافظ ہے شر اعدا سے تم کو وہی نجات دے گا اور تمہاری عاقبت بخیر کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو بہ انواع عذاب و بلا مُبتلا کرے گا اور **تمہیں ان بلاؤں مصیبتوں کے عوض دُنیا و عقبیٰ میں بہ انواع نعمت و** کرامت ہائے بے اندازہ سرفراز فرمائے گا ہرگز ہرگز صبر و شکیبائی سے دست بردار نہ ہونا اور کلام ناخوش زبان پر نہ لانا کہ موجب نقصِ ثواب ہو گا۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

(۱۱) جامع عباسی اردو مطبوعہ مطبع یوسفی دہلی کے صفحہ ۲۶ میں ہے۔

مکروہ ہے سیاہ لباس پہننا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق تعالے نے ایک نبی کے پاس وحی بھیجی کہ مومنوں سے کہہ دے کہ میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنیں۔ یعنی کالے کپڑے۔

(۱۲) سئل الصادق علیہ السّلام عن الصلوٰۃ فی القلنسوۃ اسود فقال لا تصل فیھا لانھا لباس اھل النار وقال امیر المؤمنین لاصحابہ لا تلبسوا السواد فانہ لباس فرعون الخ (من لا یحضرہ الفقیہ ص۱۵)	حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سیاہ ٹوپی پہن کر نماز درست ہے؟ فرمایا سیاہ ٹوپی پہن کر نماز نہ پڑھیے کیوں کہ سیاہ لباس دوزخیوں کا ہے اور امیر المومنین حضرت علی نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کالے کپڑے نہ پہنو کیوں کہ یہ فرعون کا لباس ہے۔

یہ آئمہ اہل بیت کے اثنا عشر یعنی بارہ[۱۲] ارشادات ان کے مبارک عدد کے مطابق اثنا عشریوں کی خدمت میں خود اُن کی نہایت معتبر کتب سے ہدیہ ہیں ان میں بارہ ارشادات میں واضح طور پر بارہ ہی ہدایات ہیں۔

۱۔ مصیبت کے وقت صبر و شکیبائی ہرگز نہ چھوڑو کہ مصیبت پر صبر ہی مومن کا شیوہ اور نشانی ہے۔

۲۔ مصیبت کے وقت جزع و فزع یعنی چیخنا چلانا واویلا و شور کرنا یہ کافروں کا شیوہ اور نشانی ہے۔

۳۔ مصیبت کے وقت منہ نہ پیٹو۔

۴۔ سینہ زنی (ماتم) نہ کرو۔

۵۔ بال نہ بکھیرو۔

۶۔ بال نہ نوچو۔

۷۔ ننگے سر نہ ہو۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

۸ ۔ رانوں پر ہاتھ نہ مارو ۔

۹ ۔ کپڑے نہ پھاڑو گریبان چاک نہ کرو ۔

۱۰ ۔ زبان پر کلام ناخوش یعنی رضائے الٰہی کے خلاف بول نہ لاؤ ۔

۱۱ ۔ رونے کی مجلسیں قائم نہ کرو کہ یہ سب صبر و رضا کے خلاف ہیں اور اسلام میں صبر و رضا کا حکم ہے ۔

۱۲ ۔ کالے کپڑے نہ پہنو کہ یہ دوزخیوں اور فرعون کا لباس ہے ۔

اب دیکھئے کون ضد، ہٹ دھرمی اور جہالت کو چھوڑ کر ائمہ کرام کی سچی عقیدت و محبت اور پیروی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ہدایات پر عمل کرتا ہے اور کون تاویلاتِ فاسدہ کر کے اپنا ایمان اور اعمال تباہ کرتا ہے ۔

بعض لوگوں نے نہایت ناانصافی کرتے ہوئے لکھ دیا ہے کہ صحیح روایات کے ساتھ ذکر شہادت کرنا بھی تشبہ روافض کی وجہ سے حرام ہے، نیز حدیث میں مرثیوں کے پڑھنے کی ممانعت ہے ۔

اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اوّل تو ذکر شہادت حسنین کریمین کرنا ہرگز ہرگز روافض کا شعار نہیں بلکہ اہل سنت وجماعت بھی ذکر شہادت کرتے ہیں البتہ خوارج ذکر شہادت نہیں کرتے بلکہ ذکر شہادت سے جلتے ہیں اور اسے سخت ناپسند کرتے ہیں تو ذکر شہادت سے روکنے والے خوارج سے مشابہت کرنے والے ٹھہرے ۔ دوم ! روافض تو صحیح روایات کے ساتھ ذکر شہادت کرتے ہی نہیں وہ تو اکثر جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کی شانِ رفیع کے ہرگز لائق نہیں ہوتیں مثلاً انہوں نے منہ سر پیٹ لیا ۔ گریبان چاک کر دیا وغیرہ اور وہ مرثیے بھی ایسے پڑھتے ہیں جن میں احوالِ واقعی نہیں ہوتے بلکہ جھوٹ اور بہتان زیادہ ہوتا ہے نیز وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین و تنقیص کرتے ہیں علاوہ ازیں ان کی مجالس میں نوحہ ۔ ماتم اور بہ تکلف رلانا وغیرہ ہوتا ہے اور اہل سنت وجماعت کی مجالس میں شان صحابۂ کرام بھی بیان ہوتی ہے اور روافض کے الزامات اور بہتانات کا جواب بھی ہوتا ہے اور ذکر شہادت صحیح روایات کے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ساتھ ہوتا ہے، اور ماتم وغیرہ بالکل نہیں ہوتا تو مشابہت کیسے ہوئی اور حدیث میں جن مرثیوں کی ممانعت ہے وہ وہی مرثیے ہیں جن میں واہی تباہی غلط باتیں ہوں اور جن میں احوال واقعی ہوں تو اس قسم کے مرثیے اور اس قسم کے ذکر و مواعظ کی ہرگز ممانعت نہیں ہے یہ بالکل جائز ہے۔ حدیث شریف میں ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمۃ کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے اور سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تو صالحین کے امام ہیں ان کے ذکر مبارک کے وقت تو بلاشبہ کثیر رحمتیں نازل ہوتی ہیں نیز ان کی محبت ہر مومن پر واجب ہے تو ایسے محبوبوں کے مصائب پر بوجہ درد محبت دل بھر آئے اور بلا قصد و اختیار رقت طاری ہو جائے اور آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں تو یہ رونا بھی عین رحمت اور علامتِ محبت و ایمان ہے۔ البتہ جزع فزع اور سینہ زنی وغیرہ بلاشبہ حرام و ناجائز ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔

حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

اے عزیز! جان تو کہ لوگ روتے اور اندوہ گین جو ہوتے ہیں اس کے سبب سے صبر کی فضیلت نہیں جاتی بلکہ چیخیں مارنے کپڑے پھاڑنے بہت شکایت کرنے سے البتہ صبر کا ثواب جاتا رہتا ہے (اکسیر ہدایت ترجمہ کیمیائے سعادت ص ۴۵۹)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بعض صحابہ نے اس رونے کو بے صبری خیال کر کے عرض کیا حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا یہ بے صبری نہیں (درد محبت سے بے اختیار اشک بہنا) یہ تو رحمت ہے پھر فرمایا۔

ان العین تدمع والقلب	بے شک آنکھیں بہہ رہی ہیں اور دل
یحزن ولا نقول الا ما یرضیٰ ربنا	غمگین ہے مگر ہم وہی کہیں گے
وانا بفراقک یا ابراھیم	جس سے ہمارا رب راضی ہو، اے ابراہیم
لمحزونون ۔	ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔

(مشکوٰۃ)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ذکر شہادت کے مختصر فوائد

ذکر شہادت میں صحابہ واہل بیت خصوصاً امامین کریمین کے فضائل کا تذکرہ حرمت دین و مذہب کو قائم رکھنے کے لیے میدان میں نکلنا اور اعلائے کلمۃ الحق کرنا۔ دین کی عزت وحرمت اور استحکام کے لیے لرزا دینے والے مصائب برداشت کرکے دین کی عزت کی اہمیت ظاہر کرنا اور مصائب پر صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑنا۔ احباب اعزا و اقربا اولاد اور خود اپنی جان تک قربان کر دینا مگر باطل کے سامنے نہ جھکنا۔ عزیزوں کی لاشیں خاک وخون میں پڑی دیکھ کر بھی زبان پر حرف شکایت نہ لانا بلکہ ہر حالت میں حمد الٰہی کرنا۔ پسماندگان کو انتہائی بے کسی کی حالت میں دیکھ کر بھی راہِ حق میں ہمت نہ ہارنا۔ راضی بہ رضائے الٰہی رہنا۔ امتحان اور مقامِ صدق وصفا میں ثابت قدم رہنا۔ ان باتوں کے بیان سے سامعین کے قلوب میں جہاں امام پاک کی محبت و عظمت اور آپ کے مقام کی معرفت پیدا ہوتی ہے وہاں رضائے الٰہی کے حصول۔ دین کی عزت وحرمت کی اہمیت اور اس کے لیے جانی و مالی قربانی دینے اور راہِ حق میں ثابت قدم رہنے کا ولولہ انگیز جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

دوسری طرف کوفیوں کی بے وفائی۔ صرف زبانی کلامی محبت کے دعوے بے کار محض اعزاز دنیوی کی خاطر عاقبت کی بربادی۔ خاندان نبوت کے ساتھ گستاخی و بے ادبی پر عذاب الٰہی کا شکار ہونا۔ دنیا ہی میں اس کا انجام بد دیکھنا۔ خاصان خدا کے وصال پر زمین و آسمان کا رونا اور ان میں تغیرات کا رونما ہونا۔ مظلومانہ قتل کے بدلے ہزارہا لوگوں کا قتل ہونا وغیرہ سُن کر سامعین سبق و عبرت حاصل کرتے ہیں اور اہل اللہ کی اہانت اور ان کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرنے اور دنیا کی خاطر دین کی بربادی وغیرہ کرنے سے بچتے ہیں۔ غرض کہ بہت سے فوائد ہیں۔

ان مجالس کے ذریعے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح ہوتی ہے بشرطیکہ ذکر شہادت کرنے والے علماء دیانت و صداقت کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حق بیان کریں۔ خواہ مخواہ غلط استدلال اور نامناسب باتوں سے فتنہ وفساد اور افتراق کی راہیں ہموار نہ کریں۔ انہی مجالس میں لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فرزند رسول سے عقیدت ومحبت کے تقاضے محض چند رسموں کے بجالانے سے پورے نہیں ہوتے بلکہ امام عالی مقام کے ذکر شہادت کو سن کر ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ امام پاک نے جس طرح میدان کربلا میں حق پر استقامت، صبر ورضا اور تسلیم ووفا کا بہ تمام وکمال علی مظاہرہ فرما کر رضائے الہٰی کا بلند ترین درجہ ومرتبہ حاصل کیا۔ انشاء اللہ ہم شریعت و سنت مصطفویؐ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے سچے پکے پابند ہو کر نیکی و بھلائی پر استقامت اختیار کریں گے اور حق وصداقت کے تحفظ، دین وایمان کی سلامتی اور تقویٰ کی بقاء کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور اپنے قول وفعل کو امام پاک کی سیرت و تعلیمات کے مطابق بنا کر ان کے نصب العین کو باقی اور زندہ رکھیں گے ؎

اسی مقصد کو زندہ یادگار کربلا سمجھو　　حسین ابن علی کی زندگی کا مدعا سمجھو

رمز قرآں از حسین آموختیم
زآتش او شعلہ ہم اندوختیم

الحمد للہ کہ اس عاجز سگ کوچۂ اہل بیت اطہار نے حقائق کے ساتھ صحیح واقعات کربلا اور چند ضروری متعلقہ مسائل تحریر کیے ہیں تاکہ برادران اسلام غلط روایتوں اور من گھڑت کہانیوں کی بجائے اصل واقعات سے آگاہ ہو جائیں اور ان سے سبق وعبرت حاصل کریں۔

آخر میں جگر گوشۂ رسول اللہ، نور نگاہ سیدہ فاطمہ زہرا، لخت دل سیدنا علی مرتضیٰ، راحت جان سیدنا حسن مجتبیٰ، روح اسلام جان ایمان، خلاصۂ شہادت، شیر بیشۂ شجاعت پیکر صبر ورضا، جان صدق ووفا، شہزادۂ کونین سید الشہداء حضرت سیدنا ومولانا امام حسین صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیٰ جدہ وعلیہم اجمعین کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اے سردار نوجوانان جنت محض لوجہ اللہ تعالیٰ، صدقہ اپنے پیارے نانا جان فخر آدم و بنی آدم رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم حضور اکرم حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

آلہ واصحابہ وبارک وسلم کا، مجھ نالائق، گناہ گار پر نگاہِ لطف وکرم رکھنا، قیامت کے دن اپنے رؤف ورحیم اور کریم نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میری اور میرے اہل خانہ کی شفاعت فرمانا اور ہر ذلت ورسوائی سے بچانا۔ رب کریم آپ پر کروڑوں رحمتیں فرمائے ؎

۱۔ نورِ نگاہِ سرورِ عالم میرا سلام — اسلام کے شہیدِ معظم میرا سلام
۲۔ دینِ خدا کی حجت محکم میرا سلام — اے کربلا کے فاتحِ اعظم میرا سلام
۳۔ لاکھوں سلام راکبِ دوشِ رسول پر — عاجز کی طرف سے ہوں پورِ بتول پر

محتاج نظر کرم محمد شفیع اوکاڑوی غفرلہٗ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

صاحبانِ ذوق و محبت اور اربابِ فکر و نظر

مژدۂ جانفزا

سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر

حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے

بہار آفریں قلم سے نکلا ہوا لازوال شاہکار

درد و سوز اور تحقیق و آگہی سے معمور تصنیف

ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

مکمل سیٹ سات جلدیں

ضیاء القرآن پبلی کیشنز ○ لاہور

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

قرآن ○ کتاب ہدایت ہے
قرآن ○ مکمل ضابطہ حیات ہے
قرآن ○ ہماری دنیوی اور اخروی کامیابی کا ضامن ہے

آئیے
قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں

پیر محمد کرم شاہ صاحب ازہری کی معرکہ آرا تفسیر

ضیاء القرآن

کتبہ گوہر قلم

خوبصورت ترجمہ

بہترین تفسیر

فہم قرآن کا بہترین ذریعہ ہے

ترجمہ: جس کے ہر لفظ میں اعجازِ قرآن کا حسن نظر آتا ہے

تفسیر: اہلِ دل کے لیے درد و سوز کا ارمغان

ضیاء القرآن پبلی کیشنز ○ گنج بخش روڈ لاہور

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

مجدد مسلک اہلسنت خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف

ذکر جمیل

نغمۂ حبیب

انگوٹھے چومنے کا مسئلہ

ذکر حسین

درس توحید

مسلمان خاتون

راہ عقیدت

برکات میلاد

اخلاق و اعمال

راہ حق

ثواب العبادت

مقالات اوکاڑوی

مسئلہ طلاق ثلاثہ

شام کربلا

انوار رسالت

سفینۂ نوح

تعارف علمائے دیوبند

ضیاء القرآن پبلی کیشنز